

روايات فلسفية

علی عباس جلالی پوری

فوج

فہرست

پیش لفظ	1
مادت پسندی	2
مثالیت پسندی	3
نو فلاطونیت	4
تجربیت اور متعلقہ تحریکیں	5
ارادت	6
ارتقائیت	7
جدلی مادت پسندی	8
موجوئت پسندی	9

”کسی شخص پر

اس سے بڑی اور کوئی مصیبت

نازل نہیں ہو سکتی

کہ وہ عقل و خرد کی مخالفت کرنے لگے“

(مکالمات افلاطون)

پیش لفظ

روايات فلسفہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ فلسفے کے مطالب کو عام فہم پرائے میں پیش کیا جائے تاکہ ان سے وہ حضرات بھی متّبع ہو سکیں جنہیں فلسفے کے مطالعے کا موقع نہیں مل سکا۔ راقم نے اس کام کو سهل جانا تھا لیکن قلم ہاتھ میں لیتے ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ فلسفے کو ملیس زبان میں لکھنا خاصاً کٹھن ہے۔ اپنی اس مشکل پر غور کرتے ہوئے راقم کو ایک حکایت یاد آگئی۔ آدھیڑ عمر کے ایک یہودی ربائی نے ایک نوجوان عورت سے نکاح کیا۔ اس کی پہلی سال خورده بیوی بھی موجود تھی۔ جب وہ نوجوان بیوی کے پاس جاتا تو وہ اس کی ڈاڑھی کے سفید بال نوچنا شروع کر دیتی تاکہ وہ جوان دکھائی دے اور جب وہ پہلی بیوی کے پاس بیٹھتا تو وہ اس کی ڈاڑھی کے سیاہ بال نوچنا شروع کرتی تاکہ وہ بُذھا دکھائی دے۔ راقم کو بھی کچھ اسی قسم کا اندیشہ لاحق ہے جو قارئین روایات فلسفہ کو آسان کتاب سمجھ کر پڑھیں گے ممکن ہے انہیں بد شکایت ہو کہ بعض مقامات بدنستور مشکل ہیں اور فلاسفہ کہیں گے کہ راقم نے فلسفے کو عامیانہ بنانا ہے کہ ان حضرات کے خیال میں وہ فلسفہ ہی کیا جو سلیس زبان میں لکھا جائے اور ان کے علاوہ کسی اور کی سمجھے میں بھی آسکے۔ ہیگل نے کہا تھا ”میرا فلسفہ میرا صرف ایک بی شاگرد روزن کرانز سمجھا ہے اور وہ بھی غلط سمجھا ہے“۔ فلسفے کے مطالعے سے انسانی ذہن کی فکری قوتیں ییدار ہو جاتی ہیں اور وہ ان سوالات پر غور کرنے لگتا ہے جو صبح تاریخ سے انسان کو پریشان کر

کائنات کی سیلوں کو اسلام کی دینیتی میں انسان کا عالم کہا جائے
کیونکہ کائنات میں سبھی عالم کے عالم کی طبقہ میں انسان کا عالم
کہ اس کائنات کو اسلام کی دینیتی میں اور خواہودی میں کوئی
نہ مل جائے؟ لیکن موجوداً
کیا کائنات بین کرنی ذی شعور آنکی قریب
طاری و ماری بھیت سید نویں نہیں کر رہی ذی شعور آنکی قریب
نہ خاتم کیا ہے؟ اختلافت ہوا رہے ہے اما کائنات مولیٰ کی سطح پر دینیتی و اس کی
کائنات اول میں موجود ہے کبھی کیا ہے؟ عالم کا اول
خط عظیم ہے لیکن اسی ہے
زمان کی حرکت و گردش درلای ہے یا
اجرام بینی اور کام و ملازمتیوں کی کائنات کا آغاز ہے اور امن کا
ہی اسی کائنات کا انتہا ہے اور اپنا عوامی زمان ہے اور ایک تجھ باتیں رسمیں اور
ذین فرماندوں کیا ہے؟ اسی اہم ترین اول بھی کی ذین فرمانے کی پیداوار ہے یا مادے کی
ہے تو یہ پور پستہ داخلیں پیدا ہوں یا مالیاتیوں پر پہنچ دیں؟ اگر نہیں تو
امان میڈی ہے یا اٹھی ہے؟ اسی اجراء کی وجہ سے تو ہے جستہ داخلی
قدر والیں بینی کیا فرق
اگر بڑا ہے تو اس کے گرد کوئی خوشی کے علم و اخبار مدد کیا گرفت
تو زینہ علاقہ ہے جو شعلے
دیج کیا ہے؟ کیا روح کا جسم کے ساتھ
ادھر شعلہ پین گکر رہ کیا ہے؟ دیج کا ستم کے عالم کی طبقے ہے تکمیل اور جو عشق ہے
مروت اگر بیٹھ کھویں اور عالم کی افسوس میں اپنے اسی خود کو ختم کر دیں داخلیوں ہے اور
روح خارج سے جسم میں داخل ہے کوئی لوث حلقہ کیتے ہوئے کسی اور عالم
اویککو رنجیں نہیں دیتے ہے۔
خسیر کیا اشیے ہے؟ کیا بخیز و شر کا مبد
ناحیل کے انواع کی تعداد ایسا کیا تھی و میر کیمیوں کی تعداد ایسا ہے؟ میر وہی ہے یا
خود خود کی اسلام پر دیکھی ہے یا حاصل کے اثرات کی پہنچوں

حسن کیا ہے؟ حسن موضوع میں ہوتا ہے یا معروض میں؟

فرد اجتماع کے لیے ہے یا اجتماع فرد کے لیے ہے؟

کیا انسان کے تمام اعمال کا محرك حصول لذات کی خواہش ہے یا

کیا وہ بلند تر نصب العینوں کی کشش بھی محسوس کرتا ہے؟

مسرت کیا ہے؟ مسرت کا سر چشمہ انسان کے اپنے بطنوں ہی میں

ہے یا وہ دوسروں کو مسرت پہنچا کر امن سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے؟

اخلاقی قدریں کیا ہیں؟ کیا اخلاق مذہب کی ایک فرع ہے یا ایک

مستقل شعبہ علم و عمل ہے -

صداقت کیا ہے؟

یہ ہیں وہ مسائل جن کے تجزیے اور تحلیل میں نوع انسان کے بعض

بہترین دماغوں کا زور صرف ہوا ہے -

یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ بعض لوگ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور اپنے اعمال و عقاید کے محاسبے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کے تمام درجیے، روزن اور دروازے اس مضبوطی سے بند کر لیتے ہیں کہ تازہ ہوا کے جھونکے اس میں بار نہیں پا سکتے اور در دیوار کے ساتھ سر پٹک کر رہ جاتے ہیں۔ روایات فلسفہ اس توقع کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ چند ایک روزن اور درجیے کھل جائیں گے اور چند ایک تازہ ہوا کے جھونکے بند کوٹھڑوں میں بار پا سکیں گے۔ نئے نئے خیالات آدمی کے دل و دماغ میں بلچل پیدا کرتے ہیں۔ نئے نئے خیالات کا نفوذ شدید ذہنی کرب کا باعث بھی ہوتا ہے لیکن دیانت اور جرأت سے کام لے کر ایسے نئے خیالات کو قبول کر لیا جائے جن کی صداقت آشکار ہو جکی ہے تو یہ کرب مسرت میں بدل جاتا ہے اور اس سے بڑی مسرت کا کم از کم راقم کو کوئی تجربہ نہیں ہے -

مادیت پسندی

ہمارے زمانے کے ایک جو من نلسن ایوکن نے کہا ہے کہ مادیت پسندی ای اصطلاح تاریخ فلسفہ میں سب سے پہلے رابرت بوئل نے ۱۶۴۳ء میں وضع کی تھی لیکن مادیت پسندی کا انداز نظر اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود فلسفہ کہ فلسفے کا آغاز ہی مادیت پسندی سے ہوا تھا چنانچہ ابتدائی دور کے آئونی فلاسفہ کو ہیولائی کہا گیا ہے جس کا لغوی معنی مادیت پسند ہی کا ہے۔

آئونا ایشیانے کوچک میں بحیرہ روم کے ساحل پر ایک شہری ریاست تھی جس کے شہریوں کو بابل اور مصر کے اہل علم سے ربط ضبط کے موقع ملتے رہتے تھے اُس زمانے میں مصر اور بابل سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے اور یونان کے طلبہ اپنی علمی پیام بھانے کے لیے ان مالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں ان مالک کے تہذین صدیوں کے عروج کے بعد رو بہ تنزل ہو رہے تھے لیکن آن کے ہروہتوں اور چاربیوں نے انہی معبدوں میں علم و فن کی شمع روشن کر رکھتی تھی۔ بابل کے صابین اندری راتوں کو مندروں کے متاروں پر یعنی کر سیاروں کی گردش کا مشاہدہ کیا کرتے کیونکہ وہ انہیں انہی دیوتا سمجھتے تھے اور انہی آپ کو آن کے احوال سے باخبر رکھنا چاہتے تھے۔ ان مشاہدات سے انہوں نے عام پیش کے اصول مرتب کیے۔ آن کی پیشیت آخر تک مذہب کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی اور آمن پر سحر و طسم کے دیبیز پردازے پڑے رہے۔ بہرحال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی صحیح پیش گوئیاں کرنے پر قادر تھے۔ ان پیش گوئیوں کا سب سے اہم مصرف آن کے ہاں یہ تھا کہ عوام کو خوف زدہ کر کے آن کے ذہن و قلب پر انہا تسلط برقرار رکھا جائے۔ وہ جب اس قسم کی پیش گوئی کرنے تو اس کا مفہوم یہ لیا جاتا تھا کہ آفتاب دیوتا یا چاند دیوتا کو تاریک کے عفریت نکلنے والے ہیں اور جب تک پروپت بعل مددوخ یا عشتار دیوی کی مناجات میں منتر نہیں پڑھیں گے دنیا سورج اور چاند کی روشنی سے معروف ہو جائے گی۔ اس طرح انہوں نے سائنس کو اپنی غرض برآری کا وسیلہ بنایا رکھا تھا۔ تحقیقی علوم پر ہروہتوں کا یہ اجرا صدیوں تک برقرار رہا اور عوام آن سے بھرے یاں ہو سکے۔ غالباً تاریخ تہذین کا سب

(۱) - Materialist

(۲) - Hylicist (لفظ ہیولی یونانی الاصل ہے)

سے انقلاب آفرین واقعہ ہے ہے کہ شہر آٹونا کے ایک شہری طالیں (۶۲۳ - ۵۰) ق - م) نے اس آئنی اجارا داری کو توڑا۔ سائنس معبدوں اور ہمکلوں کی چار دیواری سے نکل کر عوام کے مدرسوں تک پہنچی اور اس ہر مذہب قدیم اور جادو کے اوہاں خرافات کے جو بردے ہڑے ہوئے تھے دیکھتے آئے گئے۔ طالیں ہالمدوں سے لیش باب ہوا تھا۔ اُس سے سورج گھن کی صحیح پیش کوئی کی اور انہی طلبہ کو ہشت کے اصول سکھائے۔ بیرون ڈوٹس کہتا ہے کہ طالیں جسے فلسفے اور سائنس کا ہانی کہا جاتا ہے فنیق الاصمل ایشیائی تھا اور آس کا شار عہد قدیم کے سات مانے ہوئے دانشمندوں میں ہوتا تھا۔ ایشیائیوں کی بدقدستی سے ایرانیوں نے ایشیائی کوچک بڑ تاخت و تاراج کا آغاز کیا تو آٹونا کے شہری خوف زدہ ہو کر یونان کے شہروں میں ہناہ گزیں ہوئے اور انہی ساتھ فلسفے اور سائنس کے اصولوں کو بھی لیتھے گئے۔ آن کی تدریس سے جس فلسفے نے جنم لیا بعد میں آئے ”یونانی فلسفہ“ کا نام دیا کیا۔ بہر کیف جب سائنس مذہب اور جادو کے تعریف سے آزاد ہوئی اور لوگوں نے مسائل نظرت پر آزادانہ غور و فکر کرنا شروع کیا تو سوال پیدا ہوا کہ جب کائنات کو بعل مردوخ یا آمن رع نے نہیں بنایا تو آخر یہ کیسے معرض وجود میں آگئی اور اس کی اصل کیا ہے؟ طالیں نے اس سوال کا جواب علم الاصنام کے فسانہ ہائے تکوین و تخلیق سے قطع نظر کر کے طبیعی زبان میں دیا اور کہا کہ کائنات پانی سے بنی ہے۔ طالیں کا ایہ ”آبی فلسفہ“ اس لیے اہم نہیں ہے کہ ہانی کو کائنات کی اصل قرار دے کر طالیں نے کوئی بڑا علمی کارنامہ انجام دیا تھا بلکہ امن لیے عہد آفرین سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تاریخ عالم میں پہلی مرتبہ تکوین عالم کی خالص تحقیقی و علمی توجیہ کی۔ طالیں کی بیرونی میں دوسرے اپل علم نے بھی تکوین عالم کے طبیعی اسباب کی جستجو کی۔ ریاست ملیش کے ایک شہری اناکسی مینیٹر نے کہا کہ کائنات پانی سے نہیں بنی بلکہ بد ایک لامحدود زندہ شیئے ہے۔ ابتداء میں حرکت کے باعث اس کے نکٹے نکٹے ہو گئے اور کائنات کے مظاہر عالم وجود میں آئے۔ اناکسی مینیٹر کو ڈاروں کا پیش رو کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے ماحول سے موافقت اور بتائے اصلاح کے ابتدائی تصورات پیش کیے تھے۔ وہ کہتا ہے:

”ذی حیات مخلوق تم آلود عنصر سے پیدا ہوئی جب کہ آفتاب نے آسے بھاپ بننا کر آڑا دیا تھا۔ ابتداء میں انسان بھی دوسرے جانوروں کی طرح تھا یعنی پچھلی کی صورت میں۔ ابتدائی حیوانات تکی سے پیدا ہوئے۔ ان کی جلد خاردار تھی۔ بعد میں زیادہ خشک جگہوں پر جا پہنچ۔“

اناکسی مینیٹر انسان کے حیوان سے ارتقاء پنیر ہونے کی ایک دلیل یہ دیتا ہے کہ انسان کا بعض دوسرے حیوانات کی طرح پیدا ہوتے ہی اپنی خوراک تلاش نہیں کر سکتا اور آس کا دودھ پتی کا عرصہ زیادہ طویل ہوتا ہے۔ اگر وہ شروع ہی سے ایسا ہوتا

تو کبھی زندہ نہ رہ سکتا۔ امن لیجے وہ حیوان ہی کی ترقی یا نئی صورت ہے۔ اناکسی مینٹر کی یہ اولیت بھی ہے کہ سب سے پہلے آس نے فلاسفہ ثر میں لکھا تھا۔ ایک اور مفکر اناکسی منیس نے طالیس اور اناکسی مینٹر سے اتفاق کیا کہ کائنات کا اصل اصول مادی ہے لیکن آس نے کہا کہ یہ اصول اول ہوا ہے اور زمین ہوا کی طشتی لہ تیر رہی ہے۔

اہنگانی دور کے فلاسفہ میں بیریقلیس (۵۳۵ - ۴۲۵ ق - م) خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آس نے دعویٰ کیا کہ کائنات آگ سے بنی ہے۔ کہتا ہے : ”یہ عالم ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے۔ اسے کسی دیوتا یا انسان نہ نہیں بنایا۔ یہ پیشہ سے ہے اور ابدی آتش کی صورت میں پیشہ رہے گا۔ اس کے بعض حصے روشن ہوتے رہتے ہیں اور بعض مجھتے رہتے ہیں۔

بیریقلیس نے ازلی وابدی آتش کو جسمی وہ بعض اوقات سانس کہہ کر پکارتا ہے روح کا جو پر قرار دبا ہے۔ آس کے خیال میں روح آتش اور آب سے مر کب ہے۔ آتش ارفع ہے اور آب اسفل ہے۔ وہ عقل اور حواس میں تمیز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف عقل سے تکوین عالم کے قانون معلوم کیجے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آفاق ذین جس سے مراد وہ آتش ہی لینا ہے تمام کائنات پر متصرف ہے۔ بیریقلیس مسلسل تغیر کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے پر وقت تغیر پذیر ہے بیریقلیس کے اقوال بھی آس کی دانشمندی پر دلالت کرتے ہیں۔

”تم ایک ہی دریا میں دو دفعہ قدم نہیں رکھ سکتے کہ ہر لمحہ نیا پانی آتا رہتا ہے“ :

”ہر روز ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔

”ہم ہیں اور نہیں ہیں۔“

الیاطی فلاسفہ زینو اور پارمی نائیڈیس جن کا ذکر تفصیل سے مثالیت کے ضمن میں آئے گا کہتے تھے کہ صرف وجود حقیقی ہے اور وہ ثابت ہے۔ تغیر و تبدل محض نگاہ کا فریب ہے۔ بیریقلیس یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ تغیر و تبدل حقیقی ہے وجود و ثبات فریب نظر ہے۔ ہر شے پر وقت تغیر پذیر ہو رہی ہے۔ آس کا ایک اور معکر کہ آراء نظریہ یہ تھا کہ ہر شے اپنے بطون میں اپنی صدر کھنچتی ہے۔ اضداد کی پیکار اور آوبیش میں حرکت اور زندگی کا راز مخفی ہے۔ یہ پیکار نہ ہو تو عالم میں کسی شے کا وجود نہ ہو۔ اسی بنا پر آس نے جنگ کی تعریف کی ہے اور کہا ہے ”جنگ ہر شے کی خالق ہے اور ہر شے پر سلط ہے۔“

تغیر و تبدل کو حقیقی سمجھنے اور اضداد کی پیکار کے یہ تصورات ہی۔ گل کے واسطے سے فلاسفہ جدلی مادیت کے اساسی افکار بن چکے ہیں۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ بیریقلیس کا ایک اور اہم عقیدہ یہ تھا کہ واقعات ہی کائنات کے اساسی اصول ہیں اور ہر واقعہ گربزان اور وقتی ہوتا ہے۔ بقول بیرنرند رسل جدید طبیعتیات نے بیریقلیس کے اس خیال کی تصدیق کی ہے۔ بیریقلیس حریت فکر اور آزادی رائے

کا علم بردار تھا۔ اس کا قول ہے:

”عوام کو انہی قوانین کی حفاظت کے لیے اتنی ہی تن دہی سے لڑنا چاہیے جتنا کہ شہر پناہ کی حفاظت کے لیے۔“

اس کی نفسوں بصیرت کا اندازہ اس قول سے ہوتا ہے:
”انسان کا کردار ہی اُس کا مقترن ہے۔“

اس فکر انگیز مقولیٰ ہر جتنا غور کیا جائے اس کی صداقت کے اتنے ہی زیادہ عجیب و غریب پہلو منکشf ہوتے ہیں۔ زینوفیس نے جسے الاطی فلسفی کا بانی کہا جاتا ہے دیوتاؤں کے تصور کی تردید کی اور کہا کہ خدا انسان اوصاف سے عاری ہے۔ وہ خدا اور عالم کو ایک ہی سماج ہے اور کہتا ہے ”عالم ہی خدا ہے۔“ یہ تصور وحدت وجود کا ہے جسے الاطی فلسفی کا اصل اصول سمجھا جاتا ہے۔

ایمیٹی دکلیس (۳۲۵ - ۴۹۵ ق-م) نے عناصرِ اربعہ کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے طالیس، اناکسی مینس، بیریقلیس اور زینوفیس کے نظریات کا استزاج پیش کیا اور کہا کہ عالم آگ، ہوا، مٹی اور بانی سے بنتا ہے۔ وہ مادے کو ازلی وابدی اور غیر مخلوق مانتا ہے۔ عناصرِ اربعہ کی ترکیب بعد میں وضع کی گئی تھی۔ ایمیٹی دکلیس انہیں ”اصول اول“ کہتا تھا۔ ایمیٹی دکلیس کا عقیدہ ہے کہ انہی چار عناصر کی ترکیب و انتشار سے اشیاء معرض وجود میں آتی ہیں اور فنا پنیر ہوئے ہیں۔ اس کے خیال میں محبت اور نفرت یا تو اتفاق و انتشار کے باعث اشیاء میں حرکت پیدا ہوئے ہے۔ وہ قلماء یونان کی طرح زمانے کی گردش کو دو لابی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ عالم کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی اختام ہوگا۔ وہ فیناغورس کی طرح تنازع ارواح کا بھی قائل ہے۔ اس کے خیال میں انسانی روحیں چولا بدلتے ہیں اور حیوانات اور درختوں کے قالب میں چلی جاتی ہیں۔ اس نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی علمی توجیہیں کی اور کہا کہ چاند سورج کی منعکس روشنی سے دمکتا ہے اور سورج گرہن چاند کے درمیان میں حائل ہونے سے لگتا ہے۔

اس عہد کے ایک اور مشہور فلسفی اناکا غورث نے کہا کہ ایک آفاقی ذہن جسے وہ ”نوس“ کا نام دیتا تھا کائنات میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ ارسٹو کے خیال میں یہ ”نوس“ غیر مادی ہے۔ زیبر اور ارٹیان اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن گروٹ اور برنشت کہتے ہیں کہ یہ ”نوس“ مادی اور طبیعی قوت ہے۔ آئونی فلاسفہ کی مادیت کی روایت جس کا آغاز طالیس سے ہوا تھا یوکپس اور دیما قریطس کے فلسفے میں نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ ان فلاسفہ نے ایک یا متعدد دیوتاؤں کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ ان عقاید نے انسان پر دپشت طاری کر رکھی ہے۔ دیما قریطس ابتدائی دور کے طبیعی فلاسفہ کی طرح عقلیت پسند ہے اور کہتا ہے کہ روح اور عقل ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ اسی طرح اس نے روح کے وجود اور جہات بعد موت کے تصور سے انکار کیا۔ تکوین کائنات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ کائنات سراسر مادی ہے۔ اس کے خیال میں مادی

حقیقتیں دو بیم (عربوں نے امن کا ترجمہ اجزاء لایتھری سے کیا یعنی ایسے اجزاء جن کی مزید تقسیم ممکن نہ ہو سکے) اور خلاۓ مکانی - وہ کہتا ہے کہ عالم میں کہیں بھی کسی ماؤرانی ذہن یا عقل کا وجود نہیں ہے - تمام فطری مفہوم پر اندر میکانکی قوانین متصرف ہیں - دیماقریطس پورا پورا مادیت پسند ہے - اس کے خیال میں انسان بھی اسی طرح ایشون سے مرکب ہے جیسے کہ کوئی درخت یا کوئی ستارہ یا کوئی بھی دوسری شے ایشون سے بنی ہے - انسان روح بھی ایشون سے مرکب ہے جنہیں انسان سائنس کے ساتھ باہر نکالتا اور اندر کھینچتا رہتا ہے - جب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور روح کے ایم منتشر ہو جاتے ہیں - وہ کہتا ہے کہ انسانی فکر ایک طبیعی فعل ہے اور کائنات میں کسی قسم کا کوئی مقصد یا غایت نہیں ہے - اس میں صرف ایم ہیں جو میکانکی قوانین کے تحت مرکب ہے منتشر ہوتے ہیں - لاک کی طرح دیماقریطس کا بھی یہ خیال ہے کہ گرمی، ذائقہ، رنگ وغیرہ کسی شے میں نہیں ہوتے بلکہ خود ہمارے حسی اعضاء کے باعث موجود ہیں - اشیاء میں حجم، صلابت اور وزن ہوتا ہے -

دیماقریطس مذہب کا مخالف تھا اور مسروت کے حصول کو زندگی کا واحد مقصد سمجھتا تھا - وہ کہا کرتا تھا کہ مسروت میانہ روی اور تہذیب نفس سے میر آتی ہے - وہ جذباتی پیچان اور جوش و خروش کو ناپسند کرتا تھا اور عورت کو بھی اسی لیے حرارت کی نظر سے دیکھتا تھا کہ اس کے جذبات آس کے شعور پر غالب ہوتے ہیں - آس کا قول ہے :

"مسروت خارجی اسباب اور ساز و سامان سے حاصل نہیں ہوتی - آس کا سرچشمہ خود انسان کے اپنے بطن میں ہے -"

سیاستیں میں وہ جمہوریت اور مساوات کا قائل تھا - کہتا ہے :

"ایک دانشمند اور نیک شخص کے لیے تمام دنیا آس کا مادر وطن ہے -"

دیماقریطس فلاسفہ یونان کے آس طبقے کا آخری فرد تھا جس نے مردانہ وار عالم کی کنڈ کو سمجھنے کی کوشش کی اور جو رفتہ نخیل اور قوت فکر دونوں سے ہرہ ور تھا اور سہم جوفی اور تجسس کے جذبے سے سرشار تھا - یہ فلاسفہ پر شے میں گھبری دلچسپی لیتے تھے - شہابِ ثاقب، سورج گروہن، مجھلیاں، گرد باد، مذہب اور اخلاق وغیرہ اپنکا انہاک سے غور و فکر کرتے تھے - زندگی سے متعلق ان کے نظر، نظر رجائی تھا - ان کے بعد فلاسفہ یونان تنزل فکر کے شکار ہو گئے - سو قضاٹیوں کے ساتھ تشكیک کا دور دورہ بوا پھر سقراط نے اپنی تمام تر جستجو کو انسان اور اخلاقیات تک محدود کر دیا - افلاطون نے عالم حواس کو رد کر کے خالص بسیط انکار کی اپنی دنیا الگ تعمیر کی - ارسطو نے مقصد اور شیت کو سائنس کا اساسی اصول قرار دے کر علمی تحقیق کو ضرور پہنچایا - افلاطون اور ارسطو بلاشبہ عظیم فلاسفہ تھے لیکن آن کے نظریات کی مقبولیت سے سائنس کی ترقی رک گئی - حدیبوں تک فکری جمود کی کیفیت مغرب پر طازی رہی - احیاء العلوم کے دور میں ان فلاسفہ کا ذہنی تسلط ٹوٹا

اور مغرب میں آس آزادانہ اور ہے باک تفکر اور مائننگ نظر کا آغاز ہوا جو سو فلسفائیوں سے پہلے کے ہوناقی فلاسفہ کا طریقہ امتیاز تھا۔ ہر صورت ماقبل سقراط فلاسفہ مادہت نے جو اصول مرتب کیے تھے وہ بعد کے مادیت پسندوں نے اپنائے اور آن کی مزید تشرع کی۔

یہ اصول درج ذیل ہیں:

(۱) مادہ وہ ہے جو مکان میں بھیلا ہوا ہے۔

(۲) مادہ ازلی اور غیر فانی ہے۔

(۳) مادے میں حرکت کی صلاحیت موجود ہے۔

(۴) تمام حرکت متررهہ ہوانین کے تحت ہو رہی ہے۔

(۵) شعور اور ذہن نہیں دوسری اشیاء کی طرح ایشموں سے مرکب ہیں۔

(۶) فطرت (نیچر) میں کوئی واردات بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔

(۷) عالم میں کوئی ذہن یا شعور کار فرما نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس پر کوئی بیزدایی قوت مستصرّف نہیں ہے۔

(۸) عالیٰ میں کوئی متصد و غایبت نہیں ہے۔

سقراط سے پہلے کے فلاسفہ نے کائنات کے مشابدے اور آفاق مسائل کی تحقیق پر زور دیا، تھا۔ سو فلسفائیوں نے انسان اور اس کے مسائل کو تحقیق علمی کا موضوع قرار دیا سقراط نے سو فلسفائیوں کے تشکیل کے خلاف کمپ پت پاندھی تھی۔ وہ بڑی حد تک اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن ایک بھلو سے وہ خود بھی سو فلسفائی تھا۔ یعنی آس نے بھی اپنی کی طرح انسان اور اخلاقیات کو موضوع فکر قرار دیا۔ افلاطون اور ارسطو نے آس کی پیروی کی۔ نتیجہ علم بیش کو پس پشت ڈال دیا گیا اور اپنی علوم کی تدوین عمل میں آئی جن کا تعلق برآہ راست ذات انسانی سے تھا۔ چنانچہ افلاطون اور ارسطو نے سیاسیات، منطق، خطاب، جہالت کے علوم مرتب کیے آن کی مابعد انتیجیات بھی جس کا متصد حقیقت اولیٰ کی تلاش تھا منطقی اصولوں سی پر مددون کی گئی۔ اس کے ساتھ سائنس میں مشابدے اور تجربے سے کام لینے کی بجائے آسے منطق کے تحت کر دیا گیا۔ لارڈ برٹرنلدرسل نے اس دور کے یونانیوں کے متعلق کہا ہے کہ آن کا ذہن و فکر قیاسی تھا۔ استقرائی نہیں تھا۔ افلاطون نے عالم مادی کو غیر حقیقی قرار دیا اس لیے مشابدہ عالم سے قطع نظر کر لی گئی۔ ارسطو نے بیش اور مادے کی دو فی میں ایک حد تک قدماء کی مادیت پسندی کو برقرار رکھا اور کہا کہ پہنیت اور مادہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے لیکن وہ بھی اپنے استاد کی طرح امثال ہی کو حقیقی سمجھتا تھا۔ آس کی حقیقت پسندی نے سے مشابدے پر بھی مادہ کیا جس سے آس نے علم الحیوان میں کام لیا ارسطو کے بعد ہوناقی زیستوں کے سیاسی تحریر کی زبان تیزتر ہو گئی۔ سیاسی تنزل ہمیشہ، ذہنی،

اخلاقی اور معاشری تسلیل کا پیش خیمه ہوا کرتا ہے چنانچہ ارسطو کے بعد آنے والے فلاسفہ کی لذتیت، کلیت اور قنوطیت میں اس پمہ گیر زوال پذیری کی جہاں دکھانی دبتی ہے۔ رومیوں کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت نے یونانی ریاستوں کی آزادی کا خامہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی بلاشبہ صدیوں تک افلاطون اور ارسطو کے قائم کیے ہوئے مدرسوں میں فلسفے کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا لیکن حریت نکر کا خامہ ہو چکا تھا۔ ان کے متبوعین منطقی موشکافیوں اور اشراق کی بھول بھلیوں میں کم ہو گئے۔

رومی نظم مملکت اور فوج کشی کا سلیقہ رکھتے تو ایکن علوم و فنون سے آہیں واجبی ہی میں دلچسپی تھی۔ آن کے مدارس میں فلسفے کی جو تعالیم دی جاتی ہے وہ بھی یونانی غلاموں کے سپرد تھی۔ یونانی فلسفے کے دو مکاتب نے رومیوں کو متاثر کیا۔ لذتیت اور کلیت لذتیت نے اپیکورس کو متاثر کیا اور کلیت کو رواقیتین نے اپنا کمر آس کے تصورات میں توسعی کی۔ رفتہ رفتہ رواقیت رومیتہ الکبریٰ کے خود پسند طبقے کا محبوب فلاسفہ بن گئی۔

رواقیت کا بانی زینو قبرص کا رہنے والا فنسیتی تھا۔ وہ ایک منتش طاق کے نیزے بیٹھ کر درمن دیا کرتا تھا اس لیے آس کے فلسفے کا نام ہی رواقیت پڑ گیا۔ رواقیت دراصل ایک نظام اخلاق ہے۔ رواقیتین کی مادیت پسندی آن کی طبیعتیات کا حاصل ہے۔ آن کی طبیعتیات کا اصل اصول یہ تھا کہ کوئی غیر مادی شے موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ آن کے خیال میں عام صرف جسمی حواس سے حاصل ہو سکتا ہے اس لیے حقیقت وہی ہے جسے حواس جان سکیں۔ یہ حقیقت مادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح اور خدا بھی مادی ہیں۔ اس مادیت پر انہوں نے وحدت وجود کا پیوند لگایا اور کہا کہ خدا روح عالم ہے اور مادی عالم خدا کا جسم ہے روح عالم کو وہ پیریقلیس کی طرح آتشی سمجھتے تھے۔ انسانی روح کو بھی آتشی جانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی بیزانی آتش ہی کا حصہ ہے۔ جس طرح روح جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے اسی طرح آفاق آتش یا خدا کائنات میں طاری و ساری ہے۔ وہ خدا کو عقل مطلق بھی کہتے تھے لیکن روح کی طرح اس عقل کو بھی مادی سمجھتے تھے۔ آن کی تعلیم یہ تھی کہ کائنات میں ہر کہیں تناسب و توازن موجود ہے۔ آن کا استدلال یہ تھا کہ خدا عقل مطلق ہے اور یہ عقل آفاق قانون ہے اس لیے عالم پر آفاق قانون متصرّف ہے۔ تمام کائنات سلسلہ سبب و مسبب میں جکڑی ہوئی ہے اور انسان محصور ہے۔ وہ زمانے کی گودش کو دو لاپی اور وقت کو غیر حقیقی مانتے تھے۔ آن کے وحدت وجود کے تصور میں قدماء کا یہ عقیدہ کار فرمایا تھا کہ کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی ظاہر ہے کہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی تو اس بات سے انکار کرنا پڑے گا کہ کائنات کو کسی شخصی خدا نے بنایا ہے یا خدا کے علاوہ کسی اور مخلوق کا وجود بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے ساری کائنات کو ہی خدا کہنا پڑے گا۔ یہ نظریہ رواقیت

مذبب کے عقیدہ ذات باری کے منافی ہے۔ اسی لیے شوپنھائیر نے کہا ہے کہ ”وحدت وجود شائستہ قسم کا الحاد ہے۔“ کیونکہ اس سے شخصی خالق کا انکار لازم آتا ہے۔ اخلاق میں رواقین ضبط نفس پر زور دیتے تھے۔ آن کا خیال تھا کہ انسان اپنے جذبات پر عقل و خرد کا حکم تصرف قائم کر کے ہی انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ شہنشاہ مارکس آریلیس سینیکا اور ایک نیش کے اقوال میں رواقین کے اخلاق و کردار کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔

رواقین تمام کائنات کو خدا مانتے تھے بہر حال لفظ خدا کے استعمال سے آن کا ربط و تعلق کچھ نہ کچھ مذبب سے باقی و برقرار رہتا تھا۔ اپیکورس اور لکریشیں نے اس برائے نام رابطے کا بھی خاتمه کر دیا۔ اپیکورس نے حظ و مسرت کا فلسفہ پیش کیا۔ آس کے خیال میں فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو توبہات اور خشات سے نجات دلانی جائے۔ وہ کہتا تھا کہ دیوتا اور دوسری مافوق الفطرت بستیان انسانی دہشت کی پیداوار ہیں۔ دہشت اور تشویش نے انسان مسرت کا خاتمه کر دیا ہے۔ اس نے کہا ”دہشت کو دل سے نکال پہینکو اور تمہیں مسرت مل جائے گی۔“ دہشت سے نجات پانے کے لیے اس نے کہا کہ عالم مادی سراسر میکانیک ہے جس میں قدری اسباب کی کار فرمائی ہے۔ اس کی طبیعتیں دینما قریطس سے ماخوذ ہے لیکن اس میں اس نے بقدر ضرورت کچھ تصرف بھی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء ایشون سے بنی ہیں۔ یہ ایم صورت اور وزن میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں البتہ ان کی نوعیت اصلاً ایک ہی ہے۔ ایم ازل سے خلاۓ مکان میں گزر رہے ہیں۔ انہیں قدر و اختیار حاصل ہے اس لیے یہ عموداً نہیں گرتے بلکہ، ادھر آدھر لڑک جاتے ہیں اور آپس میں متصادم بھی ہوتے ہیں۔ یہ قدر و اختیار اپیکورس کی اپنی اختیاع ہے۔ دینما قریطس کے نظریے میں اس کا کوئی کہوج نہیں ملتا۔ اپیکورس نے ایشون میں وزن کا اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے۔ ایشون کو قدر و اختیار عطا کرنے سے اپیکورس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو بھی فاعلِ مختارِ تسلیم کیا جائے کیونکہ، جب ایم کی حرکت آزادانہ ہوگی تو انسان کو بھی جبریت سے آزاد سمجھنا پڑے گا۔ دینما قریطس کی پیروی میں اپیکورس بھی کہتا ہے کہ روح ایشون سے مرکب ہے جو موت کے بعد بکھر جاتے ہیں لہذا حیات بعد موت کا خیال محض اہل مذبب کا وابد ہے۔ اپیکورس کے خیال میں حیات بعد موت سے انکار کیا جائے تو انسان کو موت کی دہشت سے نجات مل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کو بُرا مت کہو۔ یہ براٹی نہیں ہے نہ اس سے خوف کھانا قرینِ دانش ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں ”جب موت ہوتا ہے تو موت نہیں ہوتے اور جب تم ہو تو موت نہیں ہوتی۔“ موت کرب ناک نہیں ہوئی اس لیے اس سے ڈرنا حاقت ہے۔ اس کے خیال میں دیوتاؤں کے خوف اور حیات بعد موت کے غبیدتے سے نجات پا کر ہی انسان سکون اور مسرت کی زندگی پر سر در سکتا ہے۔ حیات بعد موت کا ذکر کرتے ہوئے آس نے کہا تھا ”ایک احمق۔ اس دنیا سے دُنہ تھا۔ بہرہ اندوڑ نہیں ہو۔ سکنا وہ آخرت سے کیا حاصل

کرے گا۔“ اپیکورس نے اخلاق میں میانہ روی کی دعوت دی ہے ۔

اس زمانے کا دوسرا مشہور مادیت پسند لکریشیں ہے جس کی فسفیانہ نظم ”اشیاء کی مہبیت پر“ مشہور ہے ۔ یہ نظم صدیوں تک گوشہ گمنامی میں پڑی رہی ۱۸۱۴ع میں پوکیو نے اسے کمپنی سے ڈھونڈ نکلا اور شائع کر دیا ۔ والثیر نے اس نظم کو غیر فانی قرار دیا ہے ۔ اس میں لکریشیں نے تفصیل سے اپنے عقاید بیان کئے ہیں ۔ اپیکورس کی طرح وہ بھی مذہب کو دہشت ۔ غم زدگی اور ضلم و تشدید کو رچشم خیال کرتا ہے ۔ ایک جگہ کہتا ہے ”مذہب نے انسان سے بڑی بڑی مفاکیوں کا ارتکاب کرایا ہے ۔“ جو لوگ فلسفہ و دانش کی تعمیل کی بجائے مذہبی رسوم کی ادائیگی کو ضروری سمجھتے ہیں آئہیں مخاطب کر کے کہتا ہے :

”بدبختو! مذہب نے تمہیں کیسے کیسے چرکے لکھئے ہیں ۔ ہمارے بچوں پر کیسے کیسے ظلم کرانے ہیں ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پتھر کی قربانی گاپوں پر سر جھکاؤ یا سجدے کرو ۔ نیکی مذہبوں پر قربانی کا خون چھڑکنے میں بھی نہیں ہے بلکہ آسودہ اور مطمئن ذہن سے نیکی حاصل ہوئے ۔“

لکریشیں کا عقیدہ ہے کہ کائنات مادی سے ماوراء کوئی ہستی نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے ۔ کائنات کے سب قوانین خود آمن کے بطن میں موجود ہیں جسے خدا کہا جاتا ہے وہ آفاق قانون ہی کا دوسرا نام ہے ۔ سچی عبادت یہ ہے کہ اس قانون کو ذہن نہیں کر لیا جائے ۔ انسان کی دہشت اور غم ناکی فطرت کے قوانین کو سمجھ لینے سے دور ہو جاتے ہے ۔ زندگی چند دن کی فرصت کا نام ہے اور حیات بعد موت محض ایک افسانہ ہے ۔ اس دنیا میں جہالت، جذباتی جنون، حرص اور جنگ و جدال سے جو دکھ درد ہوتا ہے وہی جہنم ہے ۔ دانشمندوں کے لئے یہی دنیا بہشت بن جاتی ہے ۔ مرنے والے دانش کی مشعل زندوں کے پاتھوں میں دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں ۔ لکریشیں کی اس نظم میں دیما قریطس کی مادیت اور اپیکورس کی اخلاقیات کا امتزاج عمل میں آیا ہے ۔

جب شہابِ مشرق کی وحشی اقوام گال، ونیڈل، گاتھوں اور پتوں کی بے پناہ بورش سے رومیوں کی قبائلے سطوط تار تار ہو گئی تو رومتہ، الکبریٰ کی شان و شوکت بازنطین میں محدود ہو کر رہ گئی ۔ شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب کی اشاعت بیوز شمشیر کی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ مغربی اقوام پر کمپیں کیساں روم کی تسلط قائم ہو گیا ۔ اس انقلاب ذکر کرنے ہوئے گبن اپنی کتاب ”زواں و بہوت رومہ“ میں لکھتا ہے عیسائیت کی ہمدرگیر اشاعت سے مغرب پر عہدِ جاہلیت کی تاریکیاں چھا کتیں ۔ کم و بیش آٹھ صدیوں تک ان تاریکیوں کے کھرے پر کمپیں بھیط رہے ۔ مغرب کی وحشی اقوام نے شارلیان کی کوششوں سے عیسائیت قبول تو کر لی تھی لیکن اس سے آن کی خانی و حشت و بربریت پر کوئی صالح اثر نہیں ہڑا ۔ علم کی تعمیل راپیوں اور ہادریوں تک محدود رہی ۔ یہ لوگ بھی تحقیق علمی کی بجائے اولیاء و اصفیاء کے فسانہ باۓ کرامات فلمبتد کرنے میں مصروف رہتے تھے ۔ جو شخص علم و فنون

میں دستگاہ پیدا کرتا آئے طنزآ جادوگر کہتے تھے۔ اربابِ کلیسا عام طور سے جن بخشوں میں حصہ لیتے تھے آن کے موضوعات کچھ امن نوع کے ہوتے تھے کہ جناب آدم کی ناف تھی کہ نہیں تھی ہا سونی کی نوک پر کتنے فرشتے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان تاریک صدیوں میں مسلمانوں نے ہسپانیہ، صقلیہ، بغداد اور دمشق میں علم کی شمع روشن کر کھی تھی۔ انہوں نے فلاسفہ، یونان کی کچھ کتابیں عربی میں منتقل کر لیں اور وہ علم المناظر، علم الکیمیا، الجبر و المقابله وغیرہ میں قابل قدر تحقیق کام کر رہے تھے۔ ازمنہ تاریک کے اواخر میں مسلمانوں کے اکابر فلاسفہ و اطباء الرازی، ابن سینا اور ابن رشد کی کتابوں کے ترجمے یہودیوں کی وساطت سے مغربی ممالک میں پہنچے تو اہل مغرب کے ذہن و قلب میں بلjud موج کئی۔ اس کے ساتھ قسطنطینیہ سے یونانی زبان کے علماء ترکوں کے حملوں سے دہشت زدہ ہو کر اطالیہ پہنچی جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہالت کی تاریکی کا دیزیز پرده چاک ہوا اور مغربی ممالک نشاة الثانیہ اور احیاء العلوم کی روشنی سے منور ہو گئی۔ اطالیہ اور پیرس کی دانش کاہوں میں ابن رشدی علماء نے کلیساٹ روم کی شدید مخالفت کے باوجود ابن رشد کے امن عقیدے کی اشاعت کی کہ صداقت دو گونہ ہے۔ مذہب کی صداقت اور فلسفے کی صداقت۔ کلیساٹ روم کے علماء فلسفے کی صداقت کے قائل نہیں تھے اور فلسفے کو مذہب کی ادنیٰ کنیز سمجھتے تھے۔ ولی اسلام کا مشہور قول ہے:

"میں پہلے عقیدہ رکھتا ہوں پھر سمجھتا ہوں۔ پھر سمجھ کر عقیدہ اختیار نہیں کرتا" اس نقطہ نظر اور نظریہ علم نے تحقیق کے سوتے خشک کر دیے۔ کلیساٹ روم کے ہاں فلسفے اور سائنس کا اگر کوئی معرفت تھا تو وہ محض ہی تھا کہ ان کے اصولوں سے مذہب کے فوق الفطرت عناصر کا اثبات کیا جائے۔ اور نصوص کو توڑ مژوڑ کر ایسی تاویلیں کی جائیں جن سے اہل مذہب کے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں۔ کسی فلسفی یا سائنسدان کو امن بات کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ کسی ایسے علمی نظریے کی اشاعت کرے جو مسلمہ مذہبی عقائد کے منافق ہو۔ اس قسم کی جسارت کی سزا موت تھی۔ برونو کو آگ میں جلایا گیا۔ کلیلیو کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ موت کی سزا سے بال بال بجا۔ کوہر نیکس کو اپنی کتاب اپنی زندگی میں شائع کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ کلیساٹ احتساب آزادی" فکر کو کچھلئے کا ایک مہیب آہ تھا۔ سینکلکڑوں اہل علم کو ہابند سلاسل کیا گیا لیکن جب انسان کا آزادی" رائے یا اظہار رائے کا جذبہ بیدار ہو جائے تو اسے کچلا نہیں جا سکتا۔ این رشدیوں کے نظریہ صداقت دو گونہ کی اشاعت یہ علم کلام اور مذہبی تحکم کا طلسہ تورڈیا اور اہل فکر مذہبی عقائد سے بٹ کر آزادانہ فلسفیانہ مسائل پر غور کرنے لگئے۔ باد رہے کہ اسی زمانے میں اسائیت اور حقیقت پسندی^۱ کی نیاز نے بھی لوگوں کے دلؤں میں

(۱) Realism اس حقیقت پسندی کا مطلب ہے افلاطون کے امثال (ideas) کو حقیقی سمجھنا۔

- Nominalism (۲)

سخت پیجان پیدا کر رکھا تھا۔ اسی کہتے تھے کہ امثال (افلاطون کے امثال کو منطقی اصطلاح میں Universal یہی کہا جاتا تھا) اشیا کے محض اسم یا نام یہی اور حقیقی وجود نہیں رکھتے۔ افلاطون کے پیرو کہتے تھے کہ امثال حقیقی یہیں۔ اس نزاع کی اصل یہ سوال تھا کہ کون سا عالم حقیقی ہے؟ وہ عالم جس کا ادراک ہم حواس سے کرتے ہیں یا وہ عالم جو بہارے ذہن و عقل میں موجود ہے۔ تمام عیانی متكلیمین ابے لارڈ۔ طامن اکٹونناس وغیرہ حقیقت پسند تھے۔ ان کے بر عکس روکنے ان اور اس کے پیرو ولیم آکم اسی تھے۔ ولیم آکم نے کہا کہ کہا کہ عالم وہی ہے جسے ہم اپنے حواس خمسہ سے معلوم کرتے ہیں بسط افکار ہیں جن کا وجود انسانی ذہن کے خارج میں کہیں نہیں ہے۔ یہی اسائیت جدید سائنس کا سنگ بنیاد بن گئی۔ کیسا نے روم آج تک افلاطون کے نظریہ حقیقت امثال سے اپنے مذہبی عقائد کی توثیق و تائید کا کام لے رہا ہے۔ افلاطون کا یہ نظریہ کہ عالم امثال عالم اشیاء سے علیحدہ ہے اس مسیحی عقیدے کے عین موافق ہے کہ خدا نے عالم کو عدم محض سے پیدا کیا اور خود اس عالم سے ماوراء ہی رہا۔ بہر حال فتح بالآخر ولیم آکم کی اسائیت ہی کی ہوئی۔ سائنس کی روز افزون ترقی اور اشاعت اور کوبنہنیکس کلیلو۔ کپلر اور نیوٹن کے انقلاب پرور انکشافت سے کیسا نے روم کا ذہبی احتساب شکست و ریخت پو کیا۔ ولیم آکم کے پیروؤں نے علم کلام کا خاصہ کر دیا اور اپنا بد حق تسلیم کرا لیا کہ مسائل علمی پر انسانی ذہن و فکر کو آزادانہ غور و فکر کا حق پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ مغرب نے جدید دور میں قدم رکھا۔

قدیم یونانی سائنس کی رو سے کائنات گویا ایک گڑیا کا گھر تھی۔ اس کا مرکز زمین تھی جس کے گرد سات آہان تھے در تھے محیط تھے جسے باز کے چھلکے ایک دوسرے پر منڈھے ہوتے ہیں۔ چاند اور سورج سے اوپر کی کائنات میں تغیر و تبدل کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ سیارے ذی حیات سمجھے جاتے تھے۔ افلاطون اور ارسطو یہی آنہجی دیوتا مانتے تھے۔ فیشا غورس کے پیروؤں نے اور خاص طور سے ارسطارکس نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ آفتاب مرکز ہے اور زمین دوسرے سیاروں کی طرح ان کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن ارسطو نے اسے رد کر دیا تھا۔ کوبنہنیکس نے تحقیق سے ثابت کیا کہ زمین ایک سیارہ ہے جو آفتاب کے گرد گھوستا ہے۔ ۱۶۰۸ء میں ایک ولنڈیز لپرشنے نے دورین ایجاد کی۔ کلیلو نے علم پیش میں اس سے بڑا کام لیا۔ اجرام سماوی کا مشابہ کرتے ہوئے اُس نے مشتری کے چاند دیکھی اور پاشریبوں سے کہا آؤ میں دورین میں سے تمہیں یہ چاند دکھاؤ۔ آئھوں نے دورین میں سے شیکھنے سے انکار کر دیا اور کہا تم جھوٹ کہتے ہو بہاری کتابوں میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ نشانہ الثانیہ کی صدیوں میں انسان نے بزاروں پر سوں کی ذہنی غلامی سے بجات پائی۔ کلیلو نے تھرمائیٹ، اور اس کے ایک شاگرد نے پیرو میٹر ایجاد کیا۔ گورک نے بوانی پمپ اختراع کیا۔ اسی صدی میں کھڑیوں کو نئی شکل دی گئی۔ کپلر نے ریاضیات سے کوبنہنیکس کے نظریے کا اثبات کیا اور

وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر بعد میں نیوٹن نے کشش نقل کا قانون دریافت کیا تھا۔ نیوٹن مشاہدے اور تجربے کا بہت بڑا حامی تھا اور کہا کرتا تھا: "اے طبیعت! مجھے مابعد الطبیعتیں سے بھانا۔"

کپلر نے سیاروں کی گردش کے قوانین دریافت کر کے بنی نوع انسان کے سچنے کے انداز بدلتے۔ سترہویں صدی کے اکتشافات نے سائنس کو ہر کہیں بھیلا دیا۔ کلبرٹ نے مقتاطیں پر اپنا معرکہ آراء مقالہ لکھا۔ پاروسے نے خون کے دوران کا رز معلوم کیا۔ لیون باک نے برونو زوا اور بیکٹیریا دریافت کیے۔ فے کارت، لائب نس اور نیوٹن نے جیومیٹری میں انقلاب پرور اصول دریافت کیے جن سے اعنی ریاضیات کے مطالعے کی راہیں کھل گئیں۔

کوپریکس - گلیلیو۔ کپلر اور نیوٹن جدید سائنس کے بانی ہیں۔ ان کے اکتشافات نے کائنات سے متعلق انسانی تنفس، نظر کو یکسر بدلتے۔ جادو اور توہم کا طلسہ ٹوٹ گیا۔ پہ سائنس دان اپل مذہب تھے لیکن ان کے نظریات نے مذہب کے سلسلہ عتايد سے اختلاف آکیا۔ سائنس کی اس ترقے نے کائنات میں انسان کے مقام کو بھی خاصاً متاثر کیا۔ از منہ تاریک میں کرہ ارض کو کائنات کا مرکز مانا جاتا تھا اور پہ خیالِ رستہ ہو چکا تھا کہ کائنات انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ نیوٹن کی پہت میں کرہ ارض کائنات کا ایک نہیا منا سا حصہ ہے جو ایک معمولی ستارے (آفتاب) کا انک حقیر سایارہ ہے۔ اس سے انسان کی انا کو سخت دھیچکا لگا۔ جیسا کہ ہم اکٹے باب میں دیکھیں گے رومانیوں اور مثالیت پسندوں نے انسان کا یہ کھوپیا ہوا مقام بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔

جدید سائنس نے فلسفے پر بھی گھرے اثرات ثبت کیے اور یہن۔ پابس اور ٹیکلارٹ نے فلسفے کو سائنس کی بہم پہنچانی ہوئی نئی بینیادوں پر از سر نو تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ فرانسیس نیکن (۱۵۶۱-۱۶۲۶ء) نے فلسفے کو مذہب سے جدا کر دیا۔ یہن استقرا کا بانی اور سائنسک طرز تحقیق کا مدائخ تھا۔ اس کا نقطہ نظر خانصتاً تحقیقی اور علمی تھا اس نے سائنس کی مدد سے فطرت کی قوتیوں کو مستخر کرنے کی دعوت دی۔ اس نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا کہ فلسفے کو علم کلام کے تصریف سے نجات دلانی جائے۔ وہ مذہب کو الہام پر مبنی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ فلسفی کی بینیاد عتلی استدلال پر رکھنا ضروری ہے۔ اس نے ارسطو کے قیاس کی سخت مخالفت کی اور شخصی مشاہدے اور تجربے کو بروئے کار لانے کی دعوت دی۔ اس نے ارسطو پر سخت نقد لکھا اور کہا کہ ارسطو نے سائنس میں مقصود ور شایست کو داخل کر کے سائنس کو سخت تھصان یہ بھایا تھا۔ جنابھی اس سے کہا کہ مقصودت کو سائنس میں سے خارج کر دیا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ فکر و بخشن کو کسی علت سے کا باپند نہیں کیا جا سکتا۔ یوں کہ سائنس کے لیے صریحی ہے کہ اس کا مواد خالص مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہو۔ فلسفے میں اس کا "بنوں کا نصیر" مشہور ہے۔ اس نے فکر و نظر کی بڑی عادتوں کو بتون کا نام

دیا ہے اور انہیں توڑنے کی دعوت دی ہے۔ ان فکری مخالفتوں میں (۱) قبلے کے ات بیس جن کے تحت انسان فطرت میں ایسا تواق تلاش کرتا ہے جو ممکن ہے اس میں نہ ہو (۲) غار کے بت ذائق تعصبات ہوتے ہیں جن سے پچھا چھڑانا ضروری ہے۔ (۳) بازار کے بت جن کا تعلق الفاظ سے ہے جو ہمارے ذہن کو ہر وقت متاثر کرتے رہتے ہیں (۴) تھیٹر کے بت فکر و نظر کے وہ نظام ہیں جو قدماہ سے یادکار ہیں مثلاً ارسٹو اور متكلمین کے انکار (۵) مکاتب کے بت جو ارسٹو کے قیاس جیسے اندھے قوانین ہر مشتمل ہیں اور تحقیق علمی میں ذائق رائے کی جگہ لے لیتے ہیں۔

فرانسیں یہیں عبوری دور سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ سائنس کا شیدائی ہونے کے باوجود اس نے کوبرنیکس کا نظریہ رد کر دیا تھا۔ مشہور سائنس دان پاروے کی رائے میں ”یہیں لا رڈ چانسلر کی طرح فلسفہ لکھتا ہے“ یہیں کا سب سے اہم کارنامہ ہے کہ اس نے ارسٹو کی منطق قیاسی کے بجائے استقراء پر زور دیا اور اس طرح سائنس کے طرزِ عقیق کو بیش از بیش تقویت دی۔

طامن ہابس (۱۵۸۸ - ۱۶۰۷ع) کے ساتھ فلسفہ ایک نئے دور میں داخل ہوا تھا اس نے فلسفے کو جدید سائنس کی روشنی میں از سر نو مددون کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مکمل ماذیت کا ابلاغ کیا۔ اس کے خیال میں کائنات کی ہر شے انسان سمیت ماذی ہے اور حرکت کر رہی ہے۔ وہ حیات کے سوا کسی چیز کو علم کا ماذد تسلیم نہیں کرتا اور حیات کو بھی حرکت ہی کی صورتیں مانتا ہے۔ اس کے خدا میں فکرِ محض ترقی یافتہ حیات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے پان حقوق ماذی ہے اور ذہن مادہ مستحرک ہے۔ ہابس گلیلیو سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ ایک ربانی دان ہونے کی حیثیت سے وہ فلسفے میں بھی ریاضیات کے اصولوں کو رواج دینے کا حامی تھا اور جیومیٹری کو ”کامل سائنس“ کہا کرتا تھا اس نے روح کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ، ہمارے خواب مستقبل کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتے۔ لگریشیں کی طرح وہ بھی کہتا ہے کہ مذہب غیر مردمی فرضی قوتیوں کی دبشت کی پیداوار ہے ایک جگہ لکھتا ہے۔

”غیر مردمی قوت کا خوف انفرادی صورت میں توبہ ہے اور اجتماعی صورت اختیار کر جائے تو مذہب ین جاتا ہے۔“

ماذیت پسند ہونے کے باعث ہابس قدر و اختیار کا منکر ہے اور جبر مطلق کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان قدر و اختیار کا خیال لغو ہے۔ انسان ارادے یا خوابش کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں انسان جس بات کا ارادہ کرتا ہے اس پر عمل کرنے میں وہ آزاد ہے لیکن ارادہ کرنے میں مجبورِ محض ہے۔ ہابس نے افلاطون کے اس خیال کی بھی تردید کی کہ عقل انسان میں جبلی اور خلقی ہے۔ اس کے خیال میں عقل پیدائشی نہیں ہوئی، شق اور تحریر سے ترقی کرتی ہے۔ ہابس نے فلاسفہ یونان اور متكلمین سے اپنا فکری رشتہ گئی طور طور پر منقطع کر لیا تھا۔

ڈیکارٹ (۱۶۵-۱۶۹۶ع) کو عام طور سے جدید فلسفے کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ پہلا عظیم فلسفی ہے جو جدید طبیعتیات اور ہدایت سے متاثر ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جدید مادیت پسندی اور مثالیت پسندی کی دونوں روایات اسی سے شروع ہوئیں یعنی اس کا ذکر مثالیت پسندی کے ضمن میں بھی آئے کہ اس نے مثالی موضوعیت اور میکانکیت دونوں کی ترجیح کی ہے۔ ڈیکارٹ نے علوم موجود کی تفصیل یوسویوں کے مدرسے میں کی تھی اس لیے وہ منصب اور علم کلام کے مقام کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

ڈیکارٹ ریاضیات کا بہت بڑا عالم تھا اور کہتا تھا کہ دنیا کی ہر شے کو میکانکی نقطہ نظر ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے امثال سے کام لینا عبث ہے۔ اس کا فلسفہ میکانکی ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات چند ایسی اشیاء پر مشتمل ہے جنہیں خدا نے بنایا اور ان میں حرکت رکھی۔ یہ اشیاء مقررہ میکانکی قوانین کے تحت حرکت کرتی ہیں۔ وہ مادے اور ذہن کی دو فو کا تصور پیش کرتا ہے جو اس کے فلسفے کا سنگ بنیاد ہے۔ ذہن اور مادے دونوں کو مستقل بالذات مان کر اس نے نیچر کو آزاد چھوڑ دیا ہے اور نیچر سائنس کی توضیح میکانکی نقطہ نظر سے کی ہے۔ اس نے مقصد یا غایت اور روحانی و ذہنی خصائص کو اس تشیع سے خارج کر دیا ہے۔ مادے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اساسی طور پر پھیلاؤ ہے اور ذہن اساسی طور پر فکر و شعور ہے۔ ڈیکارٹ نے نیچر سے ذہن کو حذف کر دیا۔ اس طرح طبیعتیات ذہن سے آزاد ہو گئی اور اس سے مقصد و غایت کا اخراج تکمیل کو پہنچ گیا۔ ایک عالم ریاضیات کی حیثیت سے وہ فلسفے کو بھی ریاضی کی طرح ایک یقینی علم بنانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ کائنات کی ہر شے مقررہ قوانین کے تحت حرکت کرتی ہے اس لیے ان قوانین کو سمجھہ کر ہم کائنات کی قوتون پر قابو پا سکتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ سائنس دان ذہن سے قطع نظر کر کے نیچر کا مطالعہ کریں یعنی کائنات میں ذہن کو تلاش نہ کریں۔ اس کے خیال میں سائنس مقاصد یا ذہن و روح کے تصورات کے بغیر صرف میکانکی خطوط پر ترق کر سکتی ہے اور ان قوانین پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتی ہے جن کے تحت اشیاء حرکت کرتی ہیں۔ اس طرح ڈیکارٹ نے جدید سائنس کو ترق دی اور اس کی اشاعت کو تقویت پختی۔

ڈیکارٹ کہتا ہے کہ حیوانات کا جسم ایک خودکار کل کی مانند ہے جس میں ذہن و شعور مطلق نہیں ہے۔ جسمی لحاظ سے انسان بھی حیوان ہی کی طرح کی ایک کل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان ذہن و شعور کا مالک ہے جو اس کے جسم پر اپنے ادارز پو سکتا ہے۔

وہ دوست وجود کا مبلغ سپینوزا (۱۶۳۶-۱۶۷۷ع) ڈیکارٹ کی مادے اور ذہن کی دو فو سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ حقیقت ایک ہے۔ پھیلاؤ اور فکر اسی کی صفات ہیں۔ یہ حقیقت واحد کام کائنات پر بحیط ہے اور اسے خدا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت خود بھی ہر شے ہے۔ اس سے علیحدہ کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ یہ خود

ہی اپنا سبب ہے اور لامحدود ہے۔ سینوza کا یہ وجودی نظریہ قدیم الاطی فلاسفہ اور رواقین سے مانوذ ہے۔

سترہوں صدی کے اکثر سائنس دانوں اور فلاسفہ نے اپنا رشتہ ماضی سے کٹلی طور پر منقطع نہیں کیا تھا۔ نیوٹن، ڈیکارت، بیکن وغیرہ اہل مذہب تھے اگرچہ ان کے افکار و نظریات سے مذہبی مسلمات ہر کہیں منہدم ہو رہے تھے، بیکن کا ایک قول اس نقطہ نظر کی ترجیح کرتا ہے:

"بم شریعت خداوندی کی پیروی پر مجبور ہیں اگرچہ ہمارا ارادہ اس سے ہے ابا کرتا ہے۔ ہم کتاب مقدمہ ہر ایمان لانے پر مجبور ہیں اگرچہ ہماری عقل کو دھچکا لگنا ہے۔"

الہارہوں صدی میں سائنس کی پس گیر اشاعت نے اس فکری تحریک کو جنم دیا جسے تاریخ فلسفہ میں خرد افروزی کا نام دیا جاتا ہے۔ پر طرف عقلیت پسندی کا دور دوڑھا ہو گیا۔ اس تحریک کا آغاز بالینڈ اور انگلستان میں ہوا لیکن فرانس میں اس کے اثرات خاص طور سے بڑے کھرے ہوئے۔ انگلستان میں ہیوم اور گن اس کے نمائندے تھے۔ چارلس دوم نے رائل سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور سائنس کی تعلیم آداب مجلس میں شامل ہو گئی۔ فرانس کے مفکرین میں اسے غیر معمولی مقبوایت حاصل ہوئی اور روسو کو کہنا پڑا کہ سارے فرانس یہ صرف میں ہی وہ شخص ہوں جو خدا نے واحد پر عقیدہ رکھتا ہے۔ فرانس کے اہل علم نے تمام علوم کو ایک قاموں میں جمع کرنے کا پڑا الہایا۔ اس لیے انہیں قاموں کہا جاتا ہے۔ فرانس علوم و فنون اور فرینگ و شانتنگ کا مرکز تھا اس لیے قاموں کے افکار نے تمام مغربی ممالک کو متاثر کیا۔ قاموں میں دیدرو متسکو، بوئے، بولیاخ، کندورسے، کبانے اور لامتری مشہور ہوئے۔ ان سب کا سرخیل والثیر تھا جس نے بڑی بے رحمی سے اہل مذہب کی ریا کاری، دکان آرٹی اور زید فروشی کے پردازے چاک کیے۔

۶۶۴

"بیل نے جنگ کا آغاز کیا۔ چند انگریزوں نے اس کی پیروی کی۔ ہمارے مقدار میں اس جنگ کی فتح لکھی ہے۔"

یہ جنگ عیسائی مذہب کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ بیل کی لغت قاموں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ اس لغت میں مختلف موضوعات پر خالص عقليت پسندی کے نقطہ نظر سے اظہار خیال کیا گیا تھا۔ حکومت فرانس نے کیسا کے اکسے بے قاموں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہیں قید کیا گیا۔ ان کی کتابوں کی اشاعت بنویں قرار دے دی گئی۔ ان کے مسودات میں تحریف کی گئی۔ انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ لیکن وہ بھی دہن کے پکرے تھے انہوں نے ایک طرف جمہوری قدروں کو فروع بخش دوسری طرف انسان کو مذہبی عکم سے بخات دلانے پر کمر بست باندھی۔ سیاستیں میں انہوں نے شابان فرانس کے استبداد کے خلاف آواز بلند کی اور مذہب کا پدل عمرانیات میں تلاش کیا۔ انہوں نے پائزے بیل کے اس نظریے کو قبول کرایا کہ وحی

کو بہر صورت عقل کے تحت رکھنا ضروری ہے۔ قاموسیوں نے الہام کے بغیر ایک مذہب مرتب کرنے کی کوشش کی جسے انہوں نے "بزداشت" کا نام دیا۔ وہ انسان دوستی کو اس مذہب کی اساس مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں کسی الہام کی ضرورت نہیں ہے۔ قاموسیوں کے خیال میں سائنس کی ترق لازماً انسان معاشرے کی ترق کا باعث پوچھی۔ کندور سے اور ترکو نے انسان کے مستقبل پر اعتناد کا اظہار کیا اور کہا کہ سائنس کی روشنی میں ترق کی منازل طے کردے انسان ایک مثالی معاشرہ فائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان کا محکم عقیدہ تھا کہ سائنس سے حاصل کئے ہوئے علم ہی سے انسان متاثر سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ قاموسی تہذیب جدید کی تشكیل جدید سائنس اور نئے طرز تحقیق کی بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے۔

قاموسی مادیت پسند تھے انہوں نے ڈیکارٹ کے اس نظریے کو کہ حیوانات خودکار کلیں ہیں انسان پر بھی منطبق کر دیا اور کہا کہ انسان میں جسم اور روح سمیت ایک کل ہے اگرچہ دوسری کاؤں سے زیادہ پیجیدہ اور مضجعکہ خیز ہے۔ میکانکیت طبیعتیات اور کیمسٹری کے اصول ذی حیات پر بھی اسی طرح لاگو ہیں جیسے کہ غیر ذی حیات پر۔ لامتی نے اعلان کیا کہ چونکہ حیوان کل ہے امن لیے انسان بھی کل ہے اور انسان قلب و ذہن کے تمام اعمال میکانکی نوعیت کے ہیں۔ امن مادی نظریہ کو ہولباخ نے ایک باقاعدہ مابعد الطبیعتیات کی شکل دی۔ اس نے روح کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ فکر مغز سر کا ایسا ہی فعل ہے جیسا کہ، ہضم معدے کا فعل ہے۔ کائنات میں صرف مادہ غیر فانی ہے۔ نظرت میں کسی نوع کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں انسان کا وجود نہایت حقیر و صغیر ہے۔ اس نے کہا کہ فطرت چند ائل قوانین کے تحت کام کر دی ہے اور کسی قسم کا کوئی ذہن یا شعور امر پر متصرف نہیں ہے۔ ہل و پیشیں نے اخلاق اور نیکی کی توضیح بھی طبیعی قوانین کی رو سے کی۔ قاموسی جبر مطلق کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ قانون سبب و مسبب ہر شے پر حاوی ہے۔ دیدرو اور بوئے نے ارتقاء کا تصور پیش کیا۔ انہیں لامارک اور ڈاروون کے پیش رو کہا جاتا ہے۔

الہارہوپن صدی کے مادی نقطہ نظر کا ذکر کرتے ہوئے برٹنرنسن لکھتے ہیں کہ اس کے عناصر تو کیبی تین ہیں:

- (۱) حقایق مشاہدے پر مبنی ہونے چاہیں نہ کہ ایسی سند پر جو بعض تحکم پر مبنی ہو۔

(۲) مادی دنیا ایک ایسا نظام ہے جو خودکار ہے اور جس میں تمام تغیرات طبیعی قوانین کے تحت ہوئے ہیں۔

(۳) کرۂ ارض کائنات کا سر کنٹ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی مقصد و معنی ہے۔ جی تینوں عناصر من کمر میکانکی نقطہ نظر کی تشكیل کرتے ہیں۔ طبیعی سائنس

کے دو اکابر جو انسون مددی میں ہوئے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ارنست ہیکل اور چارلس ڈارون۔ ان کے خیال میں نیجر دہ ہے جس کا ادراک ہم اپنے حواس خمسہ سے کرتے ہیں۔ ڈارون اور سپنسر نے ذی حیات ہر بھی طبیعی قوانین کا اطلاق کیا اور اصول ارتقاء کے تاریخی پس منظر کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہیکل نے اپنی تالیف "کائنات کا معتمد" میں شعور و ذہن کی تشریع عضویاتی پہلو سے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذہن جسم سے علیحدہ نہیں ہے بلکہ مغز سر ہی کا فعل ہے۔ اس کے خیال میں نیجر کو سائنس کے طریقہ تحقیق ہی سے جانا جاسکتا ہے اور عالم طبیعی کی تشریع کے لیے کسی ماورائی وجود سے رجوع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیجر اصول اول ہے ہر شے کا جو کہ موجود ہے۔ طبیعی حقیقت ہی کائنات کی اساس ہے اور ذہن اسی سے متفرع ہوا ہے۔ طبیعیت ماقول الفطرت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو لاپلاس کا تھا۔ لاپلاس نے اپنی کتاب نپولین کو ہڑھنے کے لیے دی۔ چند روز کے بعد نپولین نے اسے بلا کر بوجہا "اس کتاب میں تم نے کہیں خدا کا ذکر تو کیا ہی نہیں" لاپلاس بولا "مجھے علمی تحقیق میں کہیں بھی اس مفروضے کی ضرورت کا احساس نہیں ہوا۔" طبیعیت نیجر ہی کو حقیقت مطلق مانتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو اشیاء یا وجود طبیعی قوانین سے آزاد یا فوق الفطرت ہیں وہ بھی انسانی تغییر ہی کی پیداوار ہیں اور تغییر مغز سر انسانی کا ایک فعل ہے۔ وہ نیجر کو ایک عظیم گل خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قوانین سیاروں پر مستمر ہیں وہی انسانی طرز عمل پر بھی حاوی ہیں۔ سب اشیاء سبب و مسبب کی زخیر میں جکڑی ہوئی ہیں۔ طبیعی نفسیات میں مذہب کو در خور توجہ نہیں سمجھا جاتا اور مذہب کو زیادہ سے زیادہ ایک انسانی غلط فہمی خیال کیا جاتا ہے جو ماضی بعد میں بعض اوقات کارآمد بھی ثابت ہوئی تھی۔

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے انسان کی خودی کو سب سے پہلا دھنچکا امن وقت لگا تھا جب کوپرنیکس نے کہا کہ کرہ ارض کائنات کا مرکز نہیں ہے اور ایک معمولی سے ستارے کا ایک نہما سماں سے میا رہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء انسانی خودی کی مزید جراثت کا باعث ہوا۔ ڈارون نے بے شمار شوابد اور انسان اور حیوانات کے عضویاتی تقابل سے ثابت کر دیا کہ انسان حیوان ہی سے ارتقاء پذیر ہوا ہے اور وہ "اوپر سے گرا ہو فرشتہ نہیں ہے بلکہ نیچے سے اوپر الہتا ہوا حیوان ہے۔" برف کے زمانوں میں کوہ پیکر حیوانات ماحول سے موافق نہ کر سکتے کے باعث فنا ہو گئے۔ انسان کے حیوانی آباء نے نامساعد ماحول سے موافق پیدا کر لی اور باق رہے۔ نامساعد ماحول کے ساتھ کشمکش کرتے ہوئے انسانی دماغ کے جو پر فکر و تغییر نے نشوونا بانی جس کے مقابلہ وہ حیوانات کی صفت سے جدا ہو گیا۔ فرانس نے داخلی پہلو سے ڈارون کے اس خیال کی تائید کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ بنیادی جنتیں انسان اور حیوانات میں مشترک ہیں۔

مادی نسباً کا وہ تصور جو آئونی فلاسفہ مادگا، تھا اور جسے کالیلیو اور نیون

کے انکشافات نے وسعت دی تھی انسوں صدی کے اواخر تک برقرار رہا۔ صدی "روان" کے اوائل میں طبیعتیات میں چند ایسے اہم انکشافات ہوئے کہ جن کی رو سے مادہ جیشیت ایک شے کے خائب ہو گیا۔ مادے کے ٹھوس ہونے کا نظریہ یکسر بدل گیا اور معلوم ہوا کہ مادہ مخفی سلسلہ "واقعات" ہے۔ شروع ذکر۔ پلانک اور ہائزن برگ کے نظریہ مقادیر عنصری بنے جدید سائنس کا سب سے انقلاب پرور انکشاف کیا کہ مادہ اور توافقی ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایم کے اجزاء ترکیبی الیکٹرون۔ بروٹون اور نیوٹرون ہیں۔ آئن سائنٹ کی تحقیقات سے نظریہ مقادیر عنصری کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مادے کے ٹھوس ہونے کا خیال زمان کے قدیم نظریے سے واپس تھا جسے آئن سائنٹ کے نظریہ اضافت نے غلط ثابت کر دکھایا۔ قدیم نظریہ یہ تھا کہ ایک ہی عالمی زمان ہے یعنی کائنات کے دو حصوں میں دو واقعات روما ہوں تو یا تو وہ بہیک وقت ہوں گے یا پہلا دوسرے سے پہلے ہو گا یا دوسرا پہلے سے پہلے وقوع پذیر ہو گا۔ خیال یہ تھا کہ دو واقعات کی ترتیب زمانی حتی طور پر معروضی ہوئی چاہیے خواہ ہم امن کی تعین سے قاصر ہوں۔ اب پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے اب زمان عالمی نہیں رہا بلکہ برمادی نکلے کے ساتھ جو بذات خود "واقعات" کی ایک منصوص ترتیب کا نام ہے ذائق و انفرادی ہو گیا ہے۔ اس طرح بہ شخص اپنا زمان مکان اپنے ساتھ لیجے بھرتا ہے۔ اس موضوع پر بحث کرنے ہوئے برٹنڈرسل لکھتے ہیں:

"نظریہ اضافت کا یہ پہلو فلسفی کے لیے نہایت اہم ہے کہ اس کی رو سے عالمی زمان اور ایک مستقل بالذات زمان کی نقی ہو گئی ہے اور ان کی جگہ زمان / مکان اکٹھی نہ لی لی ہے۔ یہ تبدیلی نہایت اہم ہے کیون کہ اس سے ہمارے عالم طبیعی کی ساخت کا تصور یکسر بدل گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کے اثرات نفسیات پر بھی ہوئے ہیں.... جگہ کا تصور بھی بالکل مبہم ہے۔ کیا لندن ایک جگہ ہے؟ لیکن کرہ ارض تو گھووم رہا ہے۔ کیا کرہ ارض ایک جگہ ہے؟ لیکن وہ تو سورج کے گرد گھووم رہا ہے۔ کیا سورج ایک جگہ ہے لیکن سورج تو ستاروں سے اضاف طور پر گردش کر رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک خاص وقت میں تم جگہ کا ذکر کر سکتے ہو لیکن وقت معین کیا ہے؟ جب تک تم ایک خاص جگہ کے تعین کی بات نہ کرو۔ بس مکان یا جگہ کا تصور خائب ہو گیا ہے۔"

ایم کی ساخت سے متعلق جو انکشافات ہوئے ہیں ان کی رو سے ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا کی ہر شے "واقعات" پر مشتمل ہے اور زمان / مکان کے بر "واقعے" میں دوسرے "واقعات" بھی دخیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ "واقعات" حرکت کرنے والی مادے سے بہت کچھ مختلف ہیں۔ برٹنڈرسل کے خیال میں عنقریب "مادہ" اور "ذین" کے الفاظ کی جگہ مختلف "واقعات" کے نوین سبب و ترکیب لیے ہیں گے۔ جویں وجہ ہے کہ سوچوں نہ مادیت کو تبول کرنے ہیں اور نہ مثالیت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آخری

نظریے کا نام غیر جانبدارانہ احادیث رکھا ہے یعنی دنیا صرف ایک ہی قسم کے اساسی عنصر سے بنی ہے جسے وہ "واقعات" کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ، ادے اور ذہن کا فرق محض فریب خیال ہے۔ عالم کی اساس کو یا مادی کہا جا سکتا ہے یا ذہنی یا یہ کہ عالم دونوں سے مرکب ہے یا یہ کہ عالم ان میں سے کسی سے بھی مرکب نہیں ہے۔

مقدابر عنصری اور اضافیت کے نظریات کے اثرات معاصر فلسفے پر گھرے ہونے پہنچنے والے مادے کا قدیم روایتی نظریہ برقرار نہیں رہ سکا۔ مادے کے "واقعات" میں تحلیل ہو جانے اور مادے اور توانائی کے متبدل ہونے کے نظریے نے اسے خلط ثابت کر دکھایا ہے۔ جس طرح نظریہ اضافیت نے مکان / زمان کی اکائی پیش کی ہے اسی طرح مقدابر عنصری کی رو سے ذہن / مادہ کی اکائی سامنے آ رہی ہے۔ یہ اکائی نہ ذہنی ہے نہ مادی بلکہ چند "واقعات" پر مشتمل ہے جو اختلاف قوانین سبب و مسبب کے تحت مختلف علاقوں میں ترکیب و ترتیب پاتے رہتے ہیں۔ جس طرح میز کریں ایک "واقعات" سے مرکب ہیں اسی طرح انسانی ذہن اور انا بھی "واقعات" پر مشتمل ہیں۔ فلسفے کی زبان میں اسے معروض / موضوع کی اکائی کا نام دیں گے۔

بعض اہل علم کے خیال میں ان انکشافات کا ایک اثر فلسفے پر یہ ہوا ہے کہ مادیت پسندی کی جگہ برقرار نہیں رہ سکی۔ اذنگن کہتا ہے کہ ایم کے اجزاء کی حرکت آزادانہ ہے۔ ہائز برگ کے خیال میں انفرادی الیکٹرون کے عمل میں اختیار کا عنصر پایا جاتا ہے لیکن اس سے عالم ظواہر میں قانون سبب و مسبب کا ابطال نہیں ہوتا۔ طبیعت کا سلسلہ سبب و مسبب برقرار ہے اور عالم طبیعی کے تمام واقعات پر طبیعی قوانین کا تصرف باقی ہے۔ توانائی کی لمبڑوں میں قدر و اختیار پایا جائے تو یہی جب توانائی مادے کی صورت اختیار کریں ہے تو یہ مادہ سلسلہ سبب و مسبب کے تصرف میں آ جاتا ہے۔

مثالیت پسندی

مادیت پسندوں کے خیال میں مادہ حقیقی ہے اور ذہن اس کی نہود ہے۔ اس کے بر عکس مثالیت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ ذہن حقیقی ہے اور مادہ اس کا عکس ہے۔ تاریخ فلسفہ میں یہ نزاع قدیم زمانے سے یادگار ہے۔ اس بات کا شروع ہی سے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ تاریخی لحاظ سے مادبیت کا تعلق پیشہ سائنس سے رہا ہے اور مثالیت پیشہ مذہب سے وابستہ رہی ہے۔ مائلٹس کے باشندوں طالیع۔ اناکسی مینڈر اور اناکسی مینس کا نقطہ نظر تحقیقی اور علمی تھا کیوں کہ انہوں نے موجودہ مذاہب کے صنیقات خرافات سے قطع نظر کر کے مظاہر کائنات کی براہ راست توجیہ و تشریع کرنے کی جگارت کی تھی۔ مثالیت پسندی میں عارف ملت۔ دایونیسیس کی پوجا۔ یہی اسرار وغیرہ کے باطنیہ عناصر شامل ہو گئے۔ افلاطون کو مثالیت پسندی کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے نظریات میں عقلیت اور عرفان، منطق اور باطنیت ممزوج صورت میں دکھانی دیتے ہیں۔ مورخین فلسفہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افلاطون نے فیٹا غورمن۔ پارسی نائیس۔ بیریقلیس^۱ اور سocrates کے انکار میں مطابقت پیدا کر کے اپنا نظام فلسفہ مرتب کیا تھا۔ اس لیے مثالیت پسندی کے ان مأخذ کا جائزہ مفید مطلب ثابت ہو گا۔

فیٹا غورس (۵۰۰ - ۳۲۰ ق - م) عارف ملت کا ایک مصلح تھا۔ اس ملت کا آغاز ائیکا میں ہوا تھا۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کی اشاعت اطاہیہ کی جنوی ریاستوں اور صقلیہ میں ہوئی۔ ابتداء میں اس ملت کا تعلق شراب اور راگ کے دیوتا دائونیسیس کی پوجا سے تھا۔ دائونیسیس کے تھوار پر اس کے پچاری شراب پی پی کر میہ ملت ہو جاتے اور حالت وار فنگی میں مستانہ وار جھوہنستے جہامتے جلوس نکالتے تھے۔ ان میں عورتیں بھی شامل ہوئی تھیں جو نشر کے عالم میں دیوانہ وار رقص کر کر ہوئی چلتی تھیں۔ اس حالت میں جو جانور پچاریوں کے سامنے آ جاتا اس کی تکا بوفی کر کے کچا چبا جاتے تھے۔ Enthusiasm (لغوی معنی "خذدا کا کسی میں حلول کر جانا") اور Ecstasy (لغوی معنی "از خود رفتگی") کے الفاظ اس پوجا سے یادگار ہیں۔ جلوس کے خاتمے پر اجتنامی رقص بوتا جس کے دوران میں شرم و حجاب کی پابندیاں آئیں دی جاتی تھیں۔ دائونیسیس کی پوجا کی رسوم کو تھریس کے ایک شخص عارفیوس نے

(۱) بیریقلیس کا ذکر مادبیت پسندی کے ضمن میں آ چکا ہے۔

مدون کیا۔ امن نہیں تاریخی شخصیت کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک باکمال گوتا اور صاحب حال صوف تھا۔ اس کے پھر واس دنیا کو زندگی کو زندگی کو دکھ سمجھتے تھے۔ آن کا عقیدہ تھا کہ انسان پیدا ہوتے ہی جنم چکر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام تر کوششیں اس سے نجات پانے کے لئے وقف ہو جائی چاہیں۔ عارفیوں سے ایک نظم بھی منوب کی جائی ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی میں زمین دوز عالم عقبی کی سیاحت کی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ انسانی روح کو بہشت بربن میں پہنچنے میں کڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیثاغورس نے حیات بعد موت کا عقیدہ عارفیوں سے اخذ کیا تھا۔ روح کی بقا کا تصور الیسینی اسرار کا بھی مرکزی عقیدہ تھا۔ یہ اسرار عوام سے چھپ چھپ کر دیوبی دمیتر کی یاد میں منائے جاتے تھے۔ اس مت کے پیرواؤ سے رسوم عبادت کو خفیہ رکھنے کا سخت عہد لیا جاتا تھا اس لیے یہ معلوم نہیں ہوا کہ پچاریوں کا طرز عبادت کیا تھا۔ پلوٹارک بھی اس انجمن کا ایک رکن تھا۔ اس نے کہیں کہیں اشارے کیے ہیں جن سے مفہوم ہوتا ہے کہ خفیہ جلسوں میں بقائے روح کے حصول کے لیے چند رسوم ادا کی جاتی تھیں اور انجام کی بال کو اس الجمن کا علاجی نشان مانا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنم طرح دانہ زیر زمین جا کر دوبارہ اگ آتا ہے اسی طرح انسان بھی دفن ہونے کے بعد ایک اور دنیا میں زندہ ہو کر آٹھ کھڑا ہو گا۔ Orgy (لغوی معنی ہے 'تقطیر' یعنی روح اپنے آپ کو مادے کی آلانس سے کیسے پاک کر سکتی ہے) اور Theory ('پر جوش تعقیب' جس کی حالت میں روح مادے سے پاک ہو کر جنم چکر سے نجات پا سکتی ہے) کے الفاظ انہی بالغینی سے پادرگار ہیں۔ اسی طرح تناسخ ارواح کا تصور ابتدائی صورت میں عارفیوں کے ہمراں موجود تھا۔ جو بقول بیرونیوں یونانیوں نے مصریوں سے لیا تھا۔ بہر صورت جب فیثا غورس نے عارف مت کی تجدید و اصلاح کا بیڑا الہایا تو اس نے بقائے روح اور تناسخ ارواح کے اساسی عقاید کو من و عن قبول کر لیا۔

فیثا غورس نے عالم شباب میں مصر۔ بابن اور ایران کی سیاحت کی تھی اور وہاں کے اپل علم سے فیض حاصل کیا تبا۔ مصر میں شہنشاہ کمبوجیہ پخامنشی نے اسے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ شام لے گیا۔ کمبوجیہ کی وفات پر اسے ربائی نصیب ہوئی۔ اور وہ بابل چلا گیا جہاں اس نے ریاضی اور بست کی تعلیمیں کی۔ وہنی لوٹ کر اس نے ایک تعلیمی انجمن قائم کی جس کا نظام عارف یعنیہ کی یاد دلاتا ہے۔ فیثا غورس کے مکتب میں تعلم مخلوق تھی اور صلبہ دو جمتوں میں منقسم تھی جنہیں رسمی علوم پڑھانے جاتے تھے انہی ظاہرہ، کہا جاتا تھا۔ منتخب طبقہ کو گوشہ تھاں میں عرفان و سلوک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اپنی عائینہ کا نام دیا گیا۔ فیثا غورس اور اس کے پھر و حنف چکر اور تناسخ ارواح پر محکمہ عقیدہ رکھتے تھے۔ ایک دن فیثا غورس نے راستہ چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص اپنے کتنے کو بے دردی سے پیٹ رہا ہے اور کتنا زور زور سے چیخ رہا ہے۔ فیثا غورس اس کے قدر

دیا اور کہنے لگا "اس کرنے کو نہ مارو۔ اس کی چیزوں میں مجھے ایک مرے ہوئے دوست کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ فیشا غورس کے سلک میں گوشت اور لوپیا کھانا۔ سفید مرغ کو چھونا۔ ہوری روٹی کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا۔ رات کو جراغ کی روشنی میں آئندہ دیکھنا۔ جلتی ہوئی آگ کو لوہے سے چھونا مندou تھا۔ فیشا غورس کے افکار کی تشرع کرتے ہوئے برٹ لکھتا ہے:

"(فیشا غورس کے خیال میں) اس دنیا میں ہم اجنبی ہیں۔ جسم روح کا مزار ہے اس کے باوجود ہمیں خود کشی کر کے اس سے نجات نہیں پانا چاہئے کیوں کہ ہم غلام ہیں۔ ہمارا آقا خدا ہے جس کے حکم کے بغیر ہمیں اس دنیا سے فرار کی اجازت نہیں ہے۔ اس دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں جیسے اولمپک کے کھیلوں میں آئے والے لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ سب سے نچلا طبقہ وہ ہے جو خرید و فروخت کے لیے آتا ہے ان سے برتر وہ لوگ ہیں جو کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ اعلیٰ ترین طبقہ مخصوص تمثاشی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نفس کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی تحصیل علم میں مصروف رہے اور اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دے۔ یہی سچا فاسنی ہے جو جنم چکر سے نجات پا لیتا ہے" ۱۔

لفظ فیلسوف یا فلسفی فیشا غورس ہی کا وضع کیا ہوا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے 'دانش دوست'۔ اس کے خیال میں تفکر و تعمق اور وجود حال کو بروئے کار لا کر جو شخص جنم چکر سے نجات پالیتا ہے وہی فلسفی یا دانش دوست ہے۔ فیشا غورس کے پیرو روح کو جسم کے زندان سے ربانی دلانے کے لیے فلسفے کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پیش 'موسیقی اور ریاضی میں اجتہادی اخافی' کہے۔ یہ علوم فیشا غورس کے نظریہ اعداد سے متاثر ہوئے۔ اس نے اصوات کو پندسے کے اصولوں پر تقسیم کیا۔ وہ اعداد کو اصل حقایق مانا تھا اور موسیقی کی آوازوں کی ترکیب میں وہی حسن اور تناسب تلاش کرتا تھا جو اعداد میں پایا جاتا ہے۔ اس نے عدد کو مستقل بالذات اکٹی مانا اور اسے تمام وجود کا اصل اصول قرار دیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اعداد کے بغیر کائنات میں یکسانیت، تناسب یا توافق برقرار نہیں رہ سکتا۔ کائنات کی اسی آفاق یکسانیت اور تناسب کے باعث اس نے اسے Cosmos کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اعداد ہی بہ شے کی اسی میں اور خدا کی وجہ کا جو پر ہے۔ وہ ضد جو طاق اور جفت کے اعداد میں موجود ہے۔ ان تضادات کے توازن ہی سے فطرت (نیجہ) معرض وجود میں آئی ہے۔ مادی دنیا کے علاوہ وہ غیر مادی عالم ہر ہی اس اصول کا اطلاق کرتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ محبت، ذوقی، عمل، خیر، صحت وغیرہ بھی اضداد کے توازن سے صورت پذیر ہوئے ہیں۔ تھے کے خلاف میں ۸ کا پندرہ سو محبت اور دوستی کی توضیح درتا ہے۔ ۱۰ کا پندرہ

مکمل واکمل ہے۔ طاق اعداد جفت اعداد سے زیادہ سعد ہوئے ہیں۔ فینا غورس کے بیرو عالمی تواافق اور موسیقی کے صوق تواافق کو واحد اصل ماننے تھے۔ ہمارے زمانے میں ان سٹانن نے موسیقی کے تواافق پر غور کرنے ہوئے کائنات کے تواافق کا راز دریافت کیا تھا۔ اور گویا فینا غورس کے نظرے کی تصدیق کی تھی۔ فینا غورسیوں ہی نے سب سے پہلے زمین کو ایک سیارہ قرار دیا تھا۔ ارسٹو نے اس خیال کی سخت مخالفت کی لیکن جیسے بالآخر فینا غورسیوں کی ہوئی۔ کوبرنیکس اپنی کامیابیوں منت تھا۔

فینا غورس کے اجتہاد فکر نے ریاضی کو خاص طور سے متاثر کیا Mathematics کی اصطلاح آسی کی وضع کی ہوئی ہے۔ آس کے ریاضیات طرز فکر کا سب سے بڑا اثر الیاطون اور آس کے واسطے سے بعد کے مثالیت پسندوں اور عقلیت پسندوں پر ہوا۔ الیات اور نظریہ علم کو ریاضیاتی اسالیب کے رنگ میں مرتب کرنے کی کوشش کا آغاز ہوا اور فلسفہ شروع ہی سے ریاضیات کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں برٹنڈ رسنل نے والٹ بیڈ کے ساتھ مل کر منطق کو از سرنو ریاضیات کی بنیادوں پر مددوں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ، عہد فینا غورس میں ریاضیات کی اساس پر فرض کر لیا گیا کہ فکر^۱ حس^۲ سے برتر ہے حسیات پر محمد تغیر پذیر ہوئے ہیں اور ان پر ریاضیاتی اصولوں کی کارفرمائی ممکن نہیں ہے اس لیے یہ سمجھا گیا کہ حسیات فکر سے فرو تر ہیں اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے چنانچہ ایسے امول فکر وضع کیجئے گئے جو ریاضی کے اصولوں کے مثالیں اور قریب ترین تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ما بعد الطبیعتیات اور نظریہ علم میں کئی غلطیاں سراحت کر گئیں۔ اس نوع کا فلسفہ فینا غورس سے شروع ہوا تھا۔ برٹنڈ رسنل کہتے ہیں کہ ریاضیات سب سے بڑا مأخذ ہے اس عقیدے کا کہ کائنات میں کچھ ازیٰ وابدی صداقتیں موجود ہیں یا کوئی عالم ایسا بھی ہے جو حسیات سے ماوراء اور برتر ہے۔ امن انداز فکر کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ صرف عقلی استدلال ہی سے ازیٰ وابدی صداقتیں کو یا برتر عالم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا فکر حس سے افضل ہے اور معقولات محسوسات کی پہ نسبت زیادہ حقیقی ہیں۔ اسی بنا پر فینا غورس نے دعویٰ کیا تھا کہ اعداد حقیقی ہیں ازیٰ وابدی ہیں اور زمان و مکان سے ماوراء ہیں۔ بعد میں افلاطون نے ان اعداد کو امثال (Ideas) یا forms کے نام دیے اور کہا کہ امثال حقایق نفس الامر ہیں ازیٰ وابدی ہیں جب کہ محسوسات گریزیا اور نتا پذیر ہیں۔ افلاطون کا یہ نظریہ یہی فینا غورس سے ماخوذ ہے کہ عالم ازیٰ وابدی صرف شغل استدلالی ہی پر منکشf ہو سکتا ہے اس تک محسوسات کی رسانی نہیں ہو سکتی۔ یہ تصور افلاطون سے ائے کہ بیگل تک تمام مثالیت بسندی کا سنگ بنیاد ہے۔ برٹنڈ رسنل کے الفاظ میں:

”فینا غورس نے ریاضی کو بھی ترقی دی۔ ریاضی ہی برا اس خیال کی بنیاد

رکھی گئی کہ فکر حواس سے برتر ہے اور وجдан مشاہدے سے الفضل ہے۔ اسی لئے فلسفے میں بھی اکملیت کے حصول کی کوشش کی گئی اور یہ کوشش مابعد الطبیعتیات اور نظریہ علم ہو بھی اثر انداز بیفی۔ ریاضی ہی مانند ہے اڑی و ابدی صفات میں عقیدہ رکھنے کا با ایسے عالم کو ماننے کا جو حوار سے برتر ہو۔ یہ خیال بھی ریاضی ہی سے لیا گیا ہے کہ فکر حواس سے برتر نہ ہے اور معمولات محسوسات سے زیادہ حقیقی ہیں۔ باعثیہ کا نظریہ زمان ریاضی ہی سے تقویت پذیر ہوا۔ نیز یہ عقاید ریاضی سے ماخوذ ہیں کہ اعداد حقیقی ہیں اور زمان سے ماؤراء ہیں یا افلاطون کے امثال عالم مادی سے ماؤراء ہیں۔ عقیدت پسند فینا غورس کے زمانے ہی سے ریاضیات کے زیر اثر دے ہے ہیں۔ افلاطون نے خدا کو مابر پندرہ کھا ہے اور جمیز جینز آسے عالم ریاضیات سمجھتا ہے۔ ریاضیات اور النہبات کا امتزاج جو فینا غورس سے شروع ہوا تھا یونان کے مذہبی فلسفے۔ از منہ وسطی کے فلسفے اور بارے دور میں کائنٹ تک کے افکار میں نفوذ کر گیا۔ افلاطون، آگٹھن ولی، طاسن اکٹوناس، دیکارٹ، سپینوزا، لائب نش کے نظریات میں مذہب اور عقل جس طرح ممزوج ہوئے ہیں وہ عارف مت کی قدیم روایت ہے کیونکہ جس شے کو افلاطونیت کھا جاتا ہے اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہ اصلاً فینا غورسیت ہی نکلے گی۔ یہ خیال کہ کوئی عالم حقیقی بھی ہے جسے صرف عقل پا سکتی ہے اور جو حواس کی دسترس سے بالاتر ہے فینا غورس ہی سے لیا گیا ہے۔ فینا غورس نہ بوتا تو عیسائی جانب عیسیٰ کو "کلمہ" نہ کہتے اور متکلمین نہ خدا کی بستی کا ثبوت تلاش کرتے نہ حیات بعد موت کے ایاث کی کوشش میں سرگردان ہوتے۔

افلاطون کے پیش روؤں میں پارسی نائیس ایاطی ایک بلند پایہ فلسفی ہو گزرا ہے۔ اس کا وطن ایلیا کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو اطالیہ کے مغربی ساحلی پر واقع تھی۔ اسی نسبت سے اس کے فلسفے کو ایاطی کا نام دیا گیا ہے۔ طالیس کے بعد کے فلاسفہ کو یہ خیال مسلسل پریشان کرتا رہا۔ کہ اس عالم کثرت و ظواہر کے ہس پرده یقیناً کوئی مستقل بالذات اصول کار فرمایا ہے۔ اس اساسی اصول کی مطہیت پر اختلاف رائے تھا۔ ایاطی فلاسفہ نے اصول واحد کو "وجود" کا نام دیا۔ پارسی نائیس ابتداء میں فینا غورس کا پیرو تھا۔ اواخر عمر میں اس نے اپنا مستقل فلسفہ پیش کیا اور کہا کہ وجود ہی قطعی حقیقت ہے۔ حواس کا عالم فریب نظر ہے بعض ظواہر پر مشتمل ہے۔ وجود عدم سے بیدا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے وجود کے واکچہ نہیں ہے۔ وجود بعض ہے۔ پارسی نائیس سب سے پہلے عقل اور حس میں تبیز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حواس کا عالم ظواہر کا عالم ہے غیر حقیقی ہے باطل ہے۔ حقیقی وجود دو ہم صرف عقلي استدلل ہی سے جتن سکتے ہیں۔ ہمارے حواس پریب نظر کا باعث ہوتے ہیں۔ صفات صرف عقل میں ہے۔ عقلي استدلل میں ہے۔ بھی

نظیرہ، بعد میں مثالیت کا خیال غائب بن گیا کہ "صداقت عقلی استدلال میں ہے حواس میں نہیں ہے۔" مادیت پسندی کا اصل اصول یہ ہے کہ حواس کا عالم ہی حقیقی عالم ہے۔ مثالیت کی رو سے حواس کا عالم صرف ظواہر کا عالم ہے۔ پارمی نائیس کثرت فی نمائش اور حرکت کے ساتھ زمان و مکان کے خلا کو بھی حواس کا فریب مانتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے وہ نہوں ہے۔ اس لیے سیس کے خیال میں پارمی نائیس مادیت پسند ہے۔ پارمی نائیس کا قول ہے "ایک مادہ ہے جو بھیلا ہوا ہے اور گرے کی شکل ہے۔" فربنک تھی کہتا ہے کہ پارمی نائیس وحدت وجود کا قائل ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کائنات خدا ہے اور یہ خدا خالص روح نہیں ہے بلکہ زندہ نظرت کا دوسرا نام ہے۔ دوسرے یونانی فلاسفہ کی طرح وہ فطرت (نیچر) کو زندہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر اور وجود ایک ہی ہیں۔ جس پر فکر نہ کیا جا سکے وہ موجود نہیں ہو سکتا اور جو موجود نہ ہو آس پر فکر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں فکر اور وجود واحد الاصل ہیں۔ حقیقت باشمور ہے اور ذین کی مالک ہے۔ اس لیے بھی فکر اور وجود ایک ہیں۔ حقیقت میں تغیر ناممکن ہے۔ تغیر کا احساس ہمیں حواس سے ہوتا ہے اس لیے تغیر فریب نگہ ہے۔ پارمی نائیس عقل استدلائی پر حکم عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ بھی فکر کے متضاد ہو وہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔

زینو الیاطی نے پارمی نائیس کی تائید کرتے ہوئے مکان اور زمان سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا انہیں فلسفے میں بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔ تغیر اور حرکت کے خلاف آمن کی مشہور دلیل یہ ہے کہ پرواز کے وقت ایک تیر ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر موجود نہیں ہو سکتا اس لیے وہ ایک خاص لمحے میں ایک ہی جگہ، ہو گا نہ کہ دو جگہوں میں۔ اس لیے آڑان کے بر لمحے میں کہیں نہ کہیں ساکن ہو گا۔ اس لیے شروع سے آخر تک ساکن ہو گا لہذا حرکت ناممکن ہے۔ زینو پہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کثرت اور حرکت نہ صرف غیر حقیقی ہیں بلکہ ناممکن ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ میں تضاد ہایا جاتا ہے۔ ارسٹونے زینو کو جدلیات کا بانی کہا ہے۔ جدلیات میں جو غلط ہو اس کی تردید خود آس سے کرانی جاتی ہے۔ تیر کی مثال سے زینو نے آن تضادات کی طرف توجہ دلانی ہے جو زمان، مکان سے متعلق ہمارے ذہن میں ہیں اور اس نتیجے لہ پہنچا کہ حرکت غیر حقیقی ہے۔ اس لیے جیسا کہ پارمی نائیس نے کہا ہے "صرف وجود ہے" جس میں کوئی کثرت نہیں لہ جو سکام حرکت اور تغیر سے مبترا ہے۔ متاخرین میں کائنات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے زمان و مکان کے تصورات میں تضادات غافی ہیں لہذا زمان و مکان حقیقی نہیں ہیں مخصوص ظواہر ہیں اور زمان و مکان کا حقیقت نفس الامری سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے ذہن نے اپنی محدود رسانی کے باعث زمان و مکان کا تصور کھٹا کر دیا ہے۔ ہیگل نے بھی زینو کی جدلیات سے کام لیا ہے۔

الیاطی فلسفہ پہلی احادیث^۱ ہے یعنی اس نے کائنات کی تشرع ایک ہی اصل اصول سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعد میں سینوزا اور این عربی کے انکار میں یہی احادیت تبودار ہوئی تھی۔ احادیت اصولاً ثبوت کے انکار کی نفی کردنی ہے احادیت پسند۔ (۱) خدا کے شخصی تصور۔ (۲) روح کی بنا۔ (۳) قدر و اختیار کے منکر ہوتے۔

پارسی نائیدیس اور زینو کی اولیات درج ذیل ہیں:

- (۱) وہ مابعد الطبیعتیات اور جدلیات کے باقی ہیں۔ انسانی فطرت کے دو پہلو ہیں ایک آسے تصوف کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا سائنس کی طرف۔ ان کے انعام یا کشمکش سے فکر و تدبیر کو بروئے کار لا کر کائنات کو ایک 'کل' کی صورت میں تصور کیا گیا ہے اور اسے 'حقیقت مطلق' کہا گیا ہے۔ مابعد الطبیعتیات اسی حقیقت مطلق کی جستجو کا نام ہے۔
- (۲) انہوں نے حس اور عقل۔ غیر مرنی حقیقی اور مرنی شیر جیقی۔ ظاہر اور باطن میں تفریق کر کے مثالیت پسندی کا اصل اصول قائم کیا۔
- (۳) پارسی نائیدیس منطق یا جدلیات کو مابعد الطبیعتیات کی کلید سمجھتا تھا۔ بعد کے مثالیت پسندوں اور عقلیت پرستوں نے یہی روش اختیار کی۔
- (۴) ارسطو نے زینو کی جدلیات ہی کو نئے سرے سے مرتب کر کے منطق قیاسی کی بنیاد رکھی تھی۔

(۵) الیاطیوں کا 'ایک' کا تصور افلاطون کے 'خبر مطلق' رواقین کی 'عقل آفاق' اور نواشراقیوں کے 'احد' کی صورت میں تبودار ہوتا رہا۔

- (۶) تمام اشیاء کے اصلاً ایک ہونے کا انکشاف کر کے پارسی نائیدیس نے مذہب و تصوف کو وحدت وجود اور فلسفے کو احادیت کے تصورات دیے۔ یہ نظریہ آسی سے یادگار ہے کہ کائنات ایک 'کل' ہے اور کثرت نکاہ کا فریب ہے۔ (۷) زمان غیر حقیقی ہے۔ تغیر و حرکت کے انکار سے زمان حقیقی نہیں رہ سکتا۔ اگر کائنات ایک 'کل' ہے اور ہر کہیں حقیقت واحد ہی کا جلوہ ہے تو ماضی، حال اور مستقبل کی تفریق فریب نظر ہوئی۔ یہ تصور بعد میں سینوزا، پیکل اور وجودیوں نے زیادہ شرح و بسط سے پیش کیا تھا۔
- (۸) مکتیں کا اسلوب زینو کی ایجاد ہے۔ بعد میں افلاطون نے اسے اختیار کیا تھا، افلاطون کا آستانہ سترات ۴۶۹ء ق۔ م میں ایتھنز میں پیدا ہوا۔ آس کا بدن گھٹا ہوا لیکن بے ڈول تھا۔ چہرے کے نقوش ناتراشیدہ بھدے تھے۔ ناک پچھی ہوئی گردن کندھوں میں نہیں ہوئی، ننگے پاؤں موٹا جھوٹا پہنچے ایتھنز کے کوچہ و بازار کے چکر لکایا کرتا تھا۔ آس کا پیشہ سنگ تراشی تھا لیکن آس نے کبھی کچھ کر کے نہیں دیا، فکر معاشر سے آزاد قلندر منش آدمی تھا۔ بھوپول کی پرورش اور کفالت میں

کو تابی کے باعث آس کی بیوی ہر وقت آئے جل کنٹی سنایا کرق - ایک روایت یہ ہے کہ آس نے شہر بھر کی سب سے تندخو اور زبان دراز عورت تلامش کرنے کے آس سے نکاح کیا تھا جس سے آس کا مقصد یہ تھا کہ آس کے طعنے میں سب سن دے اپنے صبر و حوصلہ کو تقویت دینا رہے - آخاز شباب میں ورزش کا شوقیں تھا - اس کی شجاعت خیر معنوی جسمانی قوت کا مالک تھا اور آپنی اعصاب رکھتا تھا - اس کی شجاعت سلم تھی - ایک دفعہ میدان جنگ میں آس نے نہایت پاس دی اور جفا کشی کا ثبوت دیا تھا اور اپنی جان جو کھم میں ڈال کر اپنے دوست القی بالندیس کی جان بچانی تھی - وہ شراب خوری کا عادی نہیں تھا - لیکن جب احباب کی مجالس میں پیالہ تھام لینا تو ہر سے بڑے بہنے والی آس کی بلا نوشی کے قائل ہو جاتے تھے - اس کے باوجود کبھی کسی شخص نے آسے بھکتی ہونے نہیں دیکھا اپنے آپ پر آسے ہورا قابو تھا - وہ پر وقت خور و فکر میں کھو دیا رہتا اور سوچتا رہتا کہ حداقت کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ وہ صبح سویرے اپنے ہندسے معبد کی دیوار کے سائے میں یا منڈی کے کسی کونے میں کھڑا کسی نہ کسی سے باتیں کرتا بوا دکھانی دیتا تھا - جب کبھی کوئی شخص اس سے کوئی سوال پوچھ بیٹھتا تو ستراط بھٹ کا عنوان پیدا کر لینا اور پھر تا بڑ توار موالوں سے مخاطب کے فکری مغالطوں اور الجھنوں کا پردہ چاک کر دیتا تھا - وہ آسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ آس کے خیالات میں ژولیدگی ہافی جاتی ہے - اواخر عمر میں آس نے اپنے ہندسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا کام اپنے ذمے لے لیا تھا مگر آس نے باقاعدگی سے کبھی درس نہیں دیا - وہ باتوں پاتوں میں انہیں ایم سیاسی، عمرانی یا اخلاقی مسائل کی طرف توجہ دلاتا رہتا تھا - آسے یہ معلوم کر کے سخت حیرت ہوتی تھی کہ بہت ہی کم اشخاص اپنی زندگی کے مقصد، معاشرے کے عقدوں یا اخلاقی قدروں سے متعلق سوچ بچار کرنے ہیں - وہ نہایت منکسر المزاج تھا اور اکثر کہا کرتا تھا "مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے" - وہ احتساب نفس اور شعور ذات کو ضروری سمجھتا تھا - آس کا قول ہے:

"جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا
وہ زندہ رہنے کے لاپق نہیں ہے۔"

ایپنے ہندسے نوجوان ستراط کے شیدائی تھے اور آس سے کسب فیض کے لئے آس کے ساتھ رہتے تھے - ان میں امراء اور روساء کے بیٹے بھی شامل تھے جن میں افلاطون، القی بالندیس اور ارسطو بس نامور ہوئے - یونان قدمے میں امرد پرستی نے باقاعدہ ایک معاشری ادارے کی صورت اختیار کر لی تھی اور لوگ کہنہ کہ لا نو خیزوں سے اظہار عشق کرتے تھے - مکالمت افلاطون سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ستراط بھی بعض نوجوانوں کی محبت کا دم ہوتا تھا اور وہ آس پر جان چھڑ کر نہیں ایک مکالمع غور جیسا میں ستراط کہتا ہے:

"اکا توں! مجھے القی بالندیس سے بھانا - میںی محبت نے اسے دبوانہ کر دیا

ہے۔ جب سے میں نے آسے دل دیا ہے مجھے کسی دوسرے حسین سے بات کرنے کا حق نہیں رہا حتیٰ کہ میں کسی کی طرف ایک نگاہ دیکھوں تو بھی وہ حسد سے جل بھن کر کتاب ہو جاتا ہے اور نہ صرف زبان سے برا بھلا کھتا ہے بلکہ مجھے برا باتھ چلانے سے بھی باز نہیں آتا۔ اس وقت مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے ایدا پہنچانے کا۔ اگر مجھے مارنے کی کوشش کرے تو مجھے آس کے باتھ سے چھڑا لینا میں آس کے جوشِ جنون سے سخت خائف ہوں۔“ القی بائیڈیس نے کہا ”تمہارے اور میرے درمیان کبھی صلح نہیں پوگی لیکن اس وقت میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔۔۔ سقراط نے میرے ساتھ ہی نہیں گلانتکون کے بیٹھے شارمیڈیس۔ داکلیز کے بیٹھے یوتھی ریس اور کئی دوسروں کے ساتھ بدللوکی کی ہے۔ شروع شروع میں یہ شخص محبت کا دم بھرتا ہے بعد میں خود محبوب بن بیٹھتا ہے۔“

افلاطون اور زینوفون دونوں کی روایات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سقراط کے اس نوع کے معاشرتے ہوا وہ میں سے پاک تھے۔ ایتھنیز کے ارباب اختیار کو سقراط کا نوجوانوں سے ربطِ ضبط ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور عام طور سے آس پر یہ الزام لکایا جاتا تھا کہ وہ نوجوانوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے۔ سزید براں سقراط بت پرسنی کا مخالف تھا اور روایتی رسوم عبادت ادا کرنے سے گریز کرتا تھا۔ وہ ایک خدا کو مانتا تھا۔ اس بنا پر لوگ آسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سقراط کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک خفیہ باطنی آواز آسے ہر سے کاموں سے منع کرتی ہے اور پدایت دیتی ہے۔ یاد رہے کہ اس دور کے حکام امراء اور روساء کو ناپسند کرتے تھے۔ سقراط کی صحبت میں امراء کے بیٹھے بیٹھتے تھے جس سے حکام وقت کو خلشدہ لاحق رہتا تھا کہ یہ لوگ مل بیٹھے کر عوامی حکومت کے خلاف سازشیں کیا کرتے ہیں۔ انہی وجودوں کی بنا پر سقراط پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ مقدمے کے دوران سقراط نے تمام الیامات کی مدلل اور ہر زور تردید کی لیکن منصف صاحبان آسے اپنے راستے سے پٹانے کا تھہ کر چکے تھے۔ جب سقراط کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آسے موت کی سزا دی جائے گی تو آس نے آنہیں مخاطب کر کے کہا:

”میں تمہیں صاف صاف بنا دوں کہ اگر تم میرے جویسے شخص کو جان سے مار دو گے تو تم مجھے اتنا فرار نہیں پہنچا سکو گے جتنا کہ اپنے آپ کو پہنچاؤ گے۔“

سقراط اپنے آپ کو بڑی مکھی اکھا کرتا تھا۔ وہ سکھتا تھا کہ برا معاشرے میں ایک بڑی مکھی کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں غور و فکر پر مجبور کرتے رہے۔ اور آنہیں اپنی خامیوں اور کوتاپیوں کا احسان دلاتی رہے۔ آس نے اپنے ششمتوں سے کہا کہ کسی شخص کو اختلاف رائے پا تنقید کرنے کے جرم

میں قتل در دینے سے کوئی سیاسی یا معاشری عقدہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ ان عقدوں کے سلسلہ میں کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حکام وقت خود اپنی اصلاح کریں۔ اس کے الفاظ یہں :

”اگر تم سمجھتے ہو کہ دوسروں کو قتل کر کے تم انہیں اس بات سے باز رکھ سکو گے کہ وہ تمہاری برافی پر ملامت کریں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ فرار کا یہ راستہ عزت کا راستہ نہیں ہے نہ ایسا کرنا ممکن ہے۔ سب سے آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ دوسروں پر جبرو تشدد کرنے کی بجائے تم لوگ خود اپنے آپ کی اصلاح کرو۔“

لیکن منصف صاحبان تو آسے خار را سمجھتے تھے چنانچہ اسے موت کی سزا منانی گئی۔ اس زمانے میں ایتھریز میں یہ دستور تھا کہ مجرم کے عزیز داروغہ زندان کو کچھ دے دلا کر مجرم کو ملک سے باہر بھاگ لے جانے تھے۔ سفراط کے شاگردوں نے اسی کوشش کی لیکن سفراط نے بھاگ جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا میں ستر برس کا بڑھا ہوں موت مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتی اور موت کوئی ایسی شے بھی نہیں کہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کی جائے۔ سفراط حیات بعد موت کا قائل تھا۔ آسے اس بات کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اس کی روح اپسے عالم میں جانے کی جہاں اس کے لیے اذلی مسرت کا سامان موجود ہے۔ موت کا دن آیا تو سب سے پہلے سفراط نے بیوی بھوں کو رخصت کیا کہ آن کی گردہ زاری اس کے آخری لمحات کو تلخ نہ کر دے۔ پھر داروغہ سے زبر کا بیالہ لانے کو کہا۔ سفراط کے شاگرد غم وال م سے نڈھاں اس کے گرد سر نگوں یہٹھے تھے۔ سفراط نے داروغہ سے بوجھا ”موت کو سہل کیسے بنایا جا سکتا ہے۔“ اس نے جواب دیا آپ زبر پر کر ہٹلنا شروع کر دیں۔ جب ثانگیں شل ہو جائیں تو لیٹ جائیں۔ زبر کا ۲۴ ٹھر ثانگوں سے دل و جگر میں آٹر جانے کا اور موت واقع ہو جانے کی۔ چنانچہ سفراط نے نہایت اطمینان سے زبر کا بیالہ پونٹوں سے لکایا اور غنائم پی گیا۔ اس پر اس کے شاگرد بے اختیار رونے لگئے۔ چاروں طرف سے گھنی گھنی سکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سفراط نے ادھر آدھر ہٹلنا شروع کر دیا۔ جب ثانگیں بے کار ہو گئیں تو وہ لیٹ گیا اور کہا تم لوگ ضبط اور حوصلے سے کام لو۔ میں نے عورتوں اور بھوں کو اس لیے بٹا دیا تھا کہ وہ رونا پیشنا شروع کر دیں گے۔ آخر اس نے محسوس کیا کہ زبر رک و پے میں آٹر کیا ہے۔ اس نے نہایت سکون سے کریشو سے کہا ”اسکلپس سے میں نے ایک مرغ آدھا لیا تھا۔ یہ قرض چکا دینا اور دیکھو بھونا مت“ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے ساتھ ہی موت راحت کی نیند بن کر اس کی پلکوں پر اتر آئی۔

سفراط کا انداز نظر عملی و افادی ہے۔ اس نے کوئی مستقل نظام فلسفہ پیش کیا بلکہ لوگوں کو نیکی اور صداقت کی تلقین کی۔ انہیں صحیح فکر کی دعوت دی تاکہ وہ صحیح عمل کر سکیں۔ وہ مابعد الطبيعی خیال آرائیوں کو یہ مصرف

سمجھتا تھا۔ اس نے کائنات کی آنہ پر بحث کرنے کی بجائے انسان کو عقل و خرد کی رہنمائی میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ سقراط کا فلسفہ تقدیم ہے کہ اس میں اصول علم کی تحقیق کی گئی ہے، عقلیاتی ہے کہ اس میں جستجوئے حل کے لئے عقلی استدلال سے کام لیا گیا ہے۔ مثالیاتی ہے کہ حقیقت کی توضیح میں ذہن انسانی دو سبب سے بڑا عامل مانا ہے۔ ثنوی ہے کہ اس میں عقل کے مقابلے میں ماشے دو فروٹر مقام دیا گیا۔ ہے۔

سقراط کی ذات سے فلسفے کی تین تحریکیں شروع ہوئیں جو بعض مسائل میں ایک دوسری کی متضاد ہیں۔ کابیت، لذتیت اور مثالیت۔ اس کا ایک شاگرد انطی تھیں کابیت کا بانی ہے وہ سقراط کی قائلدر مشربی سے متاثر ہوا۔ کلبی استغنا کو دانش و خرد کی علامت سمجھتے تھے اور دُنیوی مال و متعاق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انطی تھیں کا شاگرد دیو جانس کلبی اپنے پاس سوانی پانی پینے کے پیارے کے کچھ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک دبھاک لڑکے کو اوک سے پانی پیتے دیکھا تو اپنا پیارا بھی پھینک دیا۔ انطی تھیں کا قول ہے ”میں املاک کو اس لیے ناپسند کرتا ہوں کہ اس کا مملوک نہ بن جاؤں“ وہ ہمیشہ پھٹنے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ ایک دن اسی پیشہ کیانی میں سقراط کے پاس گیا۔ سقراط نے سکرا کر کہا ”تمہارے لباس کی دھیجیوں میں سے مجھے صاف طور پر تمہاری خود نمائی کی جھلک دکھانی دیتی ہے۔ روائیں انہی کلبیوں کے جانشین تھے۔“

سقراط کے ایک شاگرد ارسطوی ہس نے لذتیت کے مکتب فکر کی بنیاد رکھی جسے بعد میں اپیکورس نے اپنا لیا۔ وہ ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا جو حصول زر و مال کو زندگی کا مقصد واحد قرار دیتے ہیں۔ ایک دن ایک امیر سعیمن نے اسے اپنا محل دکھانے کے لیے مدعو کیا۔ سنگ مرمر کے محل میں پھرانتے پھرانتے معاً ارسطوی ہس نے سعیم کے منہ پر تھوک دیا۔ سعیم نے شکایت کی تو کہا ”سنگ مرمر کے محل میں تمہارے چہرے سے زیادہ اور کوئی موزوں جگہ دکھانی نہیں دی جہاں میں تھوک سکتا۔“ ایک دن ایک دوست نے ارسطوی ہس کو ملامت کرتے ہوئے کہا ”نم لے اپنے گھر میں کسی کیوں ڈال رکھی ہے۔ ارسطوی ہس نے جواب دیا ”مجھے ایسے مکان میں رہائش رکھنے یا ایسے جہاز میں سفر کرنے میں کیا ننک و عار محسوس ہو سکتا ہے جس میں اور لوگ بھی رہ چکے ہیں یا سفر کر چکے ہیں۔“ ایک دن وہی کسی ارسطوی ہس سے کہنے لگی میں تمہارے بھی کی مان بننے والی ہوں۔ جواب دیا ”یہ بتا سکنا کہ تو میرے ہی بھی کی مان بننے والی ہے اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی حاردار جہاڑی میں گر پڑنے کے بعد یہ بتا۔ مکنا کہ کس کائنٹ سے بدن پر خراش آئی ہے۔“

اہل نظر کا اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ مثالیت پسندی کا بانی سقراط کو سمجھا جائے یا انглаطون کو سقراط نے اپنی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی۔ اس کے متنتر انглаطون یا زینوفون کے بیان ملتے ہیں۔ بعض اہل رائے کہتے ہیں کہ انглаطون نے

اپنے استا۔ کے خیالات کو اپنے مکالموں میں جوں کا توں قلم بند کیا ہے۔ دو روں کا خیال ہے کہ افلاطون خود جو دن فکر کی دولت ہے مالا سال تھا۔ اس نے سقراط سے بے شک استفادہ کیا لیکن اس کا نظام فلسفہ خود اس کا اپنا مرتب کیا ہوا ہے۔ بہرحال مکالمات میں سقراط کے جو نظریات دکھانی دیتے ہیں وہ بذات خود بڑے اہم ہیں۔ جوں زمانے میں سقراط نے بوش سنبھالا ابھی نہ میں سوفسطائیون (لغوی معنی) (عاقل و دانا) کے نظریات کی اشاعت پوری ہی تھی۔ یاد رہے کہ اس دور سے پہلے کے یونانی فلاسفہ کا نقطہ نظر عالیٰ و افاق تھا۔ یعنی، ہر قیامتیں، دینا، قریبیں، یادیں نائیں، انا، کساغوریں وغیرہ نے کائنات کی کنہ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم مادیت پسندی کے ضمن میں دیکھ چکے ہیں کہ فلسفہ یونان جو پر کائنات کے تجسس سے شروع ہوا تھا۔ ابتداء میں سب سے اہم یہ سوال درپیش تھا کہ ”نیجر کیا ہے؟“ اور اس کے ساتھ صرفی سوال یہ تھا کہ ”انسان کیا ہے؟“ سوفسطائیون نے کہا کہ کائنات کو سمجھنے کی انسانی کوشش ہے کہ اور مضمون خیز ہے فلسفے کا اصل منصب یہ ہے کہ انسان کو سمجھنے کی کوشش کی جانے۔ چنانچہ انہوں نے اس سوال کو ابیعت دی کہ ”انسان کیا ہے؟“ اور یہ سوال صرفی اور ثانوی حیثیت اختیار کر گیا کہ ”نیجر کیا ہے؟“ ان کا خیال یہ تھا کہ انسان کو نیجر کے حوالے سے سمجھنے کی بجائے نیجر کو انسان کے حوالے سے سمجھا جائے۔ چنانچہ جب سوفسطائیون نے انسان کو فلسفیانہ تفکر و تجسس کا مرکز و محور بنایا تو کائنات کی بجائے ذین انسان اور عمل انسانی اپلی فکر کا اصل موضوع قرار پایا اور ایسے علوم کی ترتیب و تدوین عمل میں آئی جن کا تعلق خاصیباً انسان سے تھا۔ سوفسطائیون نے کوئی نیات اور النیات کی بجائے منطق، سیاست، بلاغت، خطابات، طبیعتیات، لغات اور شاعری کی تدریس شروع کی۔ اس طرح نئے نقطہ نظر کے مطابق معروض کے بجائے موضوع کو زیادہ ابیعت حاصل بنو گئی۔ برونا غوریں سوفسطائی کا قول ہے۔ ”انسان ہی ہر شے کا پہمانہ ہے۔“ یعنی جو میرے نزدیک صداقت ہے وہی اصل صداقت ہے جسے میں نیک سمجھتا ہوں وہی اصل نیک ہے۔ اسی مرحلے پر دنیاۓ فلسفہ میں موضوعیت اور فردیت نے بار بایا۔ غور جیسا سوفسطائی کہتا تھا کہ معروضی علم کا کوئی وجود نہیں ہے نہ اخلاق میں کوئی معروضی یا تطبیعی معیار ہو سکتا ہے۔ تھریسی میکس سوفسطائی نے کہا ”عدل و عصاف نام ہے حکمران طبقے کے مقاد کی نکھداشت کا۔“ وہ کہتا تھا کہ جنہ طاقت ورثو گوں نے کمزوروں اور غریبوں کو دبانے کے لیے قوانین بناؤ رکھیے ہیں اور مکار سیاست دان عوام کو مذبب کے نام پر دھوکا دے کر انہیں اپنا مطیع رہنا چاہتے ہیں۔ برونا غوریں نے علم کے مأخذ پر بحث کرنے بولنے لاک کی پیش قیاسی کی اور کہا کہ حسیات ہی حصول علم کا واحد وسیلہ ہیں اور کسی مازوںی حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح علم کے ہر شعرے میں تشکک کا دورہ ہو گیا اور صداقت، خیر اور حسن کو محض اخلاق قرار دے دیا گیا۔ سقراط کا نقطہ نظر اور طرزِ استلال سوفسطائیوں ہی سے ماخوذ تھا

کیونکہ اس نے بھی انہی کی طرح انسان ہی کو موضوع نکر بنایا تھا۔ دیو جانس کے بقول اس دلیل کا باتی جسے "سراطی" کہا جاتا ہے فی الاصل بروتاگور مس موسیطان تھا جن نے قواعد اور لسانیات کی بنیاد رکھی۔ بہر صورت سقراط موسیطائیوں کی موضوعیت اور علم و اخلاق میں ان کے تشکیل کا مخالف تھا۔ اس نے عقلی استدلال اور اخلاقی قدریوں کے مقام کو بحال کرنے کا کام شروع کیا جو بعد میں افلاطون اور ارسطو نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔

سب سے پہلے سقراط نے یہ دعویٰ کیا کہ کسی شے کی کنڈ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایسی خصوصیات کو پیش نظر رکھا جائے جن کے ذکر سے وہ شے صاف صاف سامنے آجائے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی صحیح تعریف کی جاسکے۔ سقراط کے خیال میں یہ کام صرف عقل ہی کر سکتی ہے۔ اس تعریف کو اس نے Concept کا نام دیا۔ یہ نظریہ بڑا انقلاب پرور ثابت ہوا۔ افلاطون نے اسی پر اپنے نظام فلسفہ کی بنیاد رکھی تھی۔ بعد میں یہ تمام مثالیت پسندی کا اصل اصول بن گیا۔ اس نظریے سے موسیطائیوں کے اس ادعا کی تردید مقصود تھی کہ علم حضن حتیٰ ادراک کا دوسرا نام ہے۔ اس طرح سقراط نے اپنے خیال کے مطابق موسیطائیوں کی موضوعیت کا۔ باب کر کے عقلی استدلال پر انسان کا عقیدہ دوبارہ بحال کر دیا۔

اخلاقیات میں سقراط نے صداقت، خیر اور حسن کی ازلی و ابدی قدریوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ قدریوں انسانی ذہن یا موضوع سے علیحدہ مستقل بالذات حیثیت میں موجود ہیں۔ اس نے خیرِ محض کی جستجو میں اخلاقیات کو فلسفے کی باقاعدہ ایک صفت بنا دیا۔ سقراط نے علم اور خیر کو لازم ملزم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ شر کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر بعد میں ارسطو نے یہ کہہ کر تنقید کی تھی کہ سقراط نے فطرت انسانی کے جذبات و بیجانات کو نظر انداز کر دیا ہے جن سے انسانی اعمال اثر پذیر ہوتے ہیں۔ مزید برآں سقراط نے کہا کہ کائنات میں مقصد نہیں ہے جیسا کہ مادیت پسند کہتے ہیں۔ کائنات میں مقصد و غایت ہے اور اس میں دوامی اخلاقی قدریوں موجود ہیں جن کے طفیل انسان خیر اور حسن کی کشش ہے۔ وہ کرتا ہے۔ افلاطون نے کائنات کے بامقصد ہونے کے اس تصور کو بعد میں بڑی شرح و بسط سے پیش کیا۔ سیاستیں میں سقراط نے کہا کہ مملکت کی باگ ڈور نیک۔ قابل اور انصاف پسند دانشوروں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جنہیں حکمرانی کی باقاعدہ تربیت دی گئی ہو۔ موسیطانی کہتے تھے کہ عدل نام ہے طاقت وردوں کے مقابل خصوصی کے تحفظ کا۔ سقراط نے کہا عدل کسی خاص طبقے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں تمام طبقات معاشرہ برابر کے شریک ہیں۔ اس نے ایک قسم کے اشتہل معاشرے کا تصور پیش کیا جس میں افراد اپنی قدرتی صلاحیتوں کی نشو و نما اور تکمیل کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کا قول ہے:

"انسان کے لیے ضروری ہے۔ وہ جماعت میں وہ در زندگی گزارے اور ذائق

مفاد پر جماعت کے مفاد کو مقدم رکھئے۔"

سفراط اپنے زمانے کے دانش فروش خطبیوں کا ذکر حقارت سے کرتا تھا :

"یہ لوگ نیل کے برتاؤں کی طرح یہی جنہیں ایک دفعہ ٹھوکا دے دیا جائے تو دیر تک بجتے رہتے ہیں۔"

جیسا کہ ذکر ہوچکا ہے سفراط حیات بعد نمات کا بھی قائل تھا اور کہا کرتا تھا کہ موت کے بعد دانش و رون کو ایک ایسے مثالی عالم میں جگہ ملے گی جہاں وہ تعقی و تفکر کی زندگی گزاریں گے۔ عظیم شعراء کے متعلق وہ کہتا تھا کہ وہ ہر وری سے نظم نہیں لکھتے بلکہ اس وقت لکھتے ہیں جب ان پر از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

الفلاطون : ۲۴۷ع ق - م میں ایتھنز کے ایک رئیس گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام ارسطو کا ہیں تھا۔ اوائل شباب میں دوسرے نوجوانوں کی طرح ورزشی کھیلوں میں پڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ نہایت شد زور جوان تھا۔ کشتنی لڑنے میں شہرت حاصل کی اور کئی میدان مارے۔ اس کے کندھے کشادہ اور توانا تھے اس لیے لوگ اسے پلانو کہنے لگے۔ بعد میں اسی نام سے مشہور ہوا۔ علوم موجود کی تعمیل گھر میں کی تھی۔ شعر گوفن کا شوق بھی رکھتا تھا۔ عین شباب کے عالم میں جب اس کے سامنے عیش و عشرت کی تمام راہیں کھلی ہوئیں توہیں سفراط کی شخصیت اور اس کی تعلیمات سے ایسا مسحور ہوا کہ تمام مشاغل ترک کر دیے۔ عشقیہ نظموں کے مسودات پہاڑ کر پہینک دیے اور اس کے حلہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ساری زندگی فلسفے کے لیے وقف ہو گئی ایک جگہ کہتا ہے۔

"خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مرد بنایا عورت نہیں بنایا اور مجھے سفراط کے عہد میں پیدا کیا۔"

افلاطون دس برس استاد سے فیض باب ہوا اور سفراط کی المناک موت سے ایسا متاثر ہوا کہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر دوسرے ملکوں کی سیاحت پر روانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر انہائیں برس ہو گی۔ بارہ برس تک مصر، صقلیہ اور اطالیہ کی سیاحت کی۔ صقلیہ میں فیشا غوریوں سے صحبتیں ریسیں جن کی باطنیت سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ ۳۸۷ع ق - م میں ایتھنز لوٹ آیا اور ایک باغ میں اپنی شہرہ آفاق اکیلسی قائم کی۔ باق ماندہ عمر یہیں درم تدریس میں گزار دی۔ اس کے مکتب میں زیادہ تر ریاضی اور نظری فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ افلاطون ریاضی کو اس قدر اہم سمجھتا تھا کہ اپنی درس گاہ کے سامنے کے دروازے پر یہ الفاظ کنندہ کروائیں:

"جو شخص پتندسہ نہیں جانتا اندر نہ آئے"

افلاطون نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ فلسفہ ہی اس کا اور ہر بیوہوں نا بن گیا۔ فلسفے کی غواصی اس کے ذوق شعر و ادب دو نہ دبا سکی۔ چنانچہ اس کے مکالات کا شہر لطف بیان کے لحاظ سے ادبیات عالم میں بوتا ہے۔ مکالات افلاطون میں جمهوریہ قوانین - ضیافت نہیں غور جیاس - اپالوجی - فیدو - سفسد - طیاروس - فیدرس اور

کرالولیس نہایت بلند پایہ ہیں۔ ان میں سمجھیل کا انداز نکارش پایا جاتا ہے اور کرداروں کی زندہ تصویریں چشمِ تصور کے آگے جھملانے لگتی ہیں۔ افلاطون نے مثالی ملکت کا تصور بیش کیا تو صقلیہ کے بادشاہ دانوتوسیوس نے اسے بلا بھیجا کہ آئجے میری ریاست کو مثالی ملکت میں تبدیل کر دیجئے۔ افلاطون اس کے بہان گیا تو کسی بات پر دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بادشاہ نے طیش میں آکر افلاطون کو غلام بننا کر بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ فلسفی کے ایک شاگرد نے اس کی قیمت ادا کر کے اسے رہانی دلوائی۔ افلاطون اپنے لوث آیا جہاں اسی بوس کی عمر میں وفات ہائی۔ اس کی موت نہایت پرسکون ہوئی۔ ایک دن وہ کسی عزیز کی دعوت عروسی میں شریک تھا۔ رات گئے تک پنگامہ ناؤ نوش گرم رہا۔ افلاطون کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک کرسی پر دراز ہو گیا اور سو گیا۔ صبح سویرے میزبان نے اس کا پہنہ کیا تو وہ ابدي نیند سو چکا تھا۔

افلاطون کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے امن کے نظریہ امثال کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ یہ امثال یا عیون وہی ہیں جنہیں سقراط نے تجربیدات فکری با کسی شے کی تعریف کا نام دیا تھا۔ یہ نظریہ حقیقت اور ظاہر یا حس اور عقل کے انتیاز سے پیدا ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سب سے پہلے پارسی نائلیس نے کہا تھا کہ صداقت عقل استدلالی میں ہے اور عالمِ حواسِ محض فریب نظر ہے۔ بیریقلیس اور دیما قریطس بھی عقلیت پسند تور سو فسطانی آئئے تو انہوں نے اس فرق کو ہٹا کر رکھ دیا اور کہا کہ علم صرف حواس ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ سقراط اور افلاطون نے کہا کہ علم تجربیدات فکری سے حاصل ہوتا ہے یا دوسرے الفاظ میں عقل استدلالی ہی سے میسر آ سکتا ہے۔ افلاطون نے کہا کہ یہ تجربیدات فکری صرف تفکر کا ایک قانون نہیں ہیں بلکہ مستقل بالذات ما بعدالطبعی حقائق ہی ہیں۔ اس نے ان حقائق کو امثال کا نام دیا اور کہا کہ کائنات کی حقیقت مطلقہ انہی امثال پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ یہ دعویٰ کہ حقیقت مطلقہ عقلیاتی ہے تمام مثالیت پسندی کے مکری اصولوں میں سے ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ فلاسفہ صرف حقیقی امثال میں دلچسپی لیتے ہیں فرد یا شے سے اعتناء نہیں کرنے افلاطون نے ان امثال کا ایک ایسا عالم بسایا ہے جو مادی دنیا سے ماوراء ہے اور بیشمار امثال پر مشتمل ہے۔ عالم مادی میں جتنی اشیاء بھی دکھانی دیتی ہیں وہ انہی امثال کے سائے یا عکس ہیں۔ دوسرے الفاظ میں عالمِ امثال حقیقی ہے اور عالمِ ظواہر غیر حقیقی ہے۔

افلاطون کے امثال ازلی اور غیر مخلوق ہیں۔ افلاطون نے انہیں بہت بھی کہا ہے۔ یہ امثال مستقل بالذات ہیں اور مادی عالم کے کسی تغیر سے متاثر نہیں ہوتے مادی عالم کی اشیاء ان امثال کے سائے ہیں مثلاً دنیا میں جتنے گھوڑے ہیں وہ مثالی گھوڑے کے عکس ہیں۔ تمام امثال ازل سے مرتب و بدون صورت میں موجود ہیں۔ ان میں خیر کامل سرفہrst ہے۔ کائنات میں ایک اور اصول بھی موجود ہے یعنی

مادہ - مادہ وہ سب کچھ ہے جو کہ امثال نہیں ہیں - مادہ خام مواد ہے جن پر امثال کی چھاپ لگی ہوئی ہے - اسی چھاپ سے عالم ظواہر کی اشیاء بنتی ہیں - مثلاً سنگ مرمر سنگ تراش کے لیے وہ خام مواد ہے جس پر اس کے مثل کی چھاپ لکتی ہے - اسی طرح مادے پر امثال کی چھاپ لکتی ہے تکوین عالم ہوئی تھی - مادی عالم حقیقی نہیں ہے بلکہ مادے پر حقیقی عالم یا امثال کی چھاپ ہے - اس دنیا کے تمام تغیرات عالم حواس کی تمام خامیاں اور کوتاپیاں مادے کی وجہ سے ہیں نہ کہ امثال کے باعث - اپنے ایک مکالے طیاؤں میں افلاطون ایک معمار کا ذکر بھی کرتا ہے جس نے پہلے امثال اور مادے کو اکٹھا کیا جیسے سنگ تراش سنگ مرمر کی سل پر اس کا مثل ثبت کرتا ہے - جب اس معار کے کسی مثل کو مادے پر ثبت کیا تو متعلقہ شے عالم وجود میں آگئی - ایک بھی مثل سے سینکڑوں اشیاء کی تخلیق عمل میں آئی لیکن اس تخلیق و تشكیل سے متعلقہ مثل پر کوئی اثر نہیں ہوا - وہ بیستور کامل و اکمل اور غیر متغیر ہی رہا - افلاطون کو مثالیت پسند اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے خیال میں حقیقی عالم امثال کا عالم ہے جس کا ادراک صرف عقل استدلائی ہی سے ممکن ہو سکتا ہے - افلاطون کے خیال میں وہ عالم جس کا ادراک ہیں اپنے حواس سے ہوتا ہے غیر حقیقی ہے - مادہ ناقص ہے اور جو مثل اس پر ثبت ہوتا ہے اسے مسخ کر کے رکھ دیتا ہے - ایک افسانے میں افلاطون بتاتا ہے کہ ذہن خالص صورت میں ایک ستارے پر موجود تھا کہ اس پر عالم حواس کی تمنا نے زور کیا پس اس نے جسم کی قید قبول کر لی - اب وہ اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کر کر دوبارہ اپنے ستارے کو لوٹ جانا چاہتا ہے - طیاؤں میں اس نے فیشا غوریبوں کے انداز میں کہا ہے کہ عالم مادی میں آنے سے پہلے بر روح اپنے اپنے ستارے میں موجود تھی - نیک آدمی کی روح موت کے بعد اپنے اصل مسکن کو لوٹ جاتی ہے - بدی کرنے والی کو موت کے بعد دوبارہ عورت کے روپ میں پیدا کیا جائے گا - لابالی اشخاص موت کے بعد پرندے بن کر اٹھیں گے - اور احمد چھٹلیوں کا قالب اختیار کریں گے - طیاؤں کہتا ہے کہ انسان میں دو روزیں ہیں ایک فانی دوسری غیر فانی - ایک کو خدا نے پیدا کیا ہے - دوسری بیوتاون کی تخلیق ہے - فانی روح لذات و شہوات کی طرف مائل ہوئی ہے - غیر فانی روح نفس کی ترغیبات کا استیصال کر رہی ہے - غیر فانی روح کا مقام سر ہے اور فانی روح سینے میں قیام کر رہی ہے -

افلاطون کے امثال لا تعداد ہیں - جس طرح خیر، صداقت اور حسن کے امثال ہیں اسی طرح شر، بد صورتی اور خبائی کے ابھی امثال ہیں یہ سب امثال منتشر حالت ہیں نہیں ہیں بلکہ مرتب و مدون صورت میں موجود ہیں - ان کی ترتیب منطقی ہے - سب سے اعلیٰ اور اکمل 'خیر مطلق' ہے جو سب کا مبدأ ہے - افلاطون نے یہ نہیں بتایا کہ خیر مطلق سے شر کیسے متفرع ہوا تھا - بہر حال وہ کائنات کو

”اخلاقیات عقلیاتی کل“ مانتا ہے۔ اس کے خیال میں عالم حقیقت یا وجود مطلق کا ادراک صرف عقل استدلال ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ افلاطون کے نظام فکر کو دفعہ بھی کھا جاتا ہے۔ ایک طرف امثال یہں جو عالم مادی سے علیحدہ اپنے ایک الگ حقیقی عالم میں موجود ہیں۔ دوسری طرف مادہ ہے جس پر ان کی چھاب لکھی ہے اور اشیاء کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان دونوں میں جو خلیج حائل ہے اسے ہائٹے کی کوشش افلاطون نے نہیں کی۔ یہ کام ارسطو نے کیا تھا۔

افلاطون امثال کو مستقل بالذات جواہر سمجھتا ہے۔ وہ حقائق مطلق یہں جو کائنات کے اصول اول ہیں۔ آفاق ہیں۔ وہ اشیاء نہیں افکار ہیں۔ موضوعی نہیں معروضی ہیں۔ زمان و مکان سے ماوراء ہیں اور عقلیاتی ہیں۔ اوآخر عمر میں افلاطون نے فیتا غوریسوں سے متاثر ہو کر اپنے امثال کو اعداد کہنا شروع کر دیا تھا چیسا کہ ارسطو نے یہیں بتایا ہے۔

افلاطون کے خیال میں صرف فلاںسفہ ہی عالم امثال کا ادراک کر سکتے ہیں جو حقیقی عالم ہے۔ عوام عالم ظواہر یا عالم مادی میں الجھے کر رہ جاتے ہیں جو محض فریب نظر ہے۔ اس ضمن میں اس کی غار کی تمثیل مشہور و معروف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو اشخاص فلسفے سے بہرہ ہیں وہ گویا ایسے قیدی ہیں جنہیں کسی غار میں اس طرح جکڑ کر بٹھا دیا گیا ہو کہ وہ اپنے سامنے دیکھنے پر مجبور ہوں۔ ان کے پیچھے آگ کا الاوزوشن ہے۔ سامنے غار کی دیوار ہے۔ ان کے اور دیوار کے درمیان کی جگہ خالی ہے۔ ان کے پیچھے جو آگ جل رہی ہے اس کے باعث وہ اپنے اور اپنے سامیوں کو حقیقی سمجھنے لکھتے ہیں جن اشیاء یا اشخاص کے یہ سامنے ہیں وہ ان کی حقیقت سے بھیشہ بے خبر رہتے ہیں۔ بعد کے صوفیہ کا یہ خیال کہ عالم مادی یا عالم ظواہر غیر حقیقی ہے اس لیے قابل اعتنا نہیں ہے اور روح جسم کی قیمتیں گرفتار ہے جس سے چہنکارہ پانے کے لیے تعقیق و تجربید کی ضرورت ہے افلاطون ہی سے ماخوذ ہے۔

افلاطون کے نظریے سے مفہوم ہوتا ہے کہ انسانی تجربے کے مأخذ دو یہی حصے ادراک اور عقلی استدلال۔ اول الذکر کی دنیا حواس کی دنیا ہے۔ ثانی الذکر امثال کی دنیا ہے۔ امثال ازلی و ابدی ہیں۔ معقولات حقیقی ہیں۔ حقیقی مدرکات تغیر پذیر ہیں۔ محسوسات غیر حقیقی ہیں۔ اس لیے افلاطون نے بیریتیلس کے تغیر و تبدل کو عالم حواس میں منتقل کر دیا ہے اور امثال یا مقراط کے تجربیدات فکری کو الیاطیون کے ”وجود“ کی طرح کامل اکمل اور غیر متبدل مانتا ہے۔ ظاہری عالم کی اشیاء حقیقی امثال کی نقلیں ہیں۔ سامنے ہیں۔ یہ امثال ماورائی بھی ہیں اور سریانی بھی ہیں۔ وہ اسی عالم میں طاری و ساری ہونے کے باوجود ان سے ماوراء اپنا مستقل وجود بھی رکھنے ہیں۔ جس طرح عدل۔ خیر۔ حسن امثال ہیں اسی طرح درختوں۔ ستاروں۔ دریاؤں وغیرہ کے امثال بھی ہیں۔ یہ تمام امثال خود اپنے تعلق سے مستقل بالذات وجود ہیں

اور دوسرے امثال کے تعلق سے جن کے ساتھ ان کا کوئی اشتراک نہیں ہے عدم مخصوص ہیں۔ امثال کے تعلق باہمی کو معلوم کرنے کے علم کو افلاطون نے جدلیات کہا ہے جس کا پہلا کام یہ ہے کہ امثال کا تعین کرے بہر ان کے باہمی اشتراک و اختلاف کا کھوج لٹکائے۔ ایک فلسفی جدلیات کی مدد سے حدائقی عالم امثال تک رسانی حاصل کر سکتا ہے۔ افلاطون کی مثالیت پسندی پر تبصرہ کرتے ہوئے برٹنرسل لکھتے ہیں۔

"افلاطون اپنے فلسفے میں فیشا غورس، پارمی نائنس، بیریقلیتس اور سقراط سے متاثر ہوا۔ فیشا غورس سے اُس نے باطنیت کا عنصر لیا۔ اس کے علاوہ نسخ ارواح، بتائے روح، اور جو کچھ بھی خار کی تمثیل میں بیان ہوا ہے وہ فیشا غورسیوں سے ماخوذ ہے۔ اس کے ساتھ ریاضیات میں شغف اور عقل و عرفان کا امتزاج بھی اسی مأخذ سے لیا گیا ہے۔ پارمی نائنس سے اس نے یہ نظریہ لیا کہ حقیقت ازلی ہے اور زمان سے ماوراء ہے اور تغیر و تبدل منطقی لحاظ سے فریب نظر ہے۔ بیریقلیتس سے یہ خیال لیا کہ عالمِ حیات پر لمحہ تغیر پذیر ہے۔ اسے پارمی نائنس کے نظریے میں ممزوج کر کے اس نے کہا کہ علمِ حواس سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ عقل ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ وقتہ وقتہ اس نظریے کا امتزاج فیشا غورسیت سے ہو گیا۔ سقراط سے اس نے اخلاقیات میں دلچسپی لینا سیکھا اور دنیا کا غائی تصور مستعار لیا۔ خیر کامل اور اخلاقی قدرین ظاہرا سقراط سے ماخوذ ہیں"۔

جیسا کہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں افلاطون نے بے شک اپنے پیش روون سے استفادہ کیا تھا لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ امن امتزاج سے اُس نے ایک شاندار نظام فکر کی تشكیل کی اور عقل و عرفان میں مقابلت کی کوشش کی۔ اُس نے بہت سے پہول اور پودے ادھر آدھر سے لیے لیکن ان کی چمن بندی ایسے سلیمانی اور فن سے کہ ان منتشر پہلوں اور پودوں نے ایک حسین شالیار کی صورت اختیار کر لی جس کی تخلیق کا حق بدرجہ اولنی افلاطون ہی کو ہنگتا ہے۔ افلاطون کے فلسفے کا اصل اس کا نظریہ امثال ہے جس نے اس کی سیاست، عمرانیات، اخلاقیات اور جالیات پر بھی کھرے اثرات ثبت کیے ہیں۔ اس کے سیاسی اور عمومی افکار پر سپارٹا کے معاشرے کی چھاپ دکھانی دیتی ہے۔ سپارٹا والی ووٹے چاندی کو سفارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے پان نوبے کے سکر رائج تھے۔ وہ اپنے بیشوں کی جنہیں پیدائش کے بعد ریاست کی تحويل میں نہ سے دیا جانا تھا کڑی عسکری تربیت کرتے تھے اور لڑکپن ہی میں آئیں ان تمام شدائی کا عادی بنا دیتے نہیں جن کا بامنا عام طور سے دورانِ جنگ میں ہوتا ہے۔ لڑکوں کو اپنے مان باپ سے ملنے کی اجازت شاذو نادر ہی دی جاتی تھی۔ شجاعت، حماس اور جفاکشی کو اعلیٰ تربین فضائل اور محامن میں شمار کیا جاتا تھا۔ آن کے سپاہی سرخ نگ کی وردی پہن کر میدانِ جنگ کو جاتے تھے تاکہ زخم لگنے پر خون دکھانی

نہ دے۔ جب مان اپنے بیٹے کو میدان کارزار کو جاتے وقت رخصت کرنے تھی تو کہتی تھی "یا ڈھال کے ساتھ آنا یا ڈھال کے اوپر" مطلب یہ ہوتا کہ یا فاغ ہو کر آنا یا جان پار دینا۔ سپارٹا والے نہایت سادہ اور پر مشتمل زندگی کے عادی تھے۔ جن لوگوں کی توند بڑھ جاتی تھی آنہیں کابل اور پیشو سمجھے کر جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ لہذا۔ توند بڑھوں کو جاڑے میں مادر زاد پرینہ کر کے آن کا جلوس نکالا جاتا تھا اور برسِ عام انہیں سرزنش کی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے ایک پادشاہ نے ایک پستہ خاتون سے نکاح کر لیا۔ بزرگوں کی مجلس میں پادشاہ پر جرمائی کیا کہ اس عورت سے نہنگئے بھے پیدا ہونے کا احتیال ہے۔ سپارٹا کی ایک عورت سے کسی دوسری ریاست کی ایک عورت نے طنزآ کہا "تمہارے ہاں عورت مرد پر حکومت کرتی ہے۔" اس نے جواب دیا "مرد بھی تو وہی جنتی ہے۔" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں عورت کو احترام کی نکاح سے دیکھا جاتا تھا۔

بندی آریاؤں کی طرح سپارٹا میں بھی نیوگ کا رواج تھا۔ عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنے خاوند سے زیادہ طاقت ور مردوں سے اولاد پیدا کریں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مادر زاد پرینہ کھیلوں اور ناچوں میں حصہ لیتے تھے۔ ۴۴ جنس محبت کا رواج عام تھا۔ بعد میں اسے "افلاطونی محبت" کا نام دیا گیا تو خیز لڑکوں کی تربیت کا کام ان کے عشاق کے سپرد تھا جنہیں معلم کہا جاتا تھا۔ جب کوئی نوجوان میدان جنگ میں زخم کھا کر چلا تا تو اس کے معلم کو سرزنش کی جاتی تھی کہ اس کی تربیت میں کوتاہی کیوں کی۔ ہم جنسی محبت کی تھی میں یہ خیال کارفرما تھا کہ جو نوجوان ایک دوسرے سے محبت کریں وہ میدان جنگ میں اپنے دوستوں کی حفاظت کے لیے جم کر لڑتے ہیں۔ افلاطون جمہوریت کو حقارت کی نکاح سے دیکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایتھرہ والوں نے جمہوری طرز معاشرے کے باعث سپارٹا کے باethoven شکست کھانی تھی۔ اس لیے وہ سپارٹا والوں کے عسکری معاشرے کو مثالی معاشرہ سمجھنے لگا۔ اس کی "مثالی ریاست" میں سپارٹا کی ریاست کی جھلک صاف دکھانی دیتی ہے۔ اس مثالی ریاست میں اشتہالیت اور اباخت نسوان کے تصورات ملتے ہیں۔ افلاطون کہتا ہے کہ اس ریاست میں املاک کے ساتھ عورتوں کا اشتراک بھی ہوگا اور عورتوں اور مردوں میں کامل مساوات ہوگی۔ شادی کا انتظام ملکت کرے گی کسی تھوار پر نوجوان مردوں اور کنواری لڑکیوں کو اکٹھا کر کے میان بیوی بنا دیا جائے گا۔ مرد کی عمر ۵۵ اور ۲۵ کے درمیان ہوگی اور عورت کی ۳۰ اور ۲۰ کے درمیان۔ ان عمروں سے باہر جنسی مواصلت ہو کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی البتہ انتقال حمل اور ضبط تولید جبری ہوں گے۔ کمزور اور ناقص الاعضاء بیویوں کو پیدا ہوتے ہی تلف کر دیا جائے گا۔ شادی سے پہلے مرد اور عورت دونوں کا طبی معائدہ کر کے اس بات کا اطمینان کر لیا جائے گا کہ وہ صحت مند اولاد پیدا کر سکیں گے۔ اس مثالی ریاست میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کون کس کا باپ ہے اس لیے اپنی عمر سے بڑے پر شخص کو

باب سچوہ کر اس کا احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر بڑی عمر کی عورت کو مان کھانا جائے گا۔ ہم عمر ایک دوسرے کو بھائی ہن سمجھیں گے۔ جن کی عمروں میں اتنا تفاوت ہو کہ وہ باب بیٹی ہو سکتے ہیں انہیں مواتاں کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی کسی عمر رسیدہ شخص بر باتہ نہیں آئتا ہے گا کیونکہ مکن ہو سکتا ہے وہ آس کا باب ہی ہو۔ اس موقع پر راقم کو دبو جانس کا بھی کا ایک الطیفہ یاد آ گیا ہے۔ ایک دن یہ سیر کہ جبین فلسفی ایتھریز کے ایک کوچے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گلی میں اور چھتوں پر لوگوں کا ہجوم ہے اور محلے والوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ دبو جانس ایک طرف کھڑے ہو کر تماثل دیکھنے لگا۔ دیکھنا کیا ہے کہ ایک کسی کا یہاں چھت پر کوڑا ہے اس کے باطن میں ایک پتھر ہے جسے وہ نیچے گلی میں جہاں لوگوں کا جمگھٹ تھا پھینکنے کے لیے باطن تول دبا ہے۔ دبو جانس نے پکار کر آئے کہا ”ہاڈ! ہاں! پتھر مت پھیکنا۔ باب کو لگ جائے گا۔“

افلاطون کی اشتالی ریاست میں کوئی شخص کسی شے کو ذاتی املاک نہیں سمجھے گا۔ تمام شہریوں کے روپ کبڑے ”ربائش“ علاج معالجہ کی کفالت ریاست کرے گی۔ تعلیم و تربیت کا بار بھی ریاست پر ہوگا۔ بخی گھروں کی بجائے سرکاری درس گاہوں میں رہن گے جہاں صبح و شام آنہیں کڑی ورزش کرائی جائے گی۔ اور اسلحہ کا استعمال سکھایا جائے گا عمر کے دس برس کھیل کوڈ اور ورزش کے لیے وقف ہوں گے تاکہ لڑکا خوب توانا اور مضبوط ہو جائے۔ موسیقی کی تعلیم بھی دی جائے گی لیکن اس میں ایسے نفہات نصاب سے خارج کر دیئے جائیں گے جو جذبات میں نفسانی ایجاد پیدا کرتے ہیں۔ شجاعت کے جذبے کو ابھارنے والے راگ سکھائے جائیں گے۔ دس برس کے بعد امتحان لیا جائے گا اور کامیاب طلبہ کو مزید دس برس تعلیم دی جائے گی جس میں نصابی علوم کے ساتھ کڑی فوجی تربیت بھی شامل ہوگی۔ نوجوانوں کو مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آنہیں بینا ہوا گوشہ کھلایا جائے گا۔ چیلیان، اچار، مرے اور مٹھائیاں کھانے کی مانعت ہو گی۔ تربیت یافتہ نوجوان طلبہ کو انتظامی شعبوں اور فوجی خدمات کے سنبھالنے کا کام سپرد کیا جائے گا۔ ممتاز اور منتخب نوجوان فلسفے اور ملک داری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ مملکت کے اعلیٰ حکام تربیت یافتہ فلاسفہ پر مشتمل ہوں گے۔ افلاطون کہتا ہے کہ حالتِ مرض میں مایہ طب سے رجوع لایا جاتا ہے اسی طرح نظم و نسق کا کام آسی شخص کو دینا چاہے جو آئین جہانداری کی تربیت حاصل کر چکا ہو۔ اس کے خیال میں جب تک فلاسفہ حکمران نہیں پوں گے بنی نوع انسان کے مصائب کا خامہ نہیں ہوگا۔

افلاطون نے جمہوریہ میں اپنا عدل کا تصور پیش کیا ہے۔ اس مکالعے کا آغاز ایک محفل سے ہوتا ہے جس میں چند امراء اور مفکرین گلاکون۔ توریسی میکس۔ المن ٹوس۔ سقراط وغیرہ ایک امیر کبیر کنالوس کے یہاں جمع ہیں۔ سقراط کنالوس سے پوچھتا ہے ”تمہوں دنیا میں سب سے بڑی نعمت کون سی میسر آ سکتی

ہے۔ وہ جواب دیتا ہے ”دولت جو میری سخاوت کا۔ دیانت کا عدل کا سبب بنی“ سقراط حسب عادت پوچھتا ہے ”عدل کیا ہے؟“ اس پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ سقراط باتون پاتون میں نالوس کے آجھے ہونے خیالات کا استادانہ تجزیہ کر کے اس کے دلائل و تفصیلات کی دھیجان پکھیر دیتا ہے۔ اس بحث کے دوران میں تھوڑی سیکس سو فسطانی کہتا ہے کہ اخلاق کمزوروں نے وضع کیے ہیں تاکہ طاقتوروں کا پنجہ آپنی لمحزور بڑ جانے۔ لمبی چوڑی بحث کے بعد سقراط کہتا ہے کہ عدل اس معاشرے میں قائم ہوتا ہے جس کے تمام افراد عورتیں اور مرد اپنی اپنی قدرتی صلاحیتوں کے مطابق اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہوں۔

آرٹ کے متعلق افلاطون کا خیال ہے کہ ایک تمثیل نگار یا شاعر از خود رفتگی کے عالم میں تمثیل لکھتا ہے۔ یا شعر کہتا ہے۔ وجود حال کی امن حالت میں گویا کوئی مافوق الطبع قوت آس کے سراہا پر غلبہ پالتی ہے۔ یہی وجود ہے کہ عقلیت پسند افلاطون شعراً اور تمثیل نکاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ حالت غایقی میں شاعروں کے جذبات ان کی عقل و خرد پر حاوی ہو جاتے ہیں چنانچہ آس نے اپنی مثالی ریاست سے انہیں جلاوطن کر دیا ہے۔ اس کے خیال میں شاعروں اور دوسرے فن کاروں کو عالم مثال تک رسانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام ارفع سوانی فلسفہ کے کسی دوسرے کو میر نہیں آ سکتا۔ افلاطون کہتا ہے کہ جب کوئی شاعر نظم کہتا ہے یا کوئی سنگ تراش مجسمہ تراشتا ہے تو وہ نقل کی نقل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ عالم مادی کی جتنی اشیاء ہیں وہ امثال کے عکس یا نقلیں ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی تصویر کشی یا عکاسی کرے گا تو وہ عکس کا عکس آثار رہا ہو گا۔ بہر صورت افلاطون نے اعلیٰ پایہ کی موسیقی کی دل کھول کر تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے انسانی ذہن و قلب میں اعتدال احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان عدل کی طرف مائل پو جاتا ہے۔ امن ضمیں آس نے یہ کہہ کر آج کل کے نفسیاتی معالجوں کی پیش قیاسی کی ہے کہ موسیقی سے بہت سے جسمی امراض دور ہو جاتے ہیں۔

اپنے مشہور مکالمے سپوزیم میں افلاطون نے عشق کا تصور پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روز ازیں سے عشق کا تعلق حسن کے ساتھ رہا ہے۔ جب کوئی شخص عالم حواس و ظواہر میں کسی حسین شری یا شخص کو دیکھتا ہے تو آس کی روح میں حسین ازیں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نقل یا عکس ہے۔ یہی وجود ہے کہ حسین و جہل کے مشابدے سے ہم پر وجود حال کی کیفیت طلای ہو جاتی ہے۔ افلاطون نے ایک جگہ لکھا ہے: ”جسے عشق چھو جائے وہ تاریکی سے نہیں گھبراتا۔“ افلاطون کے خیال میں روح انسان کے دو حصے ہیں ارفع حصہ عقل استدلالی ہے جو امثال کا ادراک کرتی ہے اور ناقابل تحلیل و غیر تغیر ہے اور غیر فانی ہے۔ روح کا غیر عقلیاتی حصہ فانی ہے اور دو حصوں میں منقسم ہے اعلیٰ اور اسفل، اعلیٰ حصہ میں شجاعت، جود و سخا اور دوسرے محاذی اخلاقی ہیں۔ اسفل حصہ شہوات کا

مرکز ہے۔ انسان کو جیوان سے نفس ناطقہ یا عقلی استدلالی ہی ممتاز کرتی ہے۔

افلاطون کی مثالیت کے اہم پہلو درج ذیل ہی:

(۱) عالم دو یعنی ظاہری عالم اور حقیقی عالم، عالم مثال حقیقی ہے اور اس تک صرف نفس ناطقہ یا عقلی استدلالی کی رسانی ہو سکتی ہے۔ عالم ظاہر یا عالم حواس غیر حقیقی ہے۔ جن اشیاء کا ادراک ہمارے حواس کرنے یعنی وہ حقیقی امثال کے محض سائے ہیں۔ معقولات اصل یعنی محسوسات ان کے عکس ہیں۔

(۲) امثال ارزی و ابدی، قائم و ثابت ہیں۔ عالم مثال سکونی ہے۔ تغیر و حرکت صرف ظاہری عالم میں ہے۔

(۳) عالم مثال کے ساتھ ساتھ مادہ بھی موجود ہے جس پر امثال کی چھاپ لکھنی رہتی ہے اور ظاہری عالم کی اشیاء وجود میں آتی رہتی ہیں۔

(۴) عالم مثال ازل سے مرتب و مدون حالت میں ہے۔ سب سے کامل و اکمل مثل خیر مطلق ہے جس سے دوسرے امثال متفرق ہونے ہیں۔

(۵) ظاہری عالم یا عالمِ حواس میں ہر کیمیں تغیر و تبدل فساد و انتشار کی کارفرمانی ہے۔

(۶) زمان غیر حقیقی ہے یعنی وقت کا نہ کوئی آغاز تھا نہ اختتام ہوگا۔ کائنات ازل سے ہے اور ابد تک اسی طرح رہے گی۔ وقت کی حرکت مستقیم نہیں ہے دولابی ہے۔

(۷) کائنات با معنی ہے یعنی اس میں ایک واضح مقصد ہے۔ غایت ہے۔

(۸) خدا یا خیر مطلق کا مثل نکر محض ہے۔ دوسرے یونانی فلاسفہ کی طرح افلاطون بھی شخصی خدا کا قائل نہیں ہے۔

(۹) موت کے بعد روح انسانی باقی رہتی ہے اور آسے اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا ملتی ہے۔

(۱۰) ارواح اعمال کے لحاظ سے قالب بدلتی رہتی ہیں۔ انسانوں کی رو جیں پرندوں اور جانوروں کے قالب میں چلی جاتی ہیں۔ روح کا تعلق جسم سے عضویات نہیں ہے۔ اسے حسب منشا جسم میں داخل بھی کیا جا سکتا ہے اور نکلا بھی جا سکتا ہے۔

(۱۱) انسانی روح مادے کی گرفت میں آ کر قید ہو سکتی ہے اور اپنے اصل ماختہ کی طرف لوٹ جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ یہ رہائی صرف نکر و تعقیق ہی سے میسر آ سکتی ہے۔ حسن ازل کی کشش ارواح کو ان کے مبدائے حقیقی کی یاد دلائی رہتی ہے۔

(۱۲) کائنات ایک عقلیاتی کل ہے جس کی حقیقت کا ادراک صرف عقل استدلالی ہی کر سکتی ہے۔ افلاطون کا قول ہے "کسی انسان پر اس سے بڑی مصیبت ناریل نہیں ہو سکتی۔" وہ عقل و خرد کا دشمن بن جائے۔

ارسطو: (ارسطاطالیس) ع ۳۸۷ ق - میں ریاست مقدونیہ کے ایک شہر ساگرا میں پیدا ہوا۔ آس کا باپ نقو مخصوص مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کے باپ کا درباری طبیب تھا۔ اوائل عمر میں ارسطو نے اپنے باپ سے طب کی تعلیم کی جس سے آس کے ذہن میں علمی تجسس کا ملکہ ییدار ہو گیا۔ انہارہ برس کی عمر میں اپنہنزا جا کر افلاطون کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا اور یہ برس تک آسی سے کسب و فض کیا۔ ارسطو نہایت منجیدہ اور ذہین طالب علم تھا اور اپنے استاد کی تقریروں کو پورے انہیک اور توجہ سے سنتا تھا۔ ایک دن افلاطون روح کی ماہیت پر تقریر کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد استاد کے دقیق استدلال سے آکتا کر طلبہ یکجے بعد دیگرے سنکنے لگے لیکن ارسطو آخر وقت تک پہنچنے کیا تھا۔ اس کے بعد تین گوش یعنی تقریر متنا روپا۔ شدہ شدہ ارسطو کی علمیت کا شہر دور دور تک پھیل گیا۔ فلپ شاہ مقدونیہ نے آسے طلب کیا اور اپنے بیٹے سکندر کا اتابیق مقرر کیا۔ فلپ نے ارسطو سے کہا "میں سکندر کو فلسفہ پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آن حاقتوں سے اپنا دامن بجا سکے جو فلسفہ سے نابلہ ہونے کے باعث مجھے سے سرزد ہوئے رہی ہیں۔" اس وقت سکندر بارہ برس کا تھا اس کی طبیعت سیاہی تھی اس لیے وہ ارسطو سے پوری طرح فیض یاب نہ ہو سکا بہر حال آس کے انکار سے متاثر ضرور ہوا۔ بعد میں وہ ارسطو کی عزت و تکریم اپنے باپ کی جیسی کرتا تھا اور کہتا تھا "باپ نے مجھے زندگی عطا کی لیکن استاد نے مجھے زندگی گزارنے کا فن سکھایا۔" سکندر نے ایران پر فوج کشی کی تو وہاں بھی اپنے آستاد کو یاد رکھا۔ جہاں کہیں آسے حیواناتی یا نباتاتی نوادر ملتے وہ نہیں ارسطو کے پاس بھجو دیتا تھا۔ ان کے مشاپدے سے ارسطو نے اپنی کتاب الحیوان لکھی تھی۔ ارسطو کی شادی روساء کے ایک گھر انے میں ہوئی تھی آس نے اپنی محبوب یوی کے ساتھ انتہائی سسرت اور آسودگی کے دن گذارے۔ جب وہ وفات ہا کئی تو ارسطو نے وصیت کی کہ مرے کے بعد میری میت کو بھی اس کے مزار کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ مالی لحاظ سے ارسطو فارغ البال تھا۔ آس نے زیاد کمی کے صرف سے اپنا بیش قیمت کتب خانہ قائم کیا جس میں علوم مروجہ پر بہترین کتابیں فراہم کی گئی تھیں۔ ۵۰ برس کی عمر میں آس نے اپنی مشہور درس گاہ لیسیم کے نام سے قائم کی جس میں افلاطون کی اکیڈمی کے بر عکس علوم طبیعی، علم الحیات، سیاست اور الہیات کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا۔ ارسطو اس کے باعث کی سریز روشون پر ہوتے ہوئے درس دیا کرتا تھا۔ طلبہ آس کے ساتھ ساتھ مودبانہ قدم اٹھاتے ہوئے غور سے آس کی ماتیں سنتے جاتے تھے۔ اسی لیے آس کے فلسفے کو مشافی (روان دوان) کہا جاتا ہے۔ اپنہنزا کے شہری ارسطو کو یونانی تسلیم ہیں کرنے تھے کیونکہ وہ مقدونیہ کا باشندہ تھا۔ جسے وہ گنواروں کی ریاست خیال کرتے تھے۔ اپنہنزا کے سیاست دانوں کی ایک جماعت اس کی سخت مخالف تھی کیونکہ سکندر اعظم ارسطو کی سربرستی کرتا تھا۔ مشہور خطیب

دیماستہ نیز سکندر اور ارسطو کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ سکندر اعظم کی موت ہر ایتھنیز والے کھلماں کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ سفراط کی طرح اس کے خلاف بھی مقدمہ دائر کرنا چاہتے تھے کہ ارسطو ایک دن چپکے سے ایتھنیز سے سنک کیا۔ جاتے وقت آس نے کہا ”میں انتہنیز والوں کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ دوسری بار ایک فلسفی کو قتل کریں“، اس کے بعد جلد ہی آئے موت نے آ لیا۔

ارسطو نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ تفکر و تعمق اور تالیف و تصنیف میں گزارا تھا۔ آس نے کم و بیش پانچ سو رسائل اور کتابیں تالیف کیں جن میں سے اکثر دست بردا زمانہ کی نظر ہو گئیں۔ انہی میں آس کے مکالمات بھی تھے جن میں فلسفے کے دقایق عام فہم زبان میں لکھے گئے تھے۔ اس کی کتابوں میں سیاسیات، اخلاقیات، فلسفہ، اول، ابریان، الیام، الخطاب، النفس اور کتاب الشعر مشہور ہیں۔ علمی فضیلت اور جودت فکر کے باعث آئے معلم اول کہا جاتا ہے۔

ارسطو اپنے استاد کی طرح مثالیت پسند ہے لیکن آس کی مثالیت پسندی افلاطون کے نظریے کی بہ نسبت واقعیت سے قریب تر ہے۔ افلاطون نے کئی سوال ایسے بھی آنہا نے تھے جن کا شافِ جواب آس سے بن نہیں پڑا تھا۔ مثلاً یہ کہ جیسا کہ افلاطون کا خیال ہے امثال کو حقیقی مانا جائے تو سوال پیدا ہو گا کہ کائنات مادی یا عالم محسوسات ان عجراً امثال سے کیسے نکلا؟ آس کے جواب میں وہ حاضر ہے کہنے پر اکتفا کرتا ہے کہ مادی اشیاء امثال کے عکس ہیں اور ایک افسانوی معمار مادے پر امثال کی چہاب لکھا رہتا ہے اور مادی اشیاء ظہور میں آ جاتی ہیں۔ یہ جواب شاعرانہ ہے تحقیقی نہیں ہے۔ مزید براں افلاطون کہتا ہے کہ مثل کسی شے کا جو پر ہوتا ہے۔ یہ مان لیا جائے تو ارسطو کے ہقول یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کسی شے کا جو پر آس شے سے ماوراء ہو۔ جو پر کو تو آس شے کے بطور میں ہونا چاہیے۔ ارسطو نے ان تردیدات کو رفع کرنے کی کوشش کی۔ افلاطون پر نقد لکھتے وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا استاد اور حق و صداقت دونوں عزیز ہیں لیکن صداقت عزیز تر ہے۔ افلاطون کے افکار پر جو جو جر فروری ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ علل چار ہیں۔ آس کے خیال میں پر شے اپنے مقصد پا غایت کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ اس کی تشرع کے لیے وہ سنگ تراشی کی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا سبب تو خود سنگ تراش ہے جو سنگ مرمر کی سل کو حرکت دے رہا ہے۔ دوسرا سبب کامل بت کا تصور ہے جو خود سنگ تراش کی اپنی تحریک کا باعث ہے۔ اسے علت شانی کہیں گے۔ تیسرا سبب سنگ مرمر کی سل ہے جس سے بت تراشنا جا رہا ہے۔ چوتھا سبب وہ پہیت ہے جو بد مکمل پونے کے بعد اختیار کرے گی۔ بعد میں ارسطو نے ان چاروں اسباب کو دو اسباب میں محدود کر دیا۔ یعنی مادہ اور فارم یا پہیت۔ یہ ارسطو کے وہ اساسی اصول ہیں جن کی مدد سے وہ تمام کائنات کی تشرع کرنا چاہتا ہے۔ ان کی خصوصیات پر بحث کرنے ہوئے کہتا ہے کہ (۱) مادہ اور پہیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا

جا سکتا۔ یاد رہے کہ ارسطو کی بہت وہی ہے جسے افلاطون نے مثل کہا ہے۔ (۲) بہت آفاق اور مادہ اختصاصی ہے البتہ بہت آفاق کسی نہ کسی خاص شے ہی میں موجود ہو سکتی ہے اس سے ماوراء نہیں سکتی۔ مثلاً کبوتر کا مثالی تصور ضرور موجود ہے لیکن خاص کبوتر سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ افلاطون بر اس کا سب سے اہم اعتراض ہی ہے کہ استاد کے امثال اشیاء سے ماوراء ایک مستقل عالم میں موجود ہیں اس لیے امثال اشیاء کی توجیہ کرنے سے قادر ہیں۔ افلاطون نے امثال اور اشیاء کے ربط باہم کو واضح نہیں کیا۔ وہ استاد کے اس خیال ہر بھی گرفت کرتا ہے کہ امثال غیر مرفی اور نامحسوس ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے فی الحقیقت ایک گھوڑے کے اور امن کے مثل میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ منطقی لحاظ سے بے شک گھوڑے کی ایک مثالی بہت موجود ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت گھوڑے سے علیحدہ نہیں ہے بلکہ پیشہ گھوڑوں کے وجود ہی میں ملے گی۔ فلسفے کی زبان میں بہت ya universal (منطق میں اسے ہی نام دیا جاتا ہے) بے شک حقیقی ہے لیکن یہ کسی نہ کسی خاص شے (Particular) ہی میں موجود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ارسطو نے اپنے استاد کی ماورائیت کو رد کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ امثال مادی اشیاء سے علیحدہ یا ماوراء نہیں ہیں بلکہ خود ان اشیاء کے بطن میں موجود ہیں۔ یہ آس کے فلسفے کا اصل اصول ہے۔

ارسطو نے افلاطون کی مثالیت کو قبول کر لیا اور ازی امثال کو حقیقی تسلیم کر لیا ایک ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امثال مادی اشیاء سے علیحدہ کسی عالم مثال میں موجود نہیں ہیں بلکہ انہی میں طاری و ساری ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مثل اور مادہ ازی سے موجود ہیں۔ کائنات ازی و ابدی ہے۔ بر مادی شے اپنے مثل یا فارم (ارسطو نے مثل کی جگہ فارم کا لفظ استعمال کیا ہے) کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حرکت نام ہے فارم اور مادے کے آپس میں مل جانے کا۔ یہ بات مثال سے واضح ہوگی۔ شاہ بلوط کا نہا سا بیج اکھوا بن کر دھرتی سے بھوٹا ہے اور نشو و نما پاتا ہے تو اس کی نشو و نما یا حرکت کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاہ بلوط کے درخت کی فارم یا بہت کو پالی یعنی پودا درخت بن جائے۔ اسی طرح جب کوئی سنگ تراش مرمر کی سل کو تراشتا ہے تو اس کے تراشنے کے عمل کا عruk کیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو اسے چھینی الہانے اور پتھر کو تراشنے کی تحریک کر رہی ہے۔ ارسطو جواب دیتا ہے وہ فارم جو اس عمل کی تحریک کر رہی ہے اور خود سنگ تراش کے ذہن میں موجود ہے۔ فارم اور مادے کے ربط پر بحث کرنے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مادہ بالقوہ طور پر موجود ہے یعنی وہ فارم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فارم فعلیت ہے یعنی وہ کچھ ہے جس کے حصول کی صلاحیت مادے میں موجود ہے۔ اسی طرح ارسطو کے بات فارم یا مثل اور مادہ کا تعلق ابنا نہیں ہے کہ فارم کو مادے میں ڈالا بھی جاسکتا ہے جیسا کہ افلاطون کا نظریہ

ہے۔ یہ تعلق عضویاتی ہے۔ فارم اور مادے یا بالقوہ^۱ اور بالفعل^۲ کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ارسطو کہتا ہے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں اسکتی بلکہ وہ بالفعل ہے بالقوہ ہے۔ حرکت و تغیر نام ہے بالقوہ کا بالفعل یا مادے کا فارم کی صورت اختیار کرنے کا۔ یہ حرکت میکانیکی نہیں ہے بلکہ مقصدی اور خانی ہے۔ اس طرح مقصد یا غایت ہی تغیر و حرکت کا اصل سبب ہے۔ جب کوئی شے حرکت میں آتی ہے یا تغیر پذیر ہوئے تو کوئی قوت اسے پیچھے سے نہیں دھکیل رہی ہوئے بلکہ اس کا مقصد یا غایت سامنے ہے اسے کشش کر رہی ہوئے ہے۔ لہذا منطق لحاظ سے مقصد یا غایت آغاز سے پہلے ہوگا، اگرچہ وقت کے لحاظ سے وہ بعد میں آئے گا۔ ارسطو کہتا ہے کہ حقیقت اولیٰ تمام کائنات کا مقصد یا غایت ہے جو کائنات کو اپنی طرف کشش کر رہی ہے۔ یہی خیال افلاطون کا بھی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ آفاق عقل ہی وجود مطلق ہے جو تمام کائنات کی اساس ہے۔ ارسطو افلاطون کے اس نظریے کو قبول نہیں کرتا کہ مقصد یا غایت اور فارم مادے سے علیحدہ موجود ہے۔ بتول سٹیس^{*} ایک عام آدمی کو بہ بات عجیب سی لگئی گی کہ وجود مطلق جس سے کائنات متجلی ہو رہی ہے کائنات کے عمل ارتقاء کے آخر میں ہو اور فلسفہ یہ ثابت کرنا چاہے کہ بد غایت یا مقصد حقیقتاً آغاز سے پہلے ہی ہے۔ لیکن یہ تو مثالیت کا سب سے اہم خیال ہے۔ دراصل افلاطون اور ارسطو وقت کو غیر حقیقی اور محض ظاہری دکھاوا ماننے یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وجود مطلق یا خدا کا کائنات سے تعلق وقت کا تعلق نہیں ہو سکتا جب کہ اہل مذہب کا خیال ہے کہ خدا کائنات سے پہلے موجود تھا اور اس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اس طرح خدا عالم کا سبب بنا اور عالم مسبب بنا۔ لیکن مثالیت میں خدا کا تعلق عالم سے وہ نہیں ہے جو سبب سے مسبب کا ہوتا ہے۔ منطق لحاظ سے وجود مطلق یا خدا کائنات سے پہلے تھا لیکن وقت کے لحاظ سے وہ پہلے نہیں تھا۔ وہ کائنات کی غایت ہے اس کی اساس ہے لیکن جہاں تک وقت کا تعلق ہے کائنات کا نہ کوئی آغاز تھا اور نہ کوئی انجام پوکا۔ پہیت مطلق^۳ کو ارسطو نے خدا کہا ہے۔ اس کی مثالیت کی چونی پر یہ پہیت مطلق ہے جو حقیقی اور غیر مادی ہے اور سب سے نیچے ایسا مادہ ہے جس نے اپنی نک کوئی پہیت قبول نہیں کی یہ دونوں اصطلاحات منطقی ہیں۔ کیونکہ ارسطو کے نظریے کی رو سے پہیت اور مادہ ایک دوسرے سے الگ موجود نہیں ہو سکتے۔ تمام اشیاء کی حرکت خدا کی طرف جاری ہے اور اشیاء اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا اکمل ہے علت العلل ہے۔ وہ پہلا محرك ہے لیکن خود غیر متحرک ہے کیونکہ پہلے محرك کا غیر متحرک ہوتا

- Actual (۲)

- Potential (۱)

* یہ ساری بحث سٹیس کی کتاب "یونانی فلسفے کی تنقیدی تاریخ" سے لی گئی ہے۔
Absolute Form (۳)

ضروری ہے۔ ارسطو نے خدا کو فکر کا فکر اور ہمتوں کی ہمیت بھی کہا ہے۔ خدا خود ہی موضوع ہے اور خود ہی معروض بھی ہے۔ ارسطو کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مادے کے بغیر ہمیت موجود نہیں رہ سکتی اور خدا کو امن نے ایک ایسی ہمیت کہا ہے جو بغیر مادے کے موجود ہے اس لیے ظاہر ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اگرچہ وہ حقیقت مطلق ہے لہذا خدا نہ موجود ہے اور نہ فرد ہے۔ دراصل ارسطو کا خدا یہی افلاطون کے خدا کے طرح بعض ایک منطقی اصطلاح ہے اور غیر شخصی ہے۔ یاد رہے کہ متاخرین میں پیگل نے جو فلسفہ ارتقا پیش کیا ہے اس میں بھی خدا یا وجود مطلق کائنات سے مقدم نہیں ہے بلکہ کائنات کے ارتقاء کے ماتھے ساتھ ارتقاء پذیر ہو رہا ہے۔

ارسطو کا طبیعی فلسفہ بنیادی طور پر غافی یا مقصدی ہے کیونکہ علت غافی ہی ہر شے کا مطلب ہے۔ ہر شے اپنی غایت یا مقصد کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت کے عمل میں ہمیت حرکت پر اکساقی ہے مادہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تمام عالیٰ حرکت و تغیر فی الاصل ہمیت کی کوشش ہے مادے کو مستقل کرنے کی۔ ارسطو کی طبیعیات میں حرکت و تغیر نام ہے ہمیت کے مادے میں تفوڈ کرنے کا۔ وہ کہتا ہے کہ حرکت کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی وہ جو کسی شے کے جوہر کو متاثر کرکے ہے اسے پیدا کرنے یا اسے ختم کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ دوسری کیفیت^۱ کا تغیر ہے۔ تیسرا کمیت^۲ کا تغیر یعنی اس میں زیادقی کرتا ہا گھٹانا۔ چوتھی جگہ کا تبدیل کرنا۔ ان سب میں آخری زیادہ اہم ہے۔ ارسطو وہ کو حرکت کا زائیدہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت کے بنیادی عناصر تغیر اور شعور ہیں۔ پہلا خارجی ہے اور دوسرا داخلی۔ دوسرا ہے پر یعنی شعور پر برگسانے اپنے نظریہ زمان کی بنیاد رکھی ہے۔ ارسطو کے خیال میں جنس اور انواع ازیٰ یہیں ان کا نہ آغاز ہے اور نہ اختم ہوگا۔ افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں مگر فنا ہوتے رہتے ہیں لیکن نوع انسان ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ خیال ڈارون کے نظریہ ارتقا کے منافق ہے کیونکہ ارسطو کا ارتقا وقت کا عمل نہیں ہے منطقی عمل ہے۔

ارسطو کی نفیسیات میں نفس کے تین درجے ہیں۔ نفس کی ابتدائی صورت قون نشو و نتا ہے جو پودوں میں ہوتی ہے۔ پودوں سے ایک درجہ اوپر حیوانات ہیں جن میں قوت کے نمکے ساتھ احساس بھی موجود ہے جسے نفس حسی کا نام دیا ہے۔ سب سے بالاتر انسان ہے جس میں ان دونوں نفوس کے علاوہ نفس ناطقہ یا عقل استدلالی بھی موجود ہے۔ ذہن انسانی کے قویٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارسطو کہتا ہے کہ حواسی خمسہ سے بالاتر فہم عامہ ہے جس کا مرکز دل ہے۔ اس میں منتشر حسی مدرکات مل کر تجربے کی وحدت بناتے ہیں اس سے اوپر قوتِ متخیلہ ہے جس سے کسی فن کا تخلیقی تخیل مراد نہیں ہے بلکہ ذہنی بیکر اور تصاویر بنانے کی قوت ہے

جو سب میں موجود ہے۔ اس کے حافظہ ہے۔ اس میں اور قوتِ متخیلہ میں یہ فرق ہے کہ اس میں ماضی میں دیکھی ہوئی کسی شے کی نقل بھی شامل ہے۔ اس کے بعد متذکرہ ہے جو حافظے سے بلند تر ہے۔ اس کی مدد سے ایک شخص شعوری طور پر ماضی کی یادوں کو ذہن میں لا سکتا ہے۔ اس سے اوپر استدلالی یا نفسِ ناطقہ ہے جس کے دو درجے ہیں۔ فروت درجے کو عقلِ منفعل اکھا ہے اور بالاتر کو عقلِ معال کا نام دیا ہے۔ ذہن انسانی میں فکر کرنے سے پہلے فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس خنی صلاحیت فکر کو عقلِ منفعل کہیں گے۔ اس میں ذہن انسانی نرم موسم کی مانند ہے جس میں نقشِ قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اس پر کچھ منتش نہیں کیا گیا۔ عقلِ فعال اس موسم یا عقلِ منفعل پر نقش ثبت کرتو ہے۔ ان تمام قویا کے مجموعے کو روح کہا ہے جو جسم کی بیانیت یا فارم ہے۔ روح جسم کے بغیر موجود نہیں رہ سکتی کہ یہ جسم کا فعل ہے اس طرح ارسطو نے صرف بینا غورس اور افلاطون کے نسخ ارواح سے انکار کیا ہے بلکہ ان کے بقائے روح کے تصور کی بھی نقی کی ہے۔ کیونکہ اس کے خیال میں جسم کے خاصیت کے ساتھ روح بھی جو جسم کا فعل ہے ختم ہو جاتی ہے۔ افلاطون روح کو ”شری“ سمجھتا اہا اگرچہ اسے غیر مادی مانتا تھا۔ اس کے خیال میں روح کو جسم میں داخل بھی کیا جاس۔ اور نکلا۔ بھی جا سکتا ہے۔ گویا روح اور جسم کا تعاق میکانکی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ روح کو جسم سے جدا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ جسم کی بیانیت ہے۔ جسم کے بغیر روح موجود نہیں رہ سکتی۔ ان کے درمیان ربط و تعلق میکانکی نہیں ہے عضویاتی ہے۔ روح کوئی شے نہیں ہے جو جسم میں داخل بھی ہوئی ہے اور پھر باہر بھی نکل جاتی ہے۔ روح جسم کا فعل ہے جو جسم کے فنا بونے پر فدا ہو جاتا ہے لیکن ارسطو نے عقلِ فعال کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقلِ منفعل فانی ہے لیکن عقلِ فعال غیر فانی ہے۔ عقلِ فعال خدا کے بان سے آتی ہے اور اسی کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس استثنیٰ سے بھی بقائے روح لازم نہیں آتی کیوں کہ عقلِ منفعل اپنے تمام قویا۔ متخیلہ۔ حافظہ۔ متذکرہ وغیرہ کے ساتھ موت کے وقت فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ارسطو نے شخصی بقا سے انکار کیا ہے۔ بعد میں اس کے ایک پیرو این رشد نے بھی اسی بنا پر شخصی بقا سے انکار کیا تھا۔ ایک بندگ ارسطو نے کہا ہے کہ جس طرح روح جسم کی بیانیت ہے اسی طرح خدا کائنات کی بیانیت ہے۔ ہمارے بان صوفیہ وجودیہ نے اس قول کو وحدت وجود کے اثبات میں پیش کیا ہے۔

ارسطو کے اولیات میں منطق کی تدوین بھی ابھی ہے۔ فکر و استدلال کے ابتدائی اصول الیاطی فلاسفہ اور ہیرینیتس نے وضع کیے تھے جن پر سو فلسفیائیوں نے قابل قدر اضافے کیے۔ فکری استدلال کو ارسطو سے پہلے جملیات کا نام دیا جاتا تھا۔ ارسطو

لے ان تمام اصولوں کو مرتب کیا اور ان پر اضافے کر کے منطقی قیاسی کی تشكیل کی جائے۔ علم الحیات میں کہیں کہیں اس نے استقراء بھی کام لیا ہے لیکن اور کا رجحانِ غالب قیاس کی طرف ہی تھا۔ جدید دور کے آغاز پر فرانسیس بیکن نے امطر کے قیاس کو رد کر دیا اور استقراء پر زور دیا کیوں کہ وہ جدید سائنس کا طرزِ تحقیق بھی ہے۔ بیکن نے ارسطو پر یہ الزام لکھا کہ وہ حقائق کا براءہ راست مطالعہ کر کے اپنے نتائج فکر اخذ نہیں کرتا بلکہ ہلے سے قائم کیجئے ہوئے کلیات کے مطابق حقائق کو توڑ مروڑ لیتا ہے اور انہیں اپنے نام نہاد عقلیاتی نظام کے مطابق کر لیتا ہے۔ یہنکی یہ تعریض درست ہے لیکن یہ کوتاہی ارسطو سے خاص نہیں تمام یونانی فلسفی نازش متابدے اور تخبرے کی بجائے کلیات ہی سے استدلال کرتے تھے۔ برٹنیلرسل بھی یہنکی طرح ارسطو سے سخت خنا بیں اور کہتے ہیں:

”ارسطو کا شمار نوع انسان کے عظیم ترین مصائب میں ہوتا ہے۔“

لارڈرسل کے خیال میں ارسطو کی منطقی قیاسی نے صدیوں تک سائنس کی ترقی کے راستے مسدود کر دیے۔ دوسری طرف رینان کہتا ہے کہ ارسطو سائنس کا باقی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ارسطو نباتات اور حیوانات کا مشاہدہ کیا کرتا تھا اور یہ ہلہو سے اس کا انداز مطالعہ تحقیقی اور سائنسیک تھا لیکن قیاس کی بعد گیر مقبولیت اور اس کی موت کے بعد کے فکری تنزل کے باعث اس تحقیقی رجحان کو پہنچنے کا موقع نہ مل سکا۔

ما بعد الطبیعتیات کی طرح سیاسیات، اخلاقیات اور جمیلیات میں یہی ارسطو نے جایجا اپنے استاد سے انحراف کیا ہے۔ وہ افلامون کے اشتراک نسوان کا مخالف ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کی صحیح پرورش اور تربیت کے لیے کتنے کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے کو ماں باب سے الگ کر دیا جائے تو وہ ان کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، جس کا اثر اس کے کردار پر اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ بہترین ریاست وہ ہے جو کم و بیش ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہو۔ یہ ریاست اتنی بڑی ہو کہ کسی نسلے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھا جائے تو ساری کی ساری نکاپوں کے سامنے آجائے۔ اس ریاست میں تین طبقات کا یونانی ضروری ہے۔ طبقہ اعلیٰ علم و عقل سے آرستہ خوشحال یونانی نژاد ہو جس کے سپرد مملکت کا نظام و نسق اور دفاع کیا جائے۔ طبقہ متوسط ہنر مندوں اور صنعت کرکوں پر مشتمل ہو جو کاروبار اور لین دین کا کاروبار کریں۔ سب سے نچلا طبقہ غلاموں کا ہو جو بالآخر طبقات کی خدمت پر مأمور ہوں۔ ارسطو غلاموں کو مملکت کی فلاح و ہبود کے لیے اشد ضروری سمجھتا ہے کیوں کہ اس کے خیال میں جب تک طبقہ اعلیٰ کو روز مرہ کے کاموں سے فراغت میسر نہ آسکے وہ مملکت کے نظام و نسق کا نہ احسان حاصل ہے نہیں کرسکتا۔ ارسطو

تاجریوں کا ذکر حقارت سے کرتا ہے کیوں کہ وہ دوسروں کی محنت مشقت سے بنای ہوئی اشیاء کا محض تبادلہ کر کے دولت کیا لیتے ہیں۔ اس نے سود خوروں کی سخت مفت کی ہے اور کاشتکاروں۔ کان کنوں اور مویشی بالائے والوں کی تعریف کی ہے۔ اس کے خیال میں طرز حکومت یا تو جمہوری ہونا چاہیے اور یا حکومت کی پاک ڈور روساء کے پانہ دے دینا چاہیے۔ وہ ڈکٹیٹریٹس کا سخت مخالف ہے اور کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی ڈکٹیٹر برسر اقتدار آ جاتا ہے لوگ یا تو منافق بن جاتے ہیں اور یا خوشامدی پو جاتے ہیں: اظہار رائے کی جرات اور حریت فکر کا خامہ ہو جاتا ہے۔ ارسٹو نے بیوں کی تعلیم و تربیت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کے مجموعہ نصاب تعلیم میں ہلے پانچ برس کھیل کوڈ کے لیے وقف ہیں۔ پانچ سے سات برس تک ابتدائی آسان تعلیم۔ سات سے چودہ تک موسیقی اور ورزش۔ چودہ سے اکیس تک موہیقی۔ ادب اور نقاشی کی تعلیم دی جائے۔ اس کے بعد طالب علم جن شعبہ علم و ادب سے خاص شف رکھتا ہو اسے اختیار کرنے کا مجاز ہے۔ ارسٹو نے بجا طور پر کہا ہے کہ کردار کی تعمیر کے بغیر تحصیل علوم ایک بے کار مشغله ہے۔ جو اشخاص رسمی علوم پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا کردار گھٹھیا ہوتا ہے وہ علوم و فنون سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ پختہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے حصول کے لیے وہ مناسب عادات کے اختیار کرنے کی ترغیب دینا ہے اور کہتا ہے کہ بھی کے ذین و فکر میں شروع ہی سے اچھی عادتوں کا راستہ کر دینا ضروری ہے تاکہ بڑی عمر میں اس کے کردار میں محکم اور شخصیت میں بالیدی آ جائے۔ اس کے خیال میں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سید بالطبع اور عبد بالطبع۔ سید بالطبع پیدائشی سردار ہوتے ہیں۔ ان کے پاتوں میں زمام حکومت دینا ضروری ہے کیوں کہ سید بالطبع حوصلہ مندی۔ بلند نظری۔ نہماست۔ استقامت سے بھرہ یا بہوت ہوتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کہ کون مسا طالب علم سید بالطبع ہے اور کون سا عبد بالطبع مکتب میں ہوتا ہے۔ ارسٹو مرد کو آقا اور عورت کو کنیز سمجھتا ہے۔ عورت کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ مرد کی خدمت پر کمریتہ رہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت میں فوتِ ارادی نہیں ہوئی اور اس میں شخصیت اور کردار کا فقدان ہوتا ہے۔ کہتا ہے:

”جب قدرت کسی کو مرد بنانے میں ناکام ہوئی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔“ ارسٹو کی تعلیم میں سیاست اور اخلاقیات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ریاست کو فرد پر فوقیت دینا ہے اور کہتا ہے کہ فرد کا مقاد بہر صورت جماعت یا ریاست کے مقاد کے تحت رکھنا چاہیے اور اس کی تمام تر کوششیں ریاست کی بہood و فلاح کے لیے وقف ہوئی چاہیں۔ اسی بنا پر اسے ڈکٹیٹروں سے نفرت ہے جو نوجی طاقت کے بل ہونے پر ریاست کو ذاتی مقاد کی پرورش کا آئندہ کمزیر بنالیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی اور عذر ان تی تمام آسائشوں میں تمام افراد کو برابر کا شریک کرنا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی معاشرہ صحیح معنوں میں منظم صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جو معاشرہ خدل و انصاف کی بنا پر قائم دیا جائے کا اس میں تمام افراد

کے اخلاق خود بخود سدهر جائیں گے۔ دوسری طرف جس معاشرے میں نا انصال ہوئی آس میں پہنچ نصیحت اور وعظ و ارشاد سے افراد کے اخلاق کو سدھا، یہ کام کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ ارسٹو اپنے استاد سے زیادہ حقیقت پسند تھا اس لیے آس نے کسی مثالی ریاست کا تصور پیش نہیں کیا بلکہ قابل عمل مشورے دینے پر اکتفا کیا ہے۔ اسے انسانوں کی کمزوریوں کا بخوبی احسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی غقلی استدلال کرنے والا حیوان ہے معقول انسان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ افلاطون عالمِ حواس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے غیر حقیق کہتا تھا۔ اس کے بر عکس ارسٹو عالمِ مادی کو حقیقی سمجھتا ہے اس لیے انسانی معاشرے کی بہبود کے لیے ایسے اصول وضع کرتا ہے جن پر عمل بھی کیا جاسکے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی تمام کوششیں حصولِ سرست کے لیے وقف ہیں لیکن یہ سرت حظ نفسانی سے مختلف ہے۔ اس سے ارسٹو کا مطلب وہ ذہنی سکون اور آسودگی ہے جو نیکی کی زندگی پر سر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک صحت مند توانا نوجوان کے رخساروں پر از خود گلاب کے پھول جیسی سرخی آجائی ہے اسی طرح نیک آدمی کا دل از خود سرست سے مالا مال بو جاتا ہے۔ اس سرست کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پر جوش شہوات و جذبات کو عقل و خود کے تابع رکھا جائے۔ جس شخص کے جذبات عقل و خرد کی گرفت سے آزاد ہو جائے یہ وہ حظ نفسانی سے تو آشنا ہو سکتا ہے لیکن سچی سرست سے پہمیشہ محروم رہتا ہے۔ ارسٹو کو جایالیات کا بانی بھی کہا گیا ہے۔ اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جو خائع ہو گئی۔ بوطیقا کے چند باب دست پر زمانہ سے محفوظ ہم تک پہنچیے ہیں۔ اس کتاب میں آس نے سکھیلِ نگاری سے تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ اپنے استاد کی طرح آرٹ اور شاعری کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ آرٹ یہ شکِ محاکمات (نقالی) ہے لیکن جیسا کہ افلاطون نے کہا تھا نقالی کی نقالی نہیں ہے بلکہ اصل کی نقالی ہے۔ نقالی سے آس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اصل کی ہو یہو نقالی کی جائے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آرٹ میں جدت اور ندرت کا عنصر لازم ہے۔ ارسٹو کے خیال میں ایک مصور کسی شے کے محسوس و مرنی پہلوؤں کی نقالی نہیں کرتا بلکہ آس مثل یا بیہت یا فارم کی نقالی کرتا ہے جو آس شے کا اصل جوہر ہے۔ آرٹ فطرت میں انہی امثال کی تلاش کرتا ہے اور اشیاء میں جو آفاق اور ازلی عنصر ہوتا ہے آس کی نقالی کرتا ہے۔ ایک عامی کسی شے میں صرف اس کے مخصوص پہلوؤں ہی کو دیکھتا ہے جب کہ ان کا آس شے کا جوہر یا ازلی پہلو دیکھ کر آسے فن کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پر شے ماذے اور بیہت پر مشتمل ہے۔ فن کا بہت سے اعتنایا کرتا ہے ماذے کو در خود توجہ نہیں سمجھتا۔ ارسٹو سکھیل کو الیہ اور فرجیہ میں تقسیم کرتا ہے۔ الیہ کے ہیرو کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی عظیم شخصیت ہو اس سے قطع نظر کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ کسی عظیم آدمی کی عذاب ناک ذہنی کشمکش اور قلبی اذیت ہی الیہ کے اہر پور تاثر کا باعث

ہو سکتی ہے۔ الیہ رحم اور خوف کے جذبات کو ابھار کر ناظرین کی روح کو ہاک کرتا ہے کیون کہ ان جذبات کے جوش مارنے کے بعد سکون اور طانیت کی جو کیفیت محسوس کی جاتی ہے آسے تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں ارسطو کے مثالی انسان کے تصور کا ذکر ضروری ہے کہ امن میں خود ارسطو کے ذاتی کردار و شخصیت کی جہلک بھی دکھانی دیتی ہے۔ ول ڈیورنٹ¹ کے الفاظ میں:

"وہ برائیک کی خدمت کرتا ہے لیکن کسی سے خدمت لینا ننگ و عارسجهتا ہے کیون کہ احسان کرنا برتی کی علامت ہے اور منون احسان ہونا کہتری کا نشان ہے۔ وہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ جو کہم میں نہیں ڈالتا کیون کہ وہ دنیا کی بہت کم چیزوں کو در خور توجہ سمجھتا ہے لیکن مناسب موقع پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا کیون کہ وہ جانتا ہے کہ بعض حالات میں زندہ رہنا باعث ننگ ہے۔ وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کی نکود و نہاش نہیں کرتا اور اپنی پسند اور ناپسند کا بر ملا اظہار کرتا ہے۔ وہ صاف گو ہوتا ہے اور کسی شخص کا یامن و لحاظ آسے حق گوئی سے باز نہیں رکھ سکتا۔ وہ کسی کی مبالغہ آمیز تعریف نہیں کرتا کیون کہ اُس کی نگاہ میں بہت بسی کم چیزوں کو عظیم سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ دوستوں کے سوا کسی کی تالیف قلب کا قائل نہیں ہوتا کیون کہ صرف علام ہی دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کینہ پرور نہیں ہوتا اور قصور معاف کر دیتا ہے۔ وہ پاتوفی نہیں ہوتا اور لوگوں کی مدح و ندم سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ دشمنوں کی غیبت نہیں کرتا بلکہ انہیں مسب کچھ منہج یو کہ دیتا ہے۔ اس کی چال باوقار، آواز گھبری اور گفتگو نبی تلی بسو ہے۔ وہ جلد بازی سے کام نہیں لینا کیون کہ کسی شے کو وقوع نہیں سمجھتا۔ وہ دوڑ دھوپ اور نگ و دو سے گریز کرتا ہے کیون کہ وہ کسی بات کو چندان ابھیت نہیں دیتا۔ چیخ چیخ کر باتیں کرنا اور جلد قدم الہانا اندر و خلف شمار کی علامتیں ہیں۔ وہ حوادث زمانہ کو تحمل اور وقار سے برداشت کرتا ہے۔ وہ خود اپنا بہترین دوست ہوتا ہے اور گوشہ نہائی کو پسند کرتا ہے جب کہ مرد ناکارہ خود اپنا بدترین دشمن ہے اور تنهائی سے خوف کھاتا ہے۔"

فلسفہ ارسطو کے اہم پہلوؤں کی تلخیص درج ذیل ہے:

(۱) ارسطو اپنے استاد افلاطون کی طرح منائیت پسند ہے کیون کہ وہ بھی امثال کو ارزی و ابدی سمجھتا ہے۔

(۲) ارسطو کے خیال میں امثال مادی اشیاء سے علیحدہ یا ماوراء نہیں ہیں بلکہ

(۲) نظام کائنات غافی اور مقصدی ہے۔ ہر شے اپنی خاتمت کی طرف حرکت کر رہی ہے۔

(۳) افلاطون عالم حواس کو غیر حقیقی کہتا تھا اور اسے عالم ظواہر سمجھتا تھا۔ ارسطو عالم حواس یا عالم مادی کو حقیقی عالم مانتا ہے۔

(۴) ہر شے مادے اور پیش یا فارم پر مشتمل ہے۔ مادے اور پیش کا تعلق عضویاتی ہے یعنی وہ ایک دوسروے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتے۔

(۵) زمان غیر حقیقی ہے۔ کائنات ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہے گی۔

(۶) ارسطو نسخ ارواح اور بقاۓ روح کا منکر ہے۔ اس کے خیال میں جسم کی موت کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے۔

(۷) خدا کائنات کا خالق نہیں نہ وہ فرد یا شخصیت ہے۔ وہ غیر مادی پیش ہے، مقناطیسی کشش ہے جس کی طرف کائنات کوہنگی چلی جا رہی ہے۔

(۸) انسان کی تمام تک و دو حصوں مسرت کے لیے ہے جو صرف نیک اور فکر و تدبیر سے میسر آ سکتی ہے۔

(۹) فرد کے مفاد پر جماعت کا مفاد مقدم ہے۔ فرد جماعت کے لیے ہے۔ آدمی انسان کھلانے کا مستحق جبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو، کسی ریاست کا شہری ہو۔

(۱۰) آرٹ نقلی ہے۔ فن کار کسی شے کی مثل یا پیش یا دوامی پہلو کو اسلوب کی گرفت میں لا کر عظیم آرٹ کی تخلیق کرتا ہے۔

(۱۱) کردار کی پشتگی کے بغیر علم بے کار ہے اچھی عادتوں کے راستخ کرنے سے کردار حکم پوتا ہے۔

جیسا کہ مادیت پسندی کے ضمن میں ذکر ہو چکا ہے ارسطو کی وفات کے بعد فلسفہ یونان تنزل پذیر ہو گیا۔ رومہ الکبریٰ کے عہد سطوت میں بھی افلاطون اور ارسطو کی درس گاہوں میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہا لیکن جودت فکر کا خاتمه ہو چکا تھا۔ قدماء کی کتابوں پر حواشی لکھنا طلبہ کا محبوب مشغلہ قرار پایا۔ سکندریہ میں فلاطینیوں نے افلاطون کے فلسفے کے عقاید پہلو سے صرف نظر کر کے اس کے اشراق اور باطنیت کی تجدید کی اور نو اشراقيت کی بنیاد رکھی۔ رومی شہنشاہوں نے عبائی مذہب قبول کر لیا تو ایتھریز کی درس گاہیں بند کر دی گئیں اور فلاسفہ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وحشی اقوام نے سلطنتِ رومہ کا خاتمه کیا تو یورپ میں تاریک صدیوں کا آغاز ہوا۔ یورپ کے اس عہد جاہلیت میں مسلمانوں نے یونانی فلاسفہ کی کچھ کتابیں عربی میں منتقل کیں۔ اور فلسفہ یونان کا احیاء کیا۔ این رشد ارسطو کا بڑا شیدائی تھا۔ اس نے ارسطو کی کتابوں پر سیر حاصل حواشی لکھی جن کے ترجیح اپنی سینا کی کتابوں کے ساتھ مغرب میں شائع ہو گئے اور اپل مغرب کے فکر و نظر میں صدیوں کے جمود کے بعد از سرنو پلچل مج گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے ارسطو اور

الفلاطون کے انکار سے اپنے عقاید کی توثیق کا کام لینا شروع کیا۔ افلاطون خاص طور پر عیسائیوں میں بڑا مقبول ہوا۔ آگسٹائن نے آئے ”بغير صليب کا مسيحا“، کہا ہے۔ اُن کا بد نظریہ عیسائی مذہب کے عین مطابق تھا کہ عالم ماوراء سے بالاتر ایک حقیقی عالم بھی ہے۔ مزید ہو آن افلاطون کے حیات بعد نمات۔ جزا سزا اور بہشت دوزخ کے انکار بھی عیسائی مذہب کے موافق تھے۔ یہ حالات تھے جب مغرب میں احیاء العلوم کی تحریک برپا ہوئی۔ اور سائنس اور فلسفہ دونوں مذہب اور باطنیت کے تصرف سے آزاد ہو گئے۔ کوپرنیکس، گلیلو، کپلر اور نیوتن نے کائنات کے متعلق انسان کا نقطہ نظر یکسر بدل دیا۔ بیشتر اور طبیعتیات کے نئے نظریات کی روشنی میں فلسفے کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ فرض یہکن۔ باس اور ڈیکارت نے انجام دیا۔ جیسا کہ مادیت پسندی کے ضمن میں ذکر آچکا ہے۔ ہم نے لکھا کہ ڈیکارت سے مادیت اور مثالیت دونوں روایات متفرع ہوتی ہیں۔ اس اب میں ہم مثالیت پر اُس فلسفے کے اثرات کا ذکر کریں گے۔

ڈیکارت : ۳۱- مارچ ۱۵۹۶ کو تورین (فرانس) کے ایک معروف و متول گھرائے میں پیدا ہوا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت کے آثار لڑکیں ہی سے ظاہر ہوئے لگے۔ اور گھر کے لوگ آئے ”نها فلسفی“ کہہ کر پہکارنے لگئے کہوں کہ وہ بزرگ و اس سوالات پوچھتا رہتا تھا۔ اعلیٰ تعلم کی تخلیص کے لیے آئے لافلش کے یوسوی مدرسے میں بھیجا گیا جہاں اُس نے ریاضی۔ طبیعت اور الہیات کی تکمیل کی آئے ریاضی میں خاص شغف تھا۔ بعد میں اُس نے تحلیلی پندتہ ایجاد کیا۔ مدرسے سے فارغ ہو کر کچھ عرصے تک وہ پیرس میں دوسرے نوجوانوں کی طرح دادِ عشرت دینا اور بہر مطالعے اور تفکر کے لیے گوشہ گیر ہو گیا۔ کچھ مدت فوجی خدمات بھی انجام دیں۔ فوجی افسر یہ دیکھ کر حیران ہوا کرتے کہ ڈیکارت بروقت غور و فکر میں غرق رہتا تھا۔ اور دوسرے فوجیوں کے مشاغل میں دھجی نہیں لیتا تھا۔ فوجی خدمت سے سبکدوش ہو کر اُس نے ہالینڈ میں مکونت اختیار کی۔ وہ آسودہ حال تھا اس لیے آئے مطالعہ، فلسفہ اور فکر و تدبیر کے موقع پاسانی۔ پس آتے رہے۔ اُس نے اپنے فلسفے کو مربوط صورت میں اپنی تصانیف ”مراببات“ اور ”اصول فلسفہ“ میں لیش کیا ہے۔ معاصرین اُس کی جودت فکر کے قائل تھے۔ اپنے فلسفے کا سب سے بڑا مدار و خود تھا اور کسی کو خاطر میں لاتا نہیں تھا۔

ڈیکارت کا فلسفہ تشکیل سے شروع ہوا۔ وہ اپنے فلسفے کو محکم، یقینی بنایا دیا۔ اس توار کرنے کا سمنا تھا اس لیے ابتداء میں اُس نے پر چیز کو شک و شبہ کی نکاں سے نیکھا اس شک کو فلسفے کی اصطلاح میں ”کرنٹسی شک“، اکھتے ہیں۔ شک و شبہ کے اس راستے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ”میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں“ اُس کے خیال میں وہی شے صداقت کی حامل ہوئی ہے جو اتنی ہی واضح ہو۔

جتنا لہ آس کا اہنا وجود یقینی ہے۔ آس کا وجود بلاشبہ ہے اور اس وجود کا جو بر ذہن ہے جو سوچتا ہے اور شک کرتا ہے۔ شک کرنا اور سوچنا یہ ذات خود اس کے اپنے وجود کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے امن طرح آس کی اپنی ذات اور اپنے افکار یقینی یہیں جن سے تمام عالم خارجی کا وجود استبطاط کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کی رو سے ذہن مادے سے زیادہ یقینی ہے اور ”میرا ذہن دوسروں کے اذہان سے زیادہ یقینی ہے“۔ اس طرح ڈیکارت کے فلسفی میں موضوعیت کا عنصر پیدا ہو گیا اور مادے کے متعلق یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ، وہ صرف ایسی شے ہے جس کے وجود کا اختصار ذہن ہر ہے۔ یہی نقطہ نظر مثالیت پسندی کا بھی ہے۔ ”میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں“ کی بنیاد پر ڈیکارت نے تمام علم کی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ پہلا نتیجہ آس نے اخذ کیا کہ روح جسم سے کلی طور پر آزاد ہے اور حسم کی بہ نسبت ایسے جانتا زیادہ سهل ہے اس لئے جسم کے نابود ہونے کے بعد بھی روح باقی رہے گی۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جن اشیاء کو ہمارا ذہن واضح طور پر سمجھتا ہے وہ سمات کی حامل ہوئی ہیں۔ فکر کو ڈے کرٹ نے وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ”جو سوچتی ہے وہ ہے“ جو شک کرتی ہے سمجھتی ہے ارادہ کرتی ہے خیال کرتی ہے احسان رکھتی ہے۔ چونکہ وچنا ہی ذہن کا جو بر ہے اس لئے ذہن پیشہ سوچتا ہے خواہ وہ حالت خواب میں ہو۔ خارجی اشیاء کا علم ضروری ہے کہ ذہن کے وسیلے سے ہوند کہ حسیات کے واسطے ہے۔ یہ نتیجہ کہ فکر نہ کہ خارجی اشیاء یقینی طور پر موجود ہے یونانی مثالیت پسندی سے یاد گلار ہے۔

ڈیکارت کے نظام فکر کی بنیاد مشایدہ نفس پر ہے جس کے ساتھ جدید فلسفہ شروع ہوا۔ آس نے کہا کہ ”میں سوچتا ہوں“ دنیا کی سب سے ٹھوس حقیقت ہے۔ اس طرح ڈیکارت کے ساتھ جدید فلسفی میں موضوعیت کا وہ رجحان پیدا ہوا جس نے بعد کے مثالیاتی نظریات پر اثرات ثابت کیے اسی موضوعیت کے باعث کلامیکی جرمن مثالیت پسندوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذہن مادے کا یا موضوع معروض کا خالق ہے۔ اس کی انتہائی صورت یہ ہے کہ پر شخص کا ذہن تمام دوسرے اشخاص کے اذہان کا خالق بھی ہے۔ اصطلاح میں اسے (Solipsism) کہتے ہیں۔

گانفرید ولہلم لائپ نائز اس دور کا دوسرा مشہور مثالیت پسند ہے جو ۱۶۶۷ء کو لسپرگ (جرمنی) میں ایک بروفیسر کے ہاں پیدا ہوا۔ وہ بچپن میں باپ کے سایہ علاقفت سے محروم ہو گیا۔ بڑے ہو کر اس نے اپنے باپ کا وسیع کتب خانہ کھینکل ڈالا اور تمام مروجہ علوم کا کھرا مطالعہ کیا۔ قانون کا استھان دے کر ایک رئیس کے یہاں ملازم ہو گیا۔ لائب نائز کو بھی ڈیکارت کی طرح ریاضیات میں کھرا شف تھا چنانچہ بعد میں اس نے اس مضمون میں ایجادات بھی کیں۔ اس نے ڈیکارت اور باہس کی کتابوں کا خاص ذوق و انہاک سے مطالعہ کیا تھا۔ باہس سے تو

اس کی خط و کتابت بھی رہی ۔ بالائی میں امن کی ملاقات وجودی فلسفی سپینوزا سے بھی ہوئی تھی ۔ ۱۶۲۶ع میں وہ بیبنور کے والی کامشیر اور امن کے کتب خانے کا مہتمم مقرور ہو گیا ۔ اس کی ساری زندگی مطالعہ کتب میں گزری ۔ ۱۶۲۹ع میں ایک خط میں لکھتا ہے ۔ ”بجھے یہ موس کے فکر و تدبیر کے بعد اب شرح صدر ہوا ہے“ اس نے مذہب اور فلسفے کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی ہے لیکن مروجہ مذہب میں چندان دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا ۔ اس نے ساری عمر گرجا کا رخ نہیں کیا اس لیے عوام اسے زندیق کہتے تھے ۔ وہ علم کلام کا ذکر نہایت حقارت سے کرتا ہے ۔ لائب نشنز عمر بہر مجرد رہا ۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کسی شخص کو شادی کرنا چاہیے یا نہیں پوری عمر درکار ہے ۔ وہ لکھتا ہے کہ جوان کے زمانے میں آئے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور ایک دن اس نے اپنی محبوبہ سے درخواست کی کہ وہ اس سے شادی کر لے ۔ لڑکی بولی سوچ کر بتاؤں گی ۔ لائب نشنز کہتا ہے خوش قسمتی سے مجھے بھی سوچنے کا موقع مل گی اور میں شادی سے بال بال بچ گیا ۔ لائب نشنز ہمی گلبلو کی طرح کہا کرتا تھا کہ ایک اچھا فلسفی ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا ۔ بیبنور کے دربار میں امن کے بخل و اسماں کے افسانے مشہور تھے ۔ ایک دفعہ دربار کی ایک رئیس زادی کی شادی ہوئی ۔ سب لوگوں نے اسے بیش قیمت تھاں دیے ۔ لائب نشنز نے تھانے کی جگہ چند نصائح لکھے بھیجے جن میں کہتا ہے کہ ”اب جب کہ تمہیں شوہر مل گیا ہے پر روز نہایا کرنا ۔“

لائب نشنز کے نظریے کو پہنچیتی^۱ کثیر پسندی کہا جاتا ہے ۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ جو شے مركب ہے وہ لازماً اجزا بر مستقل ہوگی ۔ جزو واحد کو بھیلا یا نہیں جا سکتا ۔ جو بھیلا ہوانہ ہو وہ مادہ ۔ ہو سکتا لہذا اشیاء کے اجزاء ترکیبی مادی نہیں یہی چونکہ مادی نہیں یہیں اس لیے لا محالہ ذہنی ہوں گے ۔ ان اجزاء ترکیبی کو اس نے موناڈ کا نام دیا ہے جو آس کے خیال میں روحانی اور نفسی قوتیں یہیں ۔ پر موناڈ میں ادراک کی قوت موجود ہو قہے ۔ تمام عالم انہی موناڈ سے مركب ہے اور ان میں سے پر ایک روحانی اکائی ہے جو ارتقاء پذیر ہے اور جس میں کوئی رختہ یا دریجہ نہیں ہے کہ روز ازل سے سر بھر ہے ۔ کوئی شے اس کے اندر خارج سے داخل نہیں ہو سکتی ۔ موناڈ میں ماضی محفوظ رہتا ہے اور اس میں مستقل کے ممکنات یہی موجود ہوتے یہیں ۔ اس کے خیال میں جس چیز کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ انہی نفسیات مرکز یا موناڈ سے مركب ہے وہ تعداد میں بے شمار یہیں ۔ پر موناڈ آزاد اور مستقل بالذات ہوتا ہے ان کے مابین سبب و مسبب کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ۔ موناڈ روحانی الاصل یہیں ”ازلی یہیں“ غیر فانی یہیں ۔ لکڑی کی میز سے لے کر روح انسانی تک پر شے انہی سے بنی ہے ۔ روح انسانی میز سے برتر ہے کہ زیادہ صاف

اور واضح موناؤ سے مر کب ہے - خدا صاف ترین موناؤ ہے جو روح انسانی کی طرح غیر قابل ہے - لائب نٹر کا یہ نظریہ حرکی ہے - برموناؤ فعال ہے - موناؤ کے فعل کو حرکت یا تغیر کہا جاتا ہے - لائب نٹر کے خیال میں کائنات میں جتنے اجسام اشیاء ہیں ان سب کی اساسی صفت توانائی ہے - توانائی سے اس کا مطلب حرکت یا حرکت کو جاری رکھنے کا رجحان ہے - کائنات توانائی کی انہی اکائیوں سے بنی ہے جنہیں وہ موناؤ کا نام دیتا ہے - انہیں تلف نہیں کیا جا سکتا - جہادات سے لے کر خدا تک توانائی کی یہ اکائیاں مرتب و مسلسل شکل میں موجود ہیں - لائب نٹر کی اس بعد روheit کے مطابق زمان مکان کا عالم حواس سے مدرک ہے حقیقی ہے جب کہ افلاطون کی مثالیت میں یہ غیر حقیقی ہے -

لائب نٹر نے احادیت کو بھی رد کر دیا ہے اور کترت پسندی کا نظریہ پیش کیا ہے جس میں بے شمار حقائق ہیں - اس کے فلسفے کو مثالیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس کی رو سے کائنات اصلاح روحانی یا ذہنی ہے اور دوسرا سے یہ کہ لائب نٹر کائنات کو ایک منطقی ریاضیاتی نظام سمجھتا ہے جسے صرف عقل استدلالی ہی سے جانا جاتا ہے - بعد کے جرمن مثالیت پسندوں نے اس کے افکار سے استفادہ کیا اکابر فلاسفہ نے لائب نٹر کی جودت فکر اور عظمت کا اعتراف کیا - اوسوالہ سپنکلرا کے خیال میں وہ جدید فلسفے کا عظیم ترین ذہن و دماغ ہے - ہمارے زمانے کے فلاسفہ میں چیمز وارڈ - وہائٹ پیڈ - ڈریک وغیرہ اس کی ہم روheit سے فیض یا ب پوئے ہیں - لارڈ برٹنرنرسل اس کے فلسفے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"لائب نٹر نے گیکارٹ کی ذہن و جسم کی دونی اور سپنوزا کی احادیت دونوں کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جواہر متعدد ہیں - اس کا نام اس نے موناؤ رکھا ہے ایک موناؤ دوسرے کے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے - انسان کی روح واحد موناؤ ہے جب کہ اس کا جسم بے شمار موناؤ سے مرکب ہے - ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حد تک ذہنی ہے - لیکن اتنا صاف اور منزہ نہیں جتنا کہ روح کا موناؤ - گھٹیا درجے کے موناؤ میں کائنات کا عکس اتنا صاف نہیں پڑتا جتنا کہ اعلیٰ موناؤ میں پڑتا ہے - مادہ کنی موناؤ ہر مشتمل ہے اور اگر ہم صاف طور سے دیکھ سکیں تو معلوم ہو گا کہ مادے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے - لائب نٹر کا یہ اجتہاد جدید طبیعتیات سے قریب ترین ہے - لائب نٹر نے نیوٹن کے ہر عکس کہا کہ زمان و مکان علاقہ پر مشتمل ہیں - اس نظریے کا اثبات ائمہ سنان کے نظریہ اضافت سے بوچکا ہے -"

- ترعوبیں صدی میں سائنس کی اشاعت نے سوچنے کے قدیم انداز بدلتے تھے -
خاڑھویں صدی میں ہر کہیں عقلیت کا دور دورہ ہو گیا - ہم مادیت پسندی کے

باب میں تحریک خرد افروزی کا ذکر کر چکے ہیں کہ کم طرح فرانس میں والٹیر، او، دیدرو وغیرہ نے عقل و خرد کو مشعل راہ بنایا اور انسانی معاشرے کو سائنس کے ایجاد کرنے کی روشنی میں نئے سرے سے تعمیر کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ فرانس کے ان قاسوسیوں کو عقل بہر اعتہاد کامل تھا اور اس بات کا یقین تھا کہ انسان سائنس کے برکات سے بہرہ باب ہو کر ہی ایک مثالی انسانی معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ الہارہوں صدی کی روح عصر یا خرد افروزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم ہولیاخ کا ذکر قدرے تفصیل سے کہوں گے کہ دوسرے قاموں میں کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے۔ کائنٹ کے افکار کو سمجھنے کے لیے بھی خرد افروزی کے اساسی افکار کا ذین نشیں کرنا ضروری ہے۔

ہولیاخ (۱۸۲۴ء-۱۸۹۴ء) ایک جرمی رئیس تھا جس نے پیرس میں سکونت اختیار کر لی تھی اور اس دور کے تمام خرد پسندوں کو اپنی ذات کے گرد جمع کر لیا تھا ابتداء میں اسے کیمسٹری سے شوق تھا۔ دیدرو کی صحبت نے فلسفی کی طرف مائل کر دیا۔ اس کی تالیف "نظامِ فطرت" کو مادیت کا صحیفہ کہا گیا ہے۔ اس میں مادیت پسندی کو باقاعدہ ایک نظامِ فکر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور مذہبی اور روحانی نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ ہولیاخ روح کے متعلق لکھتا ہے کہ بہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ روح ایک صفت ہے جو مغز سر سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی بوجھی کہ مغز سر میں یہ صفت کھانا سے آئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ "یہ ایک تر کیب کا نتیجہ ہے جو جاندار ہستیوں کے لیے مخصوص ہے اور جس کی وجہ سے بے جان بے حس مادہ ایک زندہ ہستی کا جزو بن کر حیات اور احساس کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے جس طرح ان کے بدن میں دودھ۔ رومی اور شراب زندگی اور احساس میں تبدیل ہوئی رہتی ہے وہ کہتا ہے کہ پر شخص اپنی خوشی کا جویا ہے۔ عقل انسان کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان اپنی مسrt کو دوسرے لوگوں کی مسrt سے الگ کر لے تو وہ بھی مسrt سے بہرہ اندوں نہیں ہو سکتا انسان کا مندر یہی ہے کہ اگر وہ اپنی مسrt کا سامان کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں کو بھی مسrt بھم ہنچانا ہوگا۔

روح کے متعلق ہولیاخ کہتا ہے کہ شروع شروع میں انسان کو اشیاء اور مقابرِ فطرت کے اسباب معلوم نہیں تھے اس لیے اس نے ان اسباب کو زندہ ہستیوں پر فیاس کر لیا اور دیوتاؤں کو ماننتے لگے۔ اہل مذہب نے معاشرے پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے مذہبی عقائد کا ایک نظام مرتب کر لیا۔ بروپت جانتے تھے کہ انسان فطرتاً اعجموں پسند ہے۔ اس لیے انہوں نے مرمن دیوتاؤں یعنی چاند۔ سورج وغیرہ کے عقائد پٹا لر غیر مرمن ہستیوں کے عقائد عوام کے دلوں میں ڈال دیے۔ یہ "نفرید" روح علی لحاظ سے ہے اور بلاشبہ مکار پروپتوں کی غرض برآری کے

شعبدہ ہے۔ ان لوگوں نے عوام کو بتیں دلا دیا کہ انسان کا ایک غیر مرفیع مزاد ایسا بھی ہے جسے مرنے کے بعد جزا سزا ملے گی۔ تمام دیوتا ہر وہتوں ہی کے تراشے ہوئے ہیں۔ ان کی ابتداء ہر ٹھور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیوتا انسان کے جھپٹ یا خوف کی پیداوار ہیں۔ تخلیق - جوش یا سکر و فربہ ان کی تزوین کرتا ہے۔ عجز ان کی پرستش کرتا ہے۔ خوش اعتہادی اہمی قائم رکھتی ہے۔ رواج ان کی عزت کرتا ہے۔ ظلم ان کی حمایت کرتا ہے تاکہ انسان کی بے بصیری سے اپنا الو سیدھا کرتا رہے۔ یہ ہے ہولباخ کا فلسفہ "منصب"۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک خدا کو تسلیم کر لیں تو کسی نہ کسی طرح یو جا لارم ہو جاتی ہے۔ ہروہتوں کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ فطری اخلاق کی صورت میخ ہو جاتی ہے اور جور و غلام کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مصیبہ یہ بھی آتی ہے کہ دنیوی آفات کو خدا کی بستی کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے سو فسطیابانہ دلائل دیتے جاتے ہیں۔ ہولباخ کے خیالات پر دیدرو کا اثر ظاہر ہے۔ اس نے مفہوم کے آغاز و ارتقا کے متعلق ایک بڑے مسئلے کو چھپڑا جس کی تشریح بعد میں فریزر نائمر - ویسٹر مارک - رابرٹسن سمعتہ وغیرہ نے کی۔ اس کے انکار خرد افروزی کی عقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے خلاف روسو اور کانت جیسے رومانیت پسندوں نے تحریک جاری کی تھی۔ ول ڈیبورنٹ خرد افروزی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں : "عقل و دانش کی پرستش نے ایک مستقل مسلک کی صورت اختیار کر لی۔ خرد افروزی نے اس پر اپنے اس شاندار عقیدے کی بنیاد رکھی کہ نوع انسانی کی ترقی اور تکمیل نفس کے بے پایان امکانات موجود ہیں۔ انقلاب فرانس نے خلیقی دیوبی کی پرستش کے لیے معبد تعمیر کیے اور اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ عقل و خرد انسان کے لیے فیوض و برکات کی خانم ہو سکتی ہے۔ اس پاکیزہ فضہ میں روسو گھمن محسوس کرتا تھا اور ایمان و ایقان کی ضرورت پر زور دیتا تھا۔ جب عقل و خرد اس کا مضھکہ اڑاکی تو وہ کہتا کہ یہ ایک مرض ہے۔ اس نے کہا "میں یہ اعلان کر رہے ہی جرأت کرتا ہوں کہ فکر و تدبیر خلافِ فطرت ہے اور مفکر ایک اخلاق باختہ انسان ہے۔"

کانت نے جب خرد افروزی کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو اس نے روسو ہی سے فیضان حاصل کیا تھا۔ روسو کی رومانیت کے انرات جرمتوں کی مثالیت پر بڑے گھرے اور دور رس ہوئے لیکن ان کا ذکر کرنے سے ہلے ایک اور مثالیت پسند کا ذکر درتا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

جاوج بارکلے (۱۶۸۵-۱۷۵۳ء) آئر لینڈ کے ایک انگریز گھرانے میں پیدا ہوا۔ جیسی ہی سے ۴۰۰ زین اور ذکر تھا۔ جنابھم اس نے اپنے فلسفے کے اصول اولیل شباب ہی میں سر ب کر لیے تھے ۱۷۳۲ء میں اشہب کے عہدے پر فائز ہوا۔ آخری

عمر آکسفورد میں گزاری۔ ب شب بارکلے نے فلسفے میں مذہب کے مقام کو بحال کرنے کے لیے مادیت پسندوں کے خلاف آواز الہائی اور بد دعویٰ کو کرکے علمی دنیا کو چونکا دیا کہ مادے کا کوف وجود نہیں ہے۔ ان کے نظریے کو میتوں عی مثانت کا نام دیا گیا ہے۔ ان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اشیاء صرف ذین ہی میں موجود رہ سکتی ہیں کیونکہ ان کے موجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لہیں کوف نہ کوف ذین ادراک کرتا ہو۔ ان کی موجودگی ادراک ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ گلیلیو نے کہا تھا کھلی پر میں نہیں ہوئی ہمارے بدن میں بھی ہے بارکلے مادی اشیاء کا منکر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تمام مادی اشیاء خیالات ہیں جو صرف ذین ہی میں موجود ہوتے ہیں۔ بارکلے خیال اور حس کو مترادف سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے فرض کیجیئے کوئی شخص اختراض کرے کہ کوف بھی آدمی کسی درخت کو دیکھنے والا نہ ہو تو کیا درخت معدوم ہو جائے گا تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ان صورت میں درخت خدا کے ذین میں موجود ہو گا۔ اس طرح منطقی استکال کو رفع کرنے کے لیے ان نے خدا کا سہارا لیا ہے۔ بارکلے کے مکالہات آج بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں دو کردار ہیں باقی لام جو سائنس دان ہے۔ اور فلاؤں جو بارکلے خود ہے۔ ایک جگہ فلوں خود کہتا ہے۔ ”حس کا بلاواسطہ ادراک ہو وہ خیال ہے اور کہا خیال ذین کے باہر بھی موجود رہ سکتا ہے۔“ ان کا یہ خیال کہ صرف ذین اور ذہنی احوال بھی موجود ہیں پیگل کے یہاں بھی دکھانی دینا ہے۔

دور جدید کے سب سے بڑے مشکل ڈیوڈ ہیوم نے بارکلے کی اس دلیل کو آخری منطقی حد تک پہنچا دیا کہ کسی شے کی موجودگی مدرکات پر مشتمل ہے اور کہا کہ ذہنی کیفیات ہی کی موجودگی کا علم ہو سکتا ہے۔ ہیوم نے سلسہ سبب و سبب سے بھی انکار کر دیا اور اس طرح علم کی جڑ پر کھاڑا چلا یا۔ موضوعیت کا نیجہ پیشہ تشكیل کی صورت میں نمودار ہوتا ہے کیونکہ علم موضوع اور معروض کے ربط و تعلق کا دوسرا نام ہے۔ صرف موضوع پر زور دیا جائے گا تو معروض کا انکار لازم آنے کا سوائے آس معروض کے جو موضوع کے ادراک میں ہے۔ اسی موضوعیت کے باعث قدیم سو فسطانی تشكیل کے شکار ہوئے تھے۔ ہیوم کے تشكیل نے کائنات کو خواب آسودگی سے جہنجور کر بیدار کر دیا۔

علمول کالٹ ۱۸۴۶ء میں کونکنگ برگ کے ایک زین ساز کے گھر پیدا ہوا۔ ان کے ماں پاپ سیدھے سادے قناعت پسند اپل مذہب تھے کائنات نے مدرسے میں لاطینی زبان بڑے شوق سے سیکھی اور ان میں خاص بیانات پیدا کر لی۔ یونیورسٹی جا کر آس نے فلسفے اور طبیعتیات کی اختصاصی مصانعہ کیا۔ تحصیل علم سے فارغ ہو کر وہ ایک گھرائے میں اتنا لیق مقرر ہوا۔ ۱۸۴۶ء میں آس نے کونکنگ برگ

کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا۔ آئے طبیعی جغرافیہ سے گھری دلچسپی توی جس میں اُم نے قابل قدر تحقیق کام بھی کیا۔ کائنٹ ماری عمر بخوبی رہا۔ اُن کے متعلق عجیب و غریب حکایات مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جوانی کے زمانے میں کائنٹ کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ لڑکی بھی اُم کی طرف مائل تھی اور اُن انتظار میں تھی کہ کائنٹ کب آئے رسمي طور پر شادی کرنے کے لیے کہیے گا۔ سوہ اتفاق سے انہی ایام میں کائنٹ ایک مابعد الطبیعیات گھوی کے سلسلہ میں ایسا مستغرق ہوا کہ آئے سراہا کا پوش نہ رہا۔ وہ لڑکی بروز آس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی کہ وہ اُم کی جانب منتظر ہو لیکن کائنٹ پر تو محبوس کا عالم طاری تھا۔ کبھی نگاہ انہا کر بھی نہ دیکھا۔ آخر روز ہو کر وہ لڑکی جلی گئی اور اس نے کسی اور شخص سے شادی کر لی۔ اس واقعے پر کئی برس گزر گئے۔ ایک دن اتفاق سے راستے میں کائنٹ کی مذہبیت اُسی لڑکی سے ہوئی جو اب ادھیڑ عمر عورت تھی۔ لڑکی نے کتنا کہر نکل جانا چاہا لیکن کائنٹ نے آئے دیکھ لیا اور مسکرا کر نہایت شائستہ لہجے میں کہا ”خاتون! مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکوں گا۔“ عام طور سے علوم ہے کہ کائنٹ کی سیر کے اوقات ایسے معین تھے کہ لوگ آئے دیکھ کر اپنی کھڑیوں کے وقت درست کیا کرتے تھے۔

کائنٹ پر وقت کسی نہ کسی عقدے کے متعلق سوچتا رہتا تھا اور بعض اوقات دنیا و مافیہا سے یہ خبر ہو جاتا تھا۔ اُس کے خیالات ہی دقیق نہیں تھے اسلوب بیان میں بھی ژولیدگی تھی۔ اُس کی مشہور کتاب ”تنقیدِ عقلِ محض“ کی نثر خاصی آجھی ہوئی ہے۔ بعد میں اُس نے اُن کی تلخیص ”مقدمہ“ کے عنوان سے عام فہم زبان میں لکھی تھی۔ کائنٹ کی آخری عمر گوناگون پریشانیوں میں کئی کہہ سواد اور تک نظر پادری پنجے جھاؤ کر اُس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کائنٹ کو ہبوم کے تشکیل اور لا ادربت نے خواب شیرین سے جکایا تھا۔ ہبوم نے عقل استدلالی کو بے مصرف قرار دے دیا تھا۔ کائنٹ نے عقل کے اصل مقام کو بحال کرنے کا بیڑا آنہایا۔ اس دوران میں وہ روسو کی کتاب اینل کے مطالعے سے بڑا متاثر ہوا اور اُن انہاک سے آئے پڑھنا شروع کیا کہ روزمرہ کی سیر ”کو بھی ہفول گیا جس سے اُس کے پمسانے سخت متعجب ہوئے۔ روسو نے فرانسیسی قاموں کی مخالفت کی تھی جو مذہب کو داستان پارینہ سمجھئے تھے اور اسے ماضی بعدی کی پادگار مانتے تھے۔ کائنٹ نے آن کے خلاف وجود ذات باری۔ فقر و اختیار اور بناۓ روح کو ثابت کرنے کا تھیہ کر لیا۔ اس طرح اُس کا منصب عقل استدلالی اور مذہب دونوں کا دفاع کرنا تھا۔ عقل کے دفاع میں اُس نے کہا کہ بعض قوانین اور قواعد انسانی تجربے اور حسی مشاہدے سے ہے نیاز پوتے ہیں۔ مثال میں اُس نے ریاضی کے قواعد پیش کئے جو ائل ہیں اور جن سے ہم محکم نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ کائنٹ کہتا ہے کہ ذین انسانی منتشر حواس کے مجموعے کا نام نہیں ہے جیسا کہ ہبوم نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کہتا ہے کہ ذین ایک

نفال قوت ہے جو حسی مددکات پر آزادانہ عمل کر کے انہیں علم میں منتقل کر قریبی ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا علم تجربات و مددکات سے ماؤ رہا نہیں ہو سکتا لیکن بعض قواعد و مقدمات ایسے ہیں جو اگرچہ تجربے اور مشاہدے ہی سے اخذ کرے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود شخصی مشاہدے اور تجربے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ مثلاً دو اور دو چار ایسی اٹل حقیقت ہے جو شخصی مشاہدے سے بے نیاز اور بالاتر ہے۔ امن صحن میں کائنات نے بارہ مقولات کائناتی ہیں جن کے ساتھ چار تضادات ہیں جن میں سے ہر ایک مشتبہ اور منبی پر مشتمل ہے۔ ان تضادات سے ہیکل متأثر ہوا تھا۔ اس کی جدلیات انہی کی نیجہ پر مرتب کی گئی ہے۔

تفقید عقلِ محض^۱ کے دوسرا سے اپیشن میں کائنات نے دعویٰ کیا آئیں نے فلسفے میں کو پر نیکی انقلاب بروہا کر دیا ہے۔ کائنات قدمائے یونان کی طرح عالم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ظاہری عالم اور باطنی عالم۔ وہ کہتا ہے کہ زمان مکان کا عالم جس سے سائنس اعتنا کر قریبی ہے حقیقی نہیں ہے بلکہ محض ظاہر پر مشتمل ہے۔ یہ عالم ہمارے ذہن اور حواس سے باہر موجود نہیں ہے نہ اسے حقیقت نفس الامری^۲ کہا جا سکتا ہے۔ حقیقی عالم وہ ہے جس میں حقیقت نفس الامر موجود ہو۔ ہم نہ تو اسے جان سکتے ہیں اور نہ آسے ثابت ہی کر سکتے ہیں۔ سائنس کا تعلق ظاہری علم سے ہے اور مذہب حقیقی عالم سے واسطہ رکھتا ہے۔ اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ہم حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم آسے جاننے کی کوشش کریں گے تو لا محالہ تضادات کے شکار ہو جانیں گے کیونکہ ہماری رسانی صرف ظاہری عالم تک محدود ہے۔ مذہبی شعائر و عقاید کے اثبات کے لیے وہ اخلاقی وجدان کو ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم عقلی استدلال سے وجود باری۔ بنائے روح اور قدر و اختیار کو ثابت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آس نے ایک ایک کر کے آن تمام دلائل کا تجزیہ کیا ہے جو متکلمین اثبات وجود باری کے لیے پیش کرتے رہے ہیں اور تمام کو بودا قرار دیا ہے۔ اس لیے کائنات کو علم کلام کا مخالف بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذات خدا وندی۔ قدر و اختیار اور بنائے روح بے شک صداقتیں ہیں لیکن عقل استدلالی ہمیں ان کا یقین نہیں دلا سکتی۔ ان کا یقین پسیں عقلِ علی سے ہوتا ہے جو اخلاقی وجدان کا دوسرا قام ہے۔ اس طرح کائنات بھی افلاطون کی طرح سائنسی علوم اور ان سے بالاتر فلسفیانہ اہمیت میں حد فاصل قائم کرتا ہے۔ کائنات میں عقل اور ارادے کے درمیان پوری ہوئی مفہومت نہیں کی جا سکی چنانچہ آس کی ذات سے دو تحریکیں آئیں (۱) جرمنوں کی عقلیاتی^۳ مثالیت جس کی رو سے خود شعور ذہن ہی حقیقت اولیٰ ہے (فتشٹر، شیلنگ) ہیکل) اس سے رجائی نقطہ نظر پیدا ہوا یعنی جو صحیح معنوں میں موجود ہے وہی خیر ہے۔ (۲) ارادتیت: جس کی رو سے کائنات پر ایک اندھا ارادہ مسلط ہے۔ اس

کا سب سے مشہور شارح شوبنھائیر تھا جس نے کہا کہ انسان عالمی ارادے کے پاتھوں میں یہے جان کھلوئے کی مانند ہیں۔ یہ نقطہ نظر جبری اور قنوطی ہے۔ اخلاقیات میں کائنث قدر و اختیار کا قائل ہے جس سے وہ تمام مذہبی عقاید کا جواز بھی پیش کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کسی کام کا واجب ہونا قرار ہانے تو اسی وجوب میں اختیار کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ اس نے رواثتیں کی طرح "فرض برائے فرض" کا کڑا نصب العین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ فرض کی ادائیگی ہی حسن اخلاق ہے خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اس کی اخلاقیات میں "حکم قاطع" کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تصور آمن کے خیال میں انسان تجربے یا مشاہدے سے علیحدہ مستقل مقام رکھتا ہے۔ قدر و اختیار پر بحث کرنے ہوئے اس نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں ہو گا اسے اخلاقی عامل نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ وہ آزادی سے خیر کا انتخاب نہیں کرتا۔ اخلاق عامل کے لیے مختار ہونا لازم ہے۔

کائنث جرمتوں کی فلسفیانہ رومانیت کا باب ہے اور جرمن رومانیت پسند بقول برٹر نرسرل روسو کے روحانی بھی ہیں۔ فلسفے میں رومانیت کائنث کی ذات کے ساتھ داخل ہوئی اور ادب و شعر میں لستک اور ہرڈر سے ہوئی ہوئی گونئی اور شلر بر منہتھی ہوئی۔ شلر نے روسو کی مدح میں ایک نظم بھی لکھی تھی رومانیت نے جرمتوں کے ادب کی طرح آن کے فلسفے پر بھی گھرے اثرات بث کیے۔ یہ اثرات فشنٹے اور شیلنگ میں زیادہ تکمیل ہو گئے ہیں۔ جرمتوں کے روانی فلسفے میں مادے کے بجائے ذہن پر اور معروض کے بجائے موضوع پر زور دیا گیا اور اس میں اس قدر غلو کیا گیا کہ جرمن مثالیت پسند کہنے لگے کہ صرف ذہن ہی موجود ہے اور ذہن ہی مادے کا خالق ہی ہے۔ اس طرح نیکارٹ کے ساتھ فلسفے میں جس موضوعیت کا آغاز ہوا تھا وہ فشنٹے اور بیگل میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔

کائنث کے فلسفے کو ماورائی^۲ مثالیت کہا جاتا ہے۔ وہ خود اسے تنقیدی فلسفہ کہا کرتا تھا۔ منطقی لحاظ سے کائنث نے "تنقید عقلی شخص" میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ موضوعی مثالیت کا ہے۔ کائنث مثالیت پسند ہے کیونکہ:

- (۱) کائنث افلاطون کی طرح عالم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے عالم ظواہراً اور عالم باطن۔
- (۲) کائنث کا عقیدہ ہے کہ باطن تک حواس اور عقلی استدلالی کی رسائی نہیں پو سکتی۔ افلاطون کے خیال میں صرف عقلی استدلالی ہی حقیقی عالم کو پا سکتی ہے۔

- Agent (۴)

- Categorical Imperative (۱)

- Transcendental Idealism (-)

- Noumenal (۵)

- Phenomenal (-)

(۲) کانٹ نے ڈیکارٹ کی طرح موضوع پر زور دیا ہے۔ اُس نے زمان و مکان کے معروضی وجود سے بھی انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کا الحصار ذہن پر ہے۔

(۳) کانٹ کائنات کو بامعنی اور بامتصد سمجھتا ہے اُس کے خیال میں انسان آرزوؤں اور آمنگوں کا جواز موجود ہے۔ اُس طرح اُس نے میکانگت کے خلاف مقصدیت کا پھلو اختیار کیا ہے۔ اُس کے بقول فلسفے کے موضوع دو یعنی ”اوپر تاروں بہرا آسمان اور انسان کے باطن میں قانون اخلاق“۔

(۴) کانٹ کے آرٹ اور حسن کے نظریے کے مطابق حسن و جہل حستی لذات کی تخلیق نہیں ہے جیسا کہ ہوم نے کہا ہے بلکہ حسن و جہل کا تعلق وجودان سے ہے جو حسیات سے علیحدہ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے۔

(۵) انسان ذہن خیالات و افکار کا خالق ہے۔

(۶) سائنس دان کے طرز فکر اور فلسفی کی بصیرت میں فرق ہے۔

کانٹ کا نظریہ مثالیات ہے لیکن اُس میں تجربیت۔ ارادیت۔ لا ادریت اور موجودہت کے رجحانات بھی ملتے ہیں جنہوں نے بعد میں مستقل مکاتب فکر کی صورت اختیار کر لی تھی عام طور سے کانٹ کو دور جدید کا عظیم ترین فلسفی سمجھا جانا ہے۔ لیکن برٹوندرسل آسے محسن ایک ”بد قسمتی“ قرار دیتے ہیں جس کے باعث دنیا نے فلسفہ میں باطنیت اور انتشار فکر نے بار پایا۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بلند پایہ فلسفی ہے جو اپنی تمام کوتاپوں کے باوجود ڈرف یعنی اور جودت فکر کی دولت سے ملا مال تھا۔ جدید فلسفیانہ تحریکوں میں پر کہیں اُس کے اثرات کا کھوچ ملتا ہے۔

کانٹ کے متین فتشی۔ شینلگ اور پیگل نے کہا کہ کانٹ کی لا ادریت سے فلسفیانہ تحقیق کے تقاضی پورے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کانٹ کی ظاہر اور باطن کی دو فی کو رد کر دیا اور اس نظریے سے بھی قطع نظر کر لی کہ انسانی علم محدود محسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت کامل اکمل منظم وحدت ہے جس کا ادراک صرف عقل ہی کر سکتی ہے انہوں نے فکر کے ”منظالم کل“ اور ”حقیقت کبریٰ“ کو واحد الاصل قرار دیا جسے وہ روح مطلق۔ عین مطلق۔ وجود مطلق اور خدا کہنے لگئے۔ فتشی کا وجود مطلق اخلاق ہے شینلگ کا جالیات ہے پیگل کا عقلیات ہے۔ ان فلاسفہ میں اختلافات کے باوجود اساسی طور پر فکری اتحاد موجود ہے یعنی فلسفیانہ وحدت وجود ان سب میں قادر مشترک ہے۔

یونا گوٹ لیب فتشی ۱۹۰۷ء کو ایک غریب کے ان کے گھر پیدا ہوا۔ حافظہ بلا کا پایا تھا اور نہایت ذہنیت تھا۔ پس رئیس نے اس کی شکاوت سے مبتلى ہو کر آسے متبنی بنایا اور اعلانی تعلیم دلوں۔ فتشی نے جینا میں فلسفے اور دینیات کی تحصیل کی۔ اُس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ پادری بن جائے لیکن اُس نے انکار کر دیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر آسے شادی کر لی اور زیورج میں درس دینے لگا۔ فتشی

نے کانٹ کی تصانیف کا نظری خانہ سے مطالعہ کیا تھا اور ان سے بڑا متأثر ہوا تھا۔ ۱۹۴۶ء میں چینا میں پروفیسر مقرر ہوا۔ اسی یونیورسٹی میں آس نے اپنا خاص فلسفہ مرتب کیا جسے 'فلسفہ خودی' کہا جاتا ہے۔

فشنے نے وجود مطلق کو خودی کا نام دیا اور کہا کہ خودی یا 'اٹانے کبیر' غیر شخصی آفاقی آزاد فعالیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں صرف خودی ہی موجود ہے اس کے مساوا کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ ایک دن اس مطلق خودی نے اپنے باطن میں ٹھوکا سا محسوس کیا جس کے نتیجے میں 'نا خودی' کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد اس سے مادی اشیاء متغیر ہوئیں۔ فشنے اس مطلق خودی اور خدا کو متراوٹ سانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خودی تخلیق اصول ہے۔ خودی اپنے راستے میں رکائیں لائی ہے تاکہ ان کے خلاف کشمکش کر کے اپنی تکمیل کر سکے۔ عالم مادی مطلق خودی کے لیے ایک اکھارے کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کشمکش کر کے وہ اپنے آپ کا شعور حاصل کرنی ہے۔ ازلی وابدی خودی مطلق یا خدا نے عالم مادی یا ناخودی کو اپنے راستے میں مزاحم بنایا ہے۔ یہ نقطہ نظر موضوعی مثالیت کی آخری انتہا ہے کیون کہ اس کی رو سے کائنات میں مادے کا کوئی وجود نہیں ہے اور شے ذہن ہے روح ہے۔ فشنے نے کانٹ کی مادے اور ذہن کی دو فی سے انکار کیا۔ کائنات سے مادے کو بکسر خارج کر دیا اور دعویٰ کیا کہ ہر شے ذہن ہے روح ہے۔ عالم صرف ظاہری طور پر مادی معلوم ہوتا ہے۔ کائنات فی الحقیقت ذہن ہے خودی ہے۔ خدا ہے۔ فشنے کے نظریے میں انسان کی خودی بھی مطلق خودی کا جزو ہے اور قابلِ اختار ہے۔ فشنے روح یا خودی کی بقا کا قائل ہے لیکن کہتا ہے کہ ناخودی یا مادی رکاوتوں کے خلاف کشمکش کر کے ہی انفرادی خودی غیر قابل ہو سکتی ہے۔ سیدم دی سیل نے فشنے کی موضوعی مثالیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ مزاحاً کہا تھا "اس بات کا تو فشنے کو بھی شب ہوا ہوگا کہ اس کی بیوی محض اس کے ذہن کی بیداوار نہیں"۔

فشنے کی خودی عقلیات نہیں بلکہ فعال اور تخلیقی مرکزِ قوت ہے۔ خودی کا اظہار آس و توت ہوتا ہے جب انسان نیجر یا ناخودی کی مختلف قوتوں سے نبرد آزما ہوتا ہے اس معارضے میں انسان پر اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے جس کی ادائیگی میں وہ فاعلِ اختار ہے۔ وہ خودی کو سلبیہ سبب و مسبب میں مقید نہیں مانتا بلکہ اسے آزاد فعالیتِ تسلیم کرتا ہے۔ انسان خودی مادی واقعات کے سلسلے کی ایک کڑی نہیں بلکہ اپنے مقدر کی تشكیل میں آزاد ہے۔ فشنے کا یہ نظریہ کشمکش اور عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ہرے بان اقبال نے فشنے کے نظریہ خودی کو اسلامی قالب میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ مشتوف اسرار و رموز میں خودی پر جو بحث موجود ہے وہ فشنے ہی سے مأخوذه ہے۔

کلاسیک جرمن فلسفے کا دوسرا مفکر فریڈرش ولہلم جوزف شیلنگ جرمن نلسفیانہ رومانیت کا صحیح نامانندہ ہے۔ ۲۵ - جنوری ۱۸۰۵ء کو لیون برگ میں بیدا ہوا طالب علمی کے زمانے میں انقلاب فرانس سے متاثر ہو کر انقلاب پسندوں کے جنگ ترائے مارسلز کا ترجمہ کیا جس سے ڈیوک خدا ہو گیا۔ شیلنگ نے کانٹ نشترے اور سینوزا کی کتابیں خاص توجہ سے پڑھی تھیں۔ وہ طبیعی علوم سے بھی واقف تھا۔ آس کی عمر کا بیشتر حصہ روساء کے بھوپولی میں گزارا۔ آمن زمانے میں جیتنا تحریک رومانیت کا مرکز تھا۔ یہاں شیلکل اور فشنے میں کھرے مراسم قائم ہو گئے۔

وجود مطلق فشنے کے لیے اخلاق ہے اور شیلنگ کے لیے جماليات ہے۔ آس کی تعلیم یہ تھی کہ کائنات ایک فن پارہ ہے جسے ایک عظیم فن کارنے خلائق کیا ہے۔ یہی نقطہ نظر لیسنگ۔ برڈ اور گونٹے جیسے رومانیوں کا بھوپولی تھا۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ شیلنگ مثالیت اور وحدت وجود کی طرف مائل ہو گیا۔ آس کے خیال میں نیچر مرفی و محسوس روح ہے اور روح غیر مرافق نیچر ہے۔ اس خیال سے بعد کے رومانی شاعروں نے فیضان حاصل کیا اور انہوں نے عالم اور نیچر کو حیات اور ذہن سے متصف کر دیا اور پھر آس سے قلبی رابطہ بیدا کرنے کی دعوت دی۔ وردی و راتھ کی شاعری اسی عقیدے کی صدائے باز گشت ہے۔ شیلنگ نے خود یہی فطرت کو عظیم نظام کھا ہے۔ اواخر عمر میں وہ تصوف کی جانب مائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ روح اپنی ذات سے آزاد ہو کر وجود مطلق میں فنا ہو جائے ہے۔

بیگل کے فلسفے میں جرمن کلاسیکی مثالیت نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ جارج ولیم فریڈرک بیگل ۲۰ اگست ۱۸۰۰ء کو مشٹ گارٹ میں بیدا ہوا۔ آس نے ٹوبنگن میں دینیات کی تھصیل کی۔ آس زمانے میں شیلنگ بھی ویبان پڑھتا تھا۔ بیگل نے فلسفے اور طبیعیات کا بھی خائز نظر سے مطالعہ کیا۔ آس زمانے میں وہ کانٹ اور روس سے خاص طور پر متاثر ہوا۔ ۱۸۰۰ء اور ۱۸۰۶ء کے درمیان وہ فرینک فرٹ میں بیعتیت ایک اتالیق مقیم رہا اور یہی آس کا ذاتی فلسفہ، صورت پذیر ہوا۔ کچھ عرصے تک بیگل اور شیلنگ ایک رسالہ بھی نکالتے رہے۔

اوائل عمر میں بیگل تصوف کی طرف مائل تھا جس سے آس نے یہ عقیدہ اخت کیا تھا کہ وجود مطلق سے کسی شے کے علیحدہ ہونے کا تصویر غیر حقیقی ہے۔ اور مساواتی 'اک' کے کوئی شے حقیقی نہیں ہو سکتی۔ البتہ پارمی نائیتس اور سینوزا سے بیگل اس بات میں اختلاف کرتا ہے کہ 'اک' کوئی جوہر واحد ہے۔ وہ 'اک' کو عضویاتی نظام سمجھتا ہے۔ 'اک' کو عین مطلق کا نام دیتا ہے اور کہتا کہ یہ روحانی ہے۔ آس کے خیال میں کوئی شے حقیقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس عین مطلق یا حقیقت دبری سے عضویاتی نسبت نہ رکھتی ہو۔ کیوں کہ صرف 'اک' یا عین مطلق بھی حقیقی ہے۔ تنوع۔ کثرت اور انفرادیت سے غیر حقیقی ہیں۔ فلسفہ کے لیے صفات 'اک' ہے۔ توفی جزوی شے صفات نہیں رکھ سکتی۔ بیگل کا عین

مطلق، ازی، ابدی اور اکمل ہے جس میں عالم کی کام متضاد قویں آوفیق و اتحاد حاصل کر لیتی ہیں۔

ہیگل کے نظریے میں نیجر اور ذہن یا عقل ایک بین الہند وہ نیجر کو عقل کے تحت رکھتا ہے۔ اس کے خیال میں کام وجود اور عقل متحد الصل بین۔ جو عمل عقل میں ہے وہی عمل نیجر میں بھی ہو کہیں کارفرما ہے اس لیے جو کچھ بھی حقیقی ہے، عقلیاتی ہے اور جو کچھ بھی عقلیاتی ہے حقیقی ہے۔ نیجر اور تاریخ دونوں میں منطق موجود ہے اور کائنات بنیادی طور پر ایک منطقی نظام ہے۔ وجود مطلق بذات خود عقلیاتی ہے۔ وہ منزل جس کی طرف مطلق وجود روان دوان ہے خود شعوری ہے۔ کام عمل کا معنی ایسے ذہن کا حصول ہے جو کائنات کے معنی و مقصد کو سمجھتا ہو۔ اور کائنات مقصد کے ساتھ اپ کو متحد کر سکے۔ ہیگل کے خیال میں فلسفے کا منصب ہی یہ ہے کہ نیجر کو سمجھا جائے اور اس میں عقل استدلالی کا کھوج لکایا جائے۔ کیوں کہ عالم کے کام اہال عقلیاتی بین۔ سیاروں کا نظام عقلیاتی ہے۔ حقیقت بنیادی طور پر عقلیاتی ہے منطقی عمل ہے اس لیے اس کا ادراک صرف فکر ہی سے ہو سکتا ہے۔ عالم جامد نہیں حرکی ہے اسی طرح فکر اور عقل بھی حرکی ہے۔

ہیگل نے کانٹ - فنشٹے اور شیلنگ کے نظریات کو فکری وحدت دینے کی کوشش کی اور کہا کہ کائنات ذہن کا ارتقاء ہے۔ نیجر سے عین مطلق یا خدا کی طرف عالم طبیعی کا اور ذہن انسانی میں پر جگہ تدریجی انکشاف کا عمل جاری ہے جسے آمن نے جدیاتی یا اصول تضاد کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرشے اپنی خد کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ کائنات ایک گل ہے جس میں عقلیاتی اصول کار فرما ہے۔ اس گل میں جو ارتقاء ہو رہا ہے جدیاتی عمل سے ہو رہا ہے۔ پہلے ہم ایک شے کا انکشاف کرنے میں جسے مشتبہ کہا جائے گا۔ پھر ہم اس کی خدمعلوم کرنے بھی یعنی نقی۔ ان دونوں کا اتحاد عمل میں آتا ہے جو بذات خود مشتبہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل اسی طرح جاری رہتا ہے۔ جدیات کا یہ عمل فکری ہے کیوں کہ کائنات فکر ہے اور فکر ہی کے قوانین کے تابع ہے جس طرح ہم فکر کرتے یہ اسی طرح کائنات کا ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ کام عمل ایک فکری گل ہے جس میں نیجر اور انسان ایک بین۔ جو عمل انسانی ذہن میں ہوتا ہے وہی نیجر میں بھی پایا جانا ہے۔ نیجر میں یہ عمل لاشعوری ہوتا ہے جیسا کہ پودے کا پھول لانا۔ انسان میں یہ عمل شعوری ہوتا ہے اور انسان جانتا ہے کہ وہ ارتقاء پذیر ہے۔ بھی عمل ارتقاء پر کہوں جاری ہے۔ ہیگل کے ہاں کائنات 'گل' ہے جو ایک فکری عمل ہے اور ایسے میں ارتقاء پذیر ہے جیسے کہ فکر کا ارتقاء ہوتا ہے۔ یعنی مشتبہ۔ منقی اور تحاد۔ یہ ایسی مثالیت ہے جو منطق کی آخری انتہا تک پہنچ گئی ہے۔

ہیگل کہتا ہے کہ کائنات ارتقاء کا عمل ہے جس میں عین مطلق جو ازل میں
مخفی طور پر موجود تھا بالآخر صورت پذیر ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں خدا کائنات
کی زندہ تحرک عقل ہے جو انسان میں باشعور ہو گئی ہے لہے کائنات مکمل طور
ہر انسان ذہن میں منتسلک ہو گئی۔ با شعور فرد کائنات کا مکمل تربیت انکشاف ہے۔
اس نظریہ کی رو سے ذہن ارتقاء کے تین مرافق سے گزرتا ہے۔ موضوعی ذہن۔
معروضی ذہن اور ذہن مطلق۔ موضوعی ذہن کا اختصار روح کی حیثیت سے نیجر ہر ہے۔
شعور کی حیثیت سے اور روح کی حیثیت سے نیجر کے ساتھ مقابلاً
کہیے ہوئے ہے۔ اپنی بلندترین صورت میں ذہن عالم کا خلق ہے۔ ہیگل کہتا ہے
کہ ذہن مادی دنیا کا خالق ہے اس ایسے ذہن اور مادی دنیا میں ایک ہی جیسے جدیاں
اصول کار فرمائیں۔ ذہن تمام کائنات میں عمل تخلیق کر رہا ہے اور اشیاء اور اروں
میں اپنے آپ کو صورت پذیر کر رہا ہے۔

ہیگل کا خدا ناقص اور ارتقاء پذیر ہے۔ وہ خدا کیوں عین کہتا ہے۔ جدیاں
عمل جو ارتقاء پذیر ہے خدا ہی کے بطور میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ خدا دنیا کی
تخلیقی عقل ہے۔ یہ عین یا خدا جب صورت پذیر ہو تو اسے ذہن یا روح کہا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بحیثیت عین ہونے کے خدا تحقیق و تکوین سے پہلے بھی
موجود تھا۔ ہیگل کہتا ہے کہ عالم ازل سے موجود ہے۔ خدا عالم کی زندہ حری
عقل استدلالی ہے جو اپنے آپ کو کائنات میں۔ نیجر میں تاریخ میں منکشف کر رہی
ہے۔ نیجر اور تاریخ خدا کی خود شعوری میں ارتقاء کے لازمی مرافق ہیں۔ نیجر اپک
مرحلہ ہے جس میں منطقی خیال اپنے ارتقاء میں ذہن یا روح میں منتقل ہو جاتا ہے یا
آنکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ارتقاء کے جدیاں مرافق سے گزر کر ذہن اپنے آپ
کو منکشف کرتا ہے۔

عقل آفاق یا عین مطلق نہ صرف نیجر اور افراد میں اپنا اظہار کر رہے بلکہ
انسان اداروں اور تاریخ۔ اخلاق اور ضمیر اور رسم و رواج میں بھی اپنے آپ کا اظہار
کرتی ہے۔ اس صورت میں اسے معروضی ذہن کہا جاتا ہے۔ منطقی فکر کے ارتقاء کا
بلند ترین مرحلہ ذہن مطلق کا ہے جس کا کام ہے نیجر میں اپنے آپ کا اظہار کرنا
اور جو آزاد اور لاحدود روح ہے۔ ذہن مطلق تین مرحلے سے گزرتا ہے اور اپنے
آپ کو بتدریج آرٹ۔ مذہب اور فلسفہ میں منکشف کرنا ہے۔ وہ آرٹ میں وجودی
بن کر مذہب میں تختیلی بن کر اور نسلی میں خالص منصف نکر کی صورت میں ظاہر
ہوتا ہے۔

ہیگل کی مابعدالطبيعتیات نے قدرتاً اس کے سیاسی اور نئی نظریات کیوں متأثر کیا۔
وہ کہتا ہے کہ ایک عالمی روح تہدن کے عملی ارتقاء کی صدایت کر رہی ہے اور
مختلف اقوام کو آئندہ کار بناق رہتی ہے۔ مصربوں۔ عربیوں۔ یونانیوں اور رومیوں
کو بکر بعد دیگرنے اپنا ترجمان بنا کر اب اس نے جرمنوں کو منتخب کر لیا ہے
جن کے باطنوں میں آج کل مقدیر انسانی کی ہاگ ڈور ہے۔ جو نوم عالمی روح کی ترجمان

با آنہ کار بنتی ہے آئے امن بات کا حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ دوسری اقوام بر حکمرانی کرے۔ جو بھی قوم اس بر کنیدہ ملت کا مقابلہ کرے گی تباہ ہو جائے گی۔ کارل مارکس نے پیگل کے فلسفہ تاریخ اور جدالیات سے استفادہ کیا لیکن ان میں ہے ترمیم کی کہ عالمی روح کا مقام جدلی مادیت کو دے دیا اور اقوام کی کشمکش اور اضداد کی پہکار کو طبقات معاشرہ کی کشمکش میں منتقل کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں مارکس کے خیال میں پہلے اشرافیہ ترق کے علم بردار تھے۔ انقلاب فرانس کے بعد ہے کام بورزاو نے سبھاں لیا۔ اشتالی انقلاب کے بعد ہے فرض پرولتاریوں کے سپرد ہوا ہے۔ کویا اشرافیہ اور بورزاو کی کشمکش اب بورزاو اور پرولتاریوں کی آوبیش میں بدل گئی ہے۔

پیگل نے اپنے فلسفے میں جرمنوں کے نسلی تنقیق اور جرمن حکومت کے استبداد کا جواز پیش کیا ہے۔ اس کے نظام فکر میں جزا غیر حقیقی ہے اور اپنے وجود کے لیے "راسر کل" پر منحصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملکت ایک کل کا درجہ رکھتی ہے جس میں فرد کا وجود غیر حقیقی ہے۔ فرد اس کل کی نسبت اور رعایت ہی سے اپنا وجود رکھتا ہے۔ ملکت سے علیحدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افراد ملکت کے لیے یہی ملکت افراد کے لیے موجود نہیں ہے۔ فرد کی آزادی کا مفہوم سوانح اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ ملکت کے قوانین کی پروپری کرتا رہے۔

شوپنہائیر اور پیگل کاٹ کے اصول فکر سے منحرف ہو گئے تو بعض فلاسفہ نے نعرہ لکھا کہ "کائنات کی طرف واپس لوٹ جاؤ"۔ انہوں نے فشنی اور پیگل کی مابعد الطبعات کو رد کر دیا۔ ان مفکرین میں روڈلف برمن لوٹز سے قابل ذکر ہے۔ ۲۱ - مئی ۱۸۱۷ء میں بونز میں پیدا ہوا۔ اس نے وائسرے سے فلسفہ پڑھا۔ اس نے ایک ہی برس میں فلسفے اور طب کی اعلیٰ متینی حاصل کیں اور فلسفے کا پروفیسر بن کر بھی طب کا درس دیتا رہا۔ لوٹز سے بظاہر فلسفی اور بیاطن فن کار اور شاعر تھا وہ مذہب میں شخصی خدا کا قائل تھا اور فلسفے میں خائیت کا ترجمان تھا۔ سائنس میں وہ اپنے آپ کو تجزیت پسند کہتا تھا۔ ہمارے زمانے میں ایوکن نے جرمن مثالیت کے احیاء کی کوشش کی ہے۔

کلاسیکی جرمن مثالیت کے اساسی افکار درج ذیل ہیں۔

۱- صرف ذہن بی موجود ہے۔

۲- صرف ذہن ہی حقیقی ہے۔

۳- ذہن مادی کائنات کا خالق ہے۔ یہ عقیدہ انتہائی موضوعیت کا ہے۔

۴- جیسا ذہن انسان ہے ویسی ہی کائنات بھی ہے اس لیے کائنات کی ترجیح ذہن انسانی کی رعایت سے کرنا ضروری ہے۔

۵- ذہن کسی نہ کسی صورت میں فطری مظاہر میں طاری و ساری ہے۔

۶۔ کائنات ایک عظیم ذات ہے ۔

۷۔ کائنات بامعنی ہے ۔ اس میں ایسے معانی ہیں جو معروضی ہیں اور جن کا انکشاف ہم کر سکتے ہیں ۔ اگر کائنات میں معروضی معانی ہیں تو حقیقت کی تھی میں کسی نہ کسی نوع کی ذہنی حیات کو مانتا پڑے گا ۔ جو من مثالیت پسندوں کا یہی ادعا ہے ۔

۸۔ کائنات با معنی ہے اس لیے انسان کے لیے اجنبی یا بیکانہ نہیں ہے ۔

ہیگل کے نظریات کے خلاف شدید رد عمل ہوا جس نے مستقل فکری تحریکوں کی صورت اختیار کر لی ۔ سیکریک گرد ۔ فوڈر پاخ ۔ بر بارٹ ۔ ولیم جیمز ۔ کارل مارکس کے لفظے اس رد عمل کی مختلف صورتیں ہیں جن کا ذکر آگئے آئے گا ۔ ہیگل کے پیروؤں نے اس کے انکار کی نئے سرے سے ترجیحی کر کے مثالیت پسندی کا مقام بحال کرنے کی کوشش کی ۔ ان میں بریڈلے ۔ بوزنکوٹے ۔ رائنس ۔ جنٹلے اور کروچے قابل ذکر ہیں ۔ امن نظر پر برصاد کرنے ہیں کہ کائنات کی کنندگی کو سمجھنے کے لیے فکری تضاد ہے پہلو بچانا ضروری ہے ۔ وہ کائنات کو ایک مربوط نظام مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امن کے ربط و تسلیل کی نیشن دہی کرنا فلسفے کا سب سے اہم منصب ہے ۔ بوزنکوٹے حقیقت کبریٰ کو ایک پہم گیر عقلیاتی انفرادی تجربہ قرار دیتا ہے جس میں آفاقیت اور انفرادیت کا اتحاد عمل میں آیا ہے ۔ بریڈلے کہتا ہے کہ شعوری تجربہ ہی حقیقت ہے جو یہ نہیں وہ غیر حقیقی ہے ۔ اس کے خیال میں وجود مطلق انسان میں ظاہر ہو کر خود شعور ہو گیا ہے ۔ جہادات ۔ نیباتات اور حیوانات میں اُسے اپنی ذات کا شعور نہیں تھا ۔ بریڈلے اور اس کے ہم خیال کہتے ہیں کہ خارجی عالم تجربہ ہے لیکن کس کا تجربہ ہے اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی فرد کا تجربہ نہیں ہے بلکہ وجود مطلق کا تجربہ ہے ۔ اس لیے اُن کے نظرے کو "مطلقیت" یعنی کہا جاتا ہے ۔ بریڈلے کا وجود مطلق حیات اور حرکت سے معاً ہے ۔ وہ حقیقت کبریٰ کو واحد اور غیر متغیر مانتا ہے اور کہتا ہے حقیقت کا معیار ہے کہ وہ تضاد سے بڑی ہو ۔ مطلقیت پسندوں کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عالم ظواہر کے پیچھے ایک اور ہائی موجود ہے جو زیادہ حقیقی اور روحانی ہے ۔ بریڈلے کو جدید فلسفے کا زینو کہا گیا ہے ۔ اس کی مشہور تالیف "ظاہر و حقیقت" منطقی جو دل فکری ایک عمدہ مثال ہے ۔ وہ جو من مثالیت پسندوں سے اس بارے میں اتفاق کرتا ہے کہ ما بعد الطبیعتیات ظواہر کے پیچھے عالم حقیقت کی جستجو کا نام ہے ۔ یا اصول اول اور حقیقت کبریٰ کا مطالعہ ہے یا کائنات کی نیتیت "گل" کے ترجیح کا نام ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ظاہر حقیقی نہیں ہے تاہم اسے حقیقت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ۔ حقیقت کیا ہے ۔ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ حقیقت ایک "مربوط گل" ہے جس کا علم نہیں

ہے۔ اسے وہ "مطلق" کا نام دیتا ہے جو شخصی نہیں بلکہ ماؤڑائے شخصی ہے۔ امریکہ میں رائنس نے اس نظریے کی اثافت کی۔ میکلن کارٹ پیکل کا بیرو تھا۔ وہ ذات^۱ کی حقیقت کا اثبات کرتا ہے اس لیے روح کی بنا کا قائل ہے۔ بعد میں وہ لائب نیٹز کی روحیتی کثرت پسندی کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ روح کی بنا کا قائل ہونے کا باوجود شخصی خدا کا منکر ہے۔

برینڈلے^۲ بوزنکوئے اور آن کے ۴۶ خیال اس مفہوم میں مثالیت پسند ہیں کہ آن کے خیال میں حقیقت کبریٰ مادہ نہیں ہے بلکہ ذہن ہے۔ برینڈلے کے نظریات سے اطالوی نو مثالیت پسند جنٹلے اور کروچے متاثر ہوئے تھے۔

کروچے اور جنٹلے کی نو مثالیت پسندی فلسفہ پیکل ہی کے ایک پہلوی ترقی یافتہ صورت ہے۔ پیکل کے دو اہم نظریات آس کے خیال میں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے پس اگرچہ آس کے معتبرین کی رائے میں وہ ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ (۱) فکر ایک نہوں زندہ حقیقت ہے کیونکہ اس کی مدد سے حقیقت کبریٰ کا کھوچ لکایا جا سکتا ہے۔ (۲) بہاری فکر کے پیچھے ایک کلکی نہوں خیال کی وحدت ہے جس کی رعایت سے انفرادی تجربہ قابل فہم ہے اور حقیقت بتتا ہے۔ فکر کی مکمل وحدت کی حقیقت کلکی کو پیکل نے "مطلق" کا نام دیا تھا۔ یہی خیال برینڈلے اور بوزنکوئے کے فلسفے کا مرکزوں مخور بن گیا۔ جنٹلے اور کروچے کے علیحدہ کسی شے کا وجود نہیں ہے حتیٰ کہ "مطلق" کا وجود بھی آس سے الگ نہیں ہے۔ کروچے نے مادے کے وجود سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ذہن یا روح ہی حقیقت واحد ہے جس کے علاوہ کوئی بھی شے حقیقی نہیں ہے۔ حقیقت جو صورت بھی اختیار کرے گی وہ لازماً ذہنی یا روحانی ہوگی۔ ذہن تخلیقی ہے اور حقیقت کی ترجیح کرتا ہے۔ پہ کہنا کہ ذہن حقیقی ہے یہ کہنے کے برابر ہے کہ حقیقت تجربہ ہے فعلیت ہے جس کی صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اساسی طور پر وہ واحد الاصل ہیں۔ وہ کہنا ہے کہ حقیقت ایک نظام ہے "کل"^۳ ہے اور سراسر ذہنی ہے۔ موضوع اور معروض کا فرق ذہن کی پیداوار ہے۔ ذہن اپنے معروض خود تخلیق کرتا رہتا ہے۔ کروچے نے نظریات پہلو سے دنیا کو جیالیاتی سنتی حقیقت کہا ہے۔

کروچے ادراک^۴ کے عقدے سے چندان اعتنا نہیں کرتا۔ آس کے خیال میں ذہن اپنا مواد تھنٹال^۵ پیکروں اور روایات کی صورت میں پیدا کرتا ہے۔ اس فعل کو آس نے جیالیات^۶ فعلیت کا نام دیا ہے جو سراسر وجودی ہے۔ کروچے کے خیال میں نہان کی نظریاتی فعلیت دو گونہ ہے۔ وجودی اور عقلیاتی۔ آس نے وجودی پہلو ہی کو تفصیل سے موضوع بحث بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اظہار وجودی کا خاص ہے۔ جب

وجودان کا اظہار ایک سہنال پوکر میں ہوتا ہے تو وہ سہنال پوکر فن کار کا فعل بن جاتا ہے۔ آس کے جالیات نظریے کا اصل اصول یہ ہے کہ "حسن اطماد ہے"۔ جب ہم کسی فن ہمارے سے حظ اندوز ہونے پس تو درحقیقت اپنے ہی وجودان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کروچے تاریخ کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف فلاسفہ ہی تاریخ نکاری کر سکتے ہیں۔ جنتلے اور کروچے کے فلسفے میں مادی حقیقت کا خیال ہے معنی ہے کیونکہ حقیقت کا ادراک لامالہ کسی نہ کسی ذہن کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے جس میں اس حقیقت کی ترجیحی کی گئی ہو۔

جیسا کہ مادیت کے باب میں ذکر ہو چکا ہے طبیعتیات جدیدہ نے مادے اور ذین کے قدیم تصورات بدل دیے ہیں۔ مثالیت پسندی کے مختلف مکاتب کا جائزہ اپنے ہونے ہم نے دیکھا کہ ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ حقیقت اساسی طور پر ذہنی الاصل ہے اور انسان باشعور ہونے کے باعث کائنات میں مرکزی مقام کا مالک ہے۔ ہمارے زمانے میں مادے کے نہوں ہونے کے تصور کے باطل ہو جانے کے بعد بعض اہل عام نے یہ کہہ کر مثالیت کی تصدیق کی ہے کہ حقیقت اپنی مابیت میں موضوعی یا ذہنی ہے۔ دوسری طرف وہ سائنس دان اور فلاسفہ، جو منصب و سائنس کی تطبیق کے قائل نہیں ہیں جدید طبیعتیات کی مثالیاتی ترجیحی کو قابل قبول نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اس اکشاف سے کہ مادہ نہوں نہیں ہے بلکہ جوپری توانائی کی لہروں (برٹرنسڈرسل نے انہیں 'واقعات' کہا ہے) پر مشتمل ہے یہ لازم نہیں آتا کہ توانائی کی لہروں ذہنی یا روحانی ہوں کیونکہ تعبیرہ گاپوں میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ اس موضع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سی۔ ای۔ ایم جوڑ کہتے ہیں۔

"علمی طبیعتیات نے حال ہی میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کا رد عمل فلسفے کی دنیا میں بھی ہوا ہے۔ یہ رد عمل معاندانہ قسم کا ہے۔ جب سائنس دان ایسے مسائل میں دخل در معقول دینے لگیں جن کا تعلق پیدا شدہ فلسفے سے رہا ہے تو ان پر وہی غلطیاں کرنے کا الزام لگایا جائے گا جن کا ارتکاب خود فلاسفہ نے کیا تھا اور جن کی تردید تاریخ فلاسفہ کی تدریس کا اہم مقصد رہا ہے۔ جیمز جنیز اور انگلش کے مثالیاتی نظریے اسی نوع کے یہیں جو پہلے ہیوم اور بارکلے نے سترہوں اور انہارہوں صدیوں میں پیش کرے تھے اور جن کو رد کیا جا چکا ہے۔ یا جن کا منطقی صورت Solipsism پر منتظر ہوتا دکھایا جا چکا ہے (Solipsism کی رو سے متابدہ کرنے والا موضوع ہی حقیقتاً کائنات ہے) انگلش اور جنیز کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس انداز سے اپنے افکار پیش کر رہے ہیں جیسے کہ وہ حقیقت پسزوں کی اس تحریک سے مطلقاً ہے خبر ہوں جس کی تاسیس جی۔ ای۔ موز نے کی تھی اور جسے بعد میں صدی روان کے اوائل میں وٹ بیدا اور

بتر ندرسل نے بروان چڑھایا تھا۔“

(ہنارے فکر جدید)

جدید طبیعتیں نے مادے کے نہوں پونے کے تصور کا ابطال کر کے قدیم مادیت کی نئی کی ہے تو جدید بیٹت نے مثالیت پسندی کے اس روایتی نظریے کا خاتمہ کر دیا ہے کہ کائنات میں کوئی آفاق شعور یا ذہن کا فرما ہے۔ قدیم یونانیوں کی بیٹت کا مرکز انسان تھا۔ کوہر نیکس نے ثابت کر دکھایا کہ کرہ ارض جو انسان کا سکن ہے کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے۔ اس اکشاف سے انسان کے غرورِ نفس کو سخت نہیں لگی اور کائنات اسے ایک اجنبی دیس دکھائی دینے لگی جسے اس کے وجود اس کی آرزوؤں اور امنگوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ نفسیاتی دھمکا اتنا شدید تھا جیسا کہ اس شیر خوار بھی کا جسے ماں کی گود سے کھینچ کر زمین پر پشخ دیا جائے۔ چنانچہ امن ذہنی و جذباتی جراحت کے اندر مال کے لیے جرم رومانی فلسفہ مرتباً کیا گیا۔ اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ کائنات انسان کے ذہن کی تخلیق ہے یا انسان ذہن اور آفاق ذہن اصلاً ایک ہیں۔ اس طرح کویا انسان نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ پا لیا۔ لیکن جدید بیٹت نے جا۔ ہی اس خود فربی کا خاتمہ کر دیا۔ یونان قدیم کی میثت میں زمین کائنات کا مرکز تھی جس کے گرد آہان پیاز کے چھلکرے کی طرح تھے در تھے تنے ہوئے تھے۔ یہی بیٹت بظیموس اور ذہنشی کی کتابوں میں نظر آتی ہے۔ ذہنشی امن کائنات کا چکر چوپیں گھنٹوں میں ہوا کر لیتا ہے۔ مثالیت پسندی کا نظریہ اسی قدیم یونانی یا بظیموسی بیٹت سے واپس رہا ہے جس میں کائنات ذات انسانی سے ملتی جلتی ایک عظیم ذات ہے جو انسان ہی کی طرح با شعور ہے اور جس سے انسان شعوری و قلبی رشتہ استوار کر سکتا ہے۔ جدید بیٹت نے قدیم تصور کائنات کو جو مثالیت کی اساس اول ہے باغل قرار دیا ہے۔ رینیانی دور یعنیوں سے جو کائنات منکشف ہوئی ہے وہ بے کران ہے اور انسان کا ذہن اس کا احاطہ کرنے سے قادر ہے۔ جو ستارے ہم سے قریب ترین ہیں وہ بھی کئی روشنی کے سالوں کی مسافت پر واقع ہیں۔ یعنی روشنی ایک لاکھ چھیساں بزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہوئی کئی روشنی کے سالوں میں ہم تک پہنچتی ہے۔ آہان پر جو سفید سفید سے دھیئے دکھائی دیتے ہیں ان کی روشنی ایک ارب چالیس کروڑ سالوں میں زمیں تک پہنچی۔ جس کھکشاں کے نواحی میں ہم مقام ہیں اس میں تین لاکھ تین بزار ارب ستارے ہیں۔ اس کھکشاں جیسے تین کروڑ اور کھکشاں اب تک دور ہیں میں سے دیکھئے جا چکے ہیں۔ ابک کھکشاں سے دوسرا کھکشاں تک کی مسافت یہیں لاکھ روشنی کے سال ہے۔ ہم سے جو کھکشاں سب سے زیادہ دور ہے وہ ایک بزار لاکھ روشنی کے سالوں کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ سب کھکشاں انتہائی برق رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہٹنے جا رہے ہیں۔ غاہبر ہے نہ اس سے لڑان کائنات کو ایک نئی منی سے زے کی سمجھی میں معموق سے دیا ڈائچسپی بو سکتی ہے۔ یاد رہے نہ ما قبل تاریخ کے انسان نے سورج چاند وغیرہ کو اپنے آپ پر قیاس کر کے انہیں ذی حیات و ذی شعور

قرار دیتا تھا اور دیوتا بنا لیا تھا جو آس کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ اس کوشش نے علم اصنام کی بنیاد رکھی جو قدیم مذاہب کا ماندžین گیا۔ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ علم اصنام کا خاکہ ہو گیا تو انسان نے مثالیت اور رومانیت کے نظریات سے کائنات اور زیور کے ساتھ اپنا شعوری اور جذباتی رشتہ بحال کرنے کی کوشش کی۔ مثالیت پسندوں نے کہا کہ کائنات با شعور ہے اس لیے آس کے ساتھ انسان کا شعوری رابطہ قائم ہے۔ رومانیوں نے کہا فطرت زندہ ہے ذی احساس ہے اس لیے انسان اس سے جذباتی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ہمارے دور کے مثالیت پسندوں نے توانائی کی لہروں کو روحانی اور ذہنی کہنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ انسان کے قلبی تعلق کو برقرار رکھا جا سکے۔ جدید پیشہ کے اکتشافات کے پیش نظر اس بات کو تسلیم کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ یہ کہاں کائنات انسانی ذہن کی پیداوار ہے یا اس کے پس پردہ کوئی ذہن یا موضوع کارفرما ہے جو انسانی موضوع یا ذہن سے واحد الاصل ہے۔ اس طرح علم پیشہ کی ترقی کے ساتھ مثالیات مابعد الطبيعیات فرسودہ ہو چکی ہے لیکن اخلاق مثالیت بلاشبہ باقی و برقرار ہے۔ سائنس خواہ کتنی ترقی کر جائے قدریں اور نصب العین اس کے دائرہ تحقیق سے خارج ہیں ریس گے اور ان کی ترجیح کا حق فلاسفہ کو پہنچتا رہے گا۔ اتنا ضرور ہے کہ یہ قدریں اور نصب العین سائنس کے اکتشافات کی روشنی میں معاشرہ انسانی کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلنے رہیں گے کہ ان کی ازلیت و ابیدت کا تصور مثالیات مابعد الطبيعیات کے ساتھ دم توڑ چکا ہے۔

یہ ایک تلغیح حقیقت ہے جس کا اعتراف کہے بغیر چارہ نہیں کہ مثالیات مابعد الطبيعیات کے خاتمے سے انسان کا قلبی رشتہ کائنات سے منقطع ہو چکا ہے اور وہ انہیں اپ کو تنہا محسوس کرنے لگا ہے۔ سارتر کا نظریہ موجودیت اسی عذاب ناک انسان تنهائی کی ترجیح کرتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ذہنی و جذباتی صلحی کا نتیجہ سنک اور یاست ہی کی صورت میں نکلے۔ حقیقت پسند طبائع نے نئی صورت حالات کو قبول کر کے مثالیاتی ماورائیت سے قطع نظر کر لی ہے اور کسی حبکت کبریٰ سے شعوری یا جذباتی رشتہ قائم کرنے کے بجائے اسی نہیں منے سیارے میں مستر و طائفیت کے حصول کی کوشش شروع کر دی ہے کہ یہی نوع انسان کا افضل مقدر ہے۔

نو فلاظونیت

نظامیوں اور ارسطو کے مابعد الطبیعیاتی نظریات میں فلسفہ یونان مراجع کمال کو پہچ کیا تھا۔ ارسطو نے اپنے آسٹاد کی مثالیت پر معرکہ آراء تقد لکھا تھا جس سے مثالیت پسندی میں حقیقت پسندی کا رجحان پیدا ہوا۔ لیکن سیاسی زوال اور معاشی بدهانی کے باعث اس رجحان کو ہنہ کے موقع نہ مل سکے اور ارسطو کی ذات پر فکر یونان کا ایک درخشاں دور ختم ہو گیا۔ پریکلیز کے عہدِ زربیں کے بعد جلد ہی سارنا والوں نے ایتھر کو فتح کر کے اُس کی آزادی کا خاکہ کر دیا تھا لیکن سارنا والے ہر حال یونانی تھے۔ ان کے عہدِ تسلط میں ایتھر والوں کو ایک حد تک فکر و نظر کی آزادی میر تھی۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ قلب شاہِ مقدونیہ نے جنگ قیرونیہ میں یونانی ریاستوں کی متحده فوج کو شکست فاش دے کر اُنہیں اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ سکندر کی وفات کے بعد بھی اپل یونان بدستور بامی نزاعوں اور سازشوں میں مورب ہے حتیٰ کہ رومہ الکبریٰ کے غلیے نے اُنہیں ابدی غلامی کی زمیروں میں جکڑ دیا۔ تنزل و ادبار کے دور میں اقوام تصوف سے رجوع لاتی ہیں۔ چنانچہ اپنی یونان نے اس عہدِ اختطاط میں باطنیت اور تصوف کا دامن تھاماً لیکن جس تصوف کی طرف وہ متوجہ ہوئے وہ کوئی ملکی مکتب عرفان نہیں تھا بلکہ ان عقاید و افکار کا ملغوب تھا جو سکندر اعظم کے سپاہی کلدانیہ۔ بابل۔ مصر اور ایران و پند سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ جہاں اپل یونان نے ان مالک سے علم بیٹھ کے اصول اور مساحت و پنڈ سے کے مبادیات سیکھئے تھے وہاں سعر و سیمیا نے بابل۔ نیر نجات کلدانیہ اور عرفان پند و ایران کی تحصیل بھی کی تھی۔

سکندر اعظم فلسفے کا شیدائی تھا اور ارسطو کا شاگرد تھا لیکن وہم پرستی کی بہ حالت تھی کہ کلدانی فال گیروں اور کاپنوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ رکھتا تھا اور ہر مہم کے آغاز میں ان سے استصواب کرتا تھا۔ یونان کی عقلیت اور مشرق کے تصوف و عرفان کے امتزاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں اپل مغرب کو متصوفانہ انکار نے متاثر کیا وہاں اپل مشرق نے بھی اپنے مذہبی عقاید کی تاویل کر کے اُنہیں فلسفیانہ نظریات برداشت کی کوشش شروع کی جس سے علم کلام کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اس تاثیر و تأثر کا سب سے بڑا مرکز سکندریہ کا شہر تھا جسے سکندر کے ایک جرنیل بطیموس نے مصر کا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ اس کے جانشینوں کے زیر نگین سکندریہ کو بین الاقومنی شہرت حاصل ہو گئی۔ مہذب دنیا کے تمام مالک کا مال

تجارت بروی و بھری راستوں سے اس شہر میں آتا تھا۔ ایران۔ پندوستان اور عرب کے تاجروں نے شہر کے مضائقات میں اپنی اپنی بستیاں بسائی تھیں۔ دن رات کے میل جوں اور ربط خبط سے مختلف اقوام و مذاہب کے لوگ وسیع النظر اور فراخ مشرب ہو گئے اور بے تکاف ایک دوسرے کی مذہبی مجالس میں شرکت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے تیوباروں کو مل کر دھوم دھام سے مناتے تھے۔ بطیموس نانی نے سکندریہ میں شہرہ آفاق میوزیم کی بنیاد رکھی جس میں ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی قائم کیا گیا۔

ام میوزیم میں یونان۔ روم اور شام کے اہل علم کے علاوہ جو بلینی تہذیب و تمدن کی نمائندگی کرتے تھے پندوستان اور ایران کے علم دوست تاجر بھی آپس میں مل یتھر تھے اور مذہبی اور فلسطینی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اس بات کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ پندوستان کے سینکڑوں بدھ اور چین بھی ان مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ ان کے علاوہ فلسطین کے یہودی احبار تھے جو سب کو حقارت کی نظر میں دیکھتے تھے لیکن ان کے باوجود اپنی کتب مقدسہ کا ترجمہ یونانی زبان میں کر رہے تھے۔ عیسائیت کو شروع شروع میں یہودیت ہی کی ایک شاخ سمجھا جاتا تھا لیکن مسیحی اولیاء قدیم بت پرست اقوام کے قصص کو اپنے مذہب میں جذب کر کے اسے عالمگیر رواج و قبول بخشنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔

یونان میں افلاطون اور ارسطو کے قائم کمیتے ہوئے مکاتب میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا لیکن مردی زمانہ سے ان کے بانیوں کی تعلیمات میں بہت کچھ تحریف والحال واقع ہو چکا تھا اور ان مدرسوں کا رجحان تشکل کی جانب ہو گیا تھا۔ پہلی صدی بعد از مسیح میں ایک طرف ایران کے متھرامت کی بعد گیر ترویج ہوئی دوسری فیشا غورم کی عرفانی تعلیمات کا احیاء عمل میں آیا جسے نو فیشا غورمیت کا نام دیا گیا۔ اس میں تناسخ ارواح۔ تفہیم و زیباست اور نظریہ۔ فصل و جذب پر خاص طور سے زور دیا جاتا تھا۔ متھرا (سہر، آفتاب) سورج دبوتا تھا۔ اس کے پیاری آسم شفیع و منجی سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ متھرا کی سفارش سے اپورامزا گنہکاروں کو بخش دے گا۔ شفیع کا یہ تصور یہودیوں نے ایران قدیم سے مستعار لیا تھا۔ وہ اسے مسیحا کہتے تھے۔ اسلام میں یہ تصور مسیح موعود کی صورت میں ظاہر ہوا۔ عیسائیوں نے جناب مسیح کو متھرا کی جگہ اپنا شفیع سمجھنا شروع کیا اور متھرامت سے کرسمس کا تیوبار اپنی مستعار لیا۔ مشرق مذاہب کے مقابلے میں فلاسفہ یونان و روم نے اپنے عقاید و ذکر کو مذہبی بنیادوں پر منظم کرنے کی کوشش کی۔ روایتیں نے اس رجحان کو خاص طور پر تقویت دی۔ ان میں بوسی دونیں قابل ذکر ہے۔ بعض سورخین فلسہ نے نو فلسطینیت کا آغاز اسی کی ذات اور تعلم سے کیا ہے۔ فرینک تھلی کہتے ہیں:

"افلاطون اور ارسطو کے بعد فلسفے کا رجحان روایتیت کے واسطے سے مذہبی ک طرف ہو گیا تھا۔ روایتیں کائنات کو نظامِ غانی سمجھتے تھے اور اس بات

کی دعوت دیتے تھے کہ انسان ارادے کے تحت رکھنا ضروری ہے تاکہ کائنات کی خاتمی کی تکمیل ہو سکے۔ اس مذہبی تحریک کو اس وقت تقویت پہنچی جب سکندر اعظم کے بعد یونانیوں کو کلدانیوں۔ مصریوں اور یہودیوں سے میل جوں کے موقع ملے۔ سکندریہ کے شہر کو بنی الاقوامی حیثیت حاصل تھی اسی شہر میں فینائیگورس کے انکار پر ایک عالیکر بذہب کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی اور افلاطون کے فلسفے کو مذہبی رنگ دے کر یا اس کے مذہبی رنگ پر مشرق تصوف کا پیوند لگا کر نو فلاطونیت کی بنیاد رکھی گئی۔

نو فلاطونیت کے آغاز و ارتقاء کا تاریخی جائزہ لینے سے پہلے اس مذہبی رجحان کے دو مشہور ترجمانوں فلو یہودی اور سکندر افرو دیسی کا ذکر از بس ضروری ہے کہ انہیں فلاطینیوں کا پیش رو سمجھا جاتا ہے۔

فلو یہودی ۴۰۰ ق۔ م سے لے کر ۵۰۰ ق۔ م تک سکندریہ میں مقیم رہا۔ اُس کا بھائی سکندریہ سے روم کو مال نجارت برآمد کرتا تھا۔ فلو آس وفد کا رئیس تھا جسے یہودیوں نے شہنشاہ روم کالی گولا کے دربار میں بھیجا تھا۔ اُس کا عقیدہ تھا کہ یہودیوں کے مذہبی عقاید اور فلسفہ یونان کے انکار دونوں ازلی و ابدی صفات کے حامل ہیں۔ اپنے مذہب کی اولیت اور عظمت کے ثابت کرنے کے لیے اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ افلاطون اور ارسطو جناب موسیٰ کے پیرو تھے اور تورات کی تعلیمات سے فرض یا ب ہونے تھے یہی وجہ ہے کہ بتول فلو تورات کی تعلیم اور ان کے فلسفے میں بنیادی توافق پایا جاتا ہے۔ اس نے فلسفہ و مذہب یا عقل و نقل کی تطبیق کی کوشش کی۔ اُس کی بیروی میں بعد میں عیسائی اور مسلمان متکلمین نے یہی اپنے اپنے مذہبی اصولوں کی تاویلیں کر کے ان کی توثیق فلسفہ یونان کے سہیت مسائل سے کی تھی۔ اسی طرح فلو یہودی کو علم کلام کا ابوالتابا سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے تکوین کائنات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگس (لغوی معنی) کلمہ۔ نظر۔ خدا اور کائنات کے درمیان وہ ضروری واسطہ ہے جس کے بغیر کائنات کی تخلیق ممکن نہیں تھی۔ لوگس کا لفظ پیریقلیتیس یونانی نے عقل کل کے مفہوم میں پہلے چہل استعمال کیا اور کہا کہ یہ ہمگیر حرکت و بیجان کائنات میں شعلہ بن کر سرایت کریے ہوئے ہے۔ انا کسا شورس نے امن واسطے کو عقل اول کا نام دیا ہے اور اسے ہمگیر دین کہہ کر یوئی مخاطب کیا ہے جو کائنات میں توافق و تناسب کو برقرار رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یہودیت میں اسلام کی طرح خدا کا تصور شخصی ہے اور خدا قادر مطلق ہے جو صرف ”کن“ کہنے سے اشیاء کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے۔ فلاسفہ یونان کی اکٹھیت اس بات کی قائل ”خوی“ کہ کوئی سے عدم سے وجود میں نہیں آسکتی۔ اس لیے فلو یہودی نے لوگس کا سہارا لبا اور اپنے مذہبی عنیدے کو فنفیضیانہ استدلال پر قربان کر دیا۔ مزید برآں فلو یہودی نو فینائیگوریت کے اس نظریے سے مثار ہوا تھا کہ مادہ شر کا مبداء ہے اور خدا خیر کا۔ مادہ الایش ہے

اس لیے اس سے اعتناب ضروری ہے۔ یہ خیال بھی یہودیت کے مناقب ہے کہوں کہ اس میں دنیا کی لذتوں سے مستثن ہونے کی دعوت دی کنی ہے۔ علاوہ ازین فلو استغراق اور سracیت کی اہمیت کا قائل تھا۔ یہ خیالات بعد میں فلاطینوس کے فلسفے میں داخل ہو گئے۔

سکندر افروادیسی یونانی الاصل تھا ۱۹۸ء سے ۲۱۱ء تک وہ ایتھری میں درس دہنا رہا۔ اسے اپنے زمانے میں شارح ارسطو کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا ارسطو کی دوسری کتابوں کی طرح سکندر نے اس کے رسالہ "روح کی شرخ بھی لکھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ عربوں میں اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کا بار بار عربی میں ترجمہ کیا گیا اور متعدد عرب علماء نے اس پر سیر حاصل حواشی تحریر کیے۔ اور اس کے ملخص قلم بند کئے حتیٰ کہ بقول اوٹیبری اس کی نفسیات تمام عربی فلسفے کا منگ بنیاد قرار پان۔ اس شرح میں سکندر نے ارسطو کے نظریات کی ترجیحی مذہبی رنگ یہی کی تھی اور ارسطو کے "محرك غير متحرك" کو الوبیت کا جامہ پہنا یا تھا۔ علاوہ ازین اس نے کہا کہ ارسطو انسانی روح کو غیر فانی سمجھتا ہے۔ ارسطو کے ایک اور شارح تھی میسٹیس نے سکندر کے ان خیالات کی تردید میں ایک رسالہ لکھا اور آس ہر الزام لکھا کہ آس نے ارسطو کے متن کو اپسے ذاتی معنی پہنا دیے یہ جو آس سے متادر نہیں ہوتے چونکہ زمانے کا رجحان عقلیت کے بجائے باطنیت اور مذہبیت کی طرف تھا اس لیے تھی میسٹیس کے اعتراضات کو نظر انداز کر کے لوگوں نے سکندر کی ترجیح کو صحیح سمجھ کر قبول کر لیا۔ سکندر افروادیسی کی اس شرح نے تو فلاطونیت کی تشکیل میں اہم حصہ لیا۔

فلسفہ یونان خدا کے شخصی تصور سے ناؤشا تھے چنانچہ افلاطون کے "اخیر محض" اور "ارسطو کے محرك لامتحرك" کو ان معنوں میں خدا نہیں کہا جاسکتا۔ خدا کا شخصی تصور جو بعد میں عیسائیوں اور مسلمانوں میں شائع پواسب سے ہے یہودیوں نے پیش کیا تھا۔ قدیم زمانے میں یہودی دوسری بیت پرست اقوام کی عمرت ہت پرست تھے۔ جب بابل اور اشوریا کے پیغمبریوں نے ان کی بساط سلطنت اللہ دی تو مصائب و آلام کے اس دور میں انہوں نے ایک قبائلی ڈیوتا یہواہ کو خداوند کائنات سمجھنا شروع کیا۔ یہواہ کی جو تصویر عہد نامہ "قدیم میں دکھانی دیتی ہے وہ ایک ملی اور قوی خدا کی تصویر ہے جو اپنے بندوں کو ڈرانا دھمکاتا ہے۔ بادل اور دخان میں ان کے خیموں پر اترتا ہے اور دھووں کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ فلاسفہ یونان مذہبی کثرت پرست تھے۔ افلاطون اور ارسطو بھی جن کے نظریات میں ایک عالمگیر اصول اول کی جھلک دکھانی دیتی ہے اپنے ملکی ڈیوتاؤں کو مانتے تھے۔ ارسطو ستائیں سے باون ڈیوتاؤں کا قائل تھا۔ افلاطون کے مکاہل میں بھی کئی ڈیوتاؤں کا ذکر آتا ہے۔ سرور زمانہ سے جب فلسفہ محض شرح و ترجیحی تک محدود ہو کر رہ گیا تو لوگوں نے فلاسفہ "قدیم" کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ترک کر دیا۔ افلاطون کی اکیلیتی میں کہلم کھلاڑی تسلیک کی تعام

دی جانے لگ۔ اسی طرح ارسطو کے شارحن اس کے افکار کی تاویل کر کے ان کی تطبیق رائج وقت نظریات سے کرنے لگے۔ ان لوگوں میں سکندر افرودیسی کی شرح سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔ اس نے ارسطو کے رسالے روح کی جو مذہبی ترجیحی کی تھی وہ دنیا نے علم میں حرف آخر سمجھی جانے لگ۔ اس کے بعد این رشد کے زمانے تک کسی فلسفی نے ارسطو کی اصل تعلیمات کو معرض بحث میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ وہ زبانہ تھا جب روح عصر تصوف و عرفان کی دعوت دے رہی تھی۔ ایک طرف تو فینائیغورسی مشرق مذاہب اور فینائیغورس کے نظریات کی آمیزش سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھئی تھی فکر میں تھے دوسری طرف متہرامت چاروں طرف سرعت سے پھیلتا جا رہا تھا۔ عیسائیت کی اشاعت بڑے جوش و خروش سے کی جا رہی تھی۔ عیسائیت میں عوام کے لئے یہ پناہ کشش کا سامان تھا کیونکہ اس نے شریعت موسوی۔ ختنہ اور سبت کو منسوخ کر کے بت پرسوں کے رسوم و شعائر اخذ کر ائے تھے اور رواقین کے عالیگیر اخوت کے اصول کو اپنا لایا تھا۔ یونانی اور رومی فلاسفہ کو بخوبی معلوم تھا کہ اس نئے مذہب کا مقابلہ کرنا بڑا کٹھون ہے اس لیے انہوں نے قدماء کے فلاسفیانہ افکار اور مشرق کے صوفیانہ اصولوں کے استزاج سے ایک ایسا مذہب مرتب کرنے کی اضطراری کوشش کی جو عیسائیت کا سدباب کر سکتا۔ اسی کوشش کا دوسرا نام فلسفة نوغلاطونیت ہے جسے گلبرٹ مرے مذہب یونان کے آخری مرحلے سے تعبیر کرتا اور جسے شبیہ فلسفة یونان کی آخری اضطراری کوشش قرار دیتا ہے جو مشرق تصوف و عرفان کے خلاف کی گئی اور ناکام رہی۔ اس کشکش میں فتح بالآخر عیسائیت ہی کی ہوئی لیکن جس طرح یونان کی روح تھدنے والی فاتحین کو مسخر کر لیا تھا اسی طرح نوغلاطونی نظریات عیسائیوں کے فکر و نظر میں ایسے ذخیل ہوئے کہ آج ان کے تاریخ پوڈ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جائے تو عیسائیت کا وجود باقی نہیں رہے گا۔

فلاطینوس ۲۰۵ء میں مصر کے ایک شہر لکوہالس میں پیدا ہو۔ وہ رومی نژاد تھا اور ایران کے مشہور مجدد مذہب مانی کا ہم عصر تھا۔ اس کے شاگرد فرفوریوس نے اس کی ایک مختصر می سوانح حیات لکھی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اوائل عمر میں تحصیل علم کے لیے سکندریہ بھیج دیا گیا جہاں اس نے امویں سکاں سے تعلیم پائی۔ بعض اہل تحقیق کا خیال ہے کہ نوغلاطونیت کا باقی بھی سکاں ہے۔ فلاتینوس نے صرف اتنا کیا کہ اس کی تعلیمات کو قلم بند کر لیا جیسے افلاطون نے اپنے استاد سقراط کے افکار کو اپنے مکالات میں محفوظ کر لیا تھا۔ سکاں نے دوائی میں عیسوی مذہب قبول کر لیا تھا لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا اور اس کے خلاف تنبیریں کرنے لگا۔ شاید اسی وجہ سے فلاتینوس اور اس کے شاگرد شروع ہی سے عیسائیت کی مخالفت کو اپنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ سکندریہ میں فلاتینوس کو ایران اور پندوستان کے باشندوں سے میل جوں کے موقع ملتے رہے۔ یہ لوگ اکثر عمارت بیشہ تھے۔ فلاتینوس کی نسلی خواہش تھی۔ وہ ایران اور پندوستان جا کر

وہاں کے حکماء سے استفادہ کر کے اتفاق سے انہی دنوں شہنشاہ روگارویاں دوم نے ایران پر فوج رکھتی کی۔ اس موقع کو محییت جان کر فلاطینوس اس کی فوج میں بھری ہو گیا لیکن زیادہ دن نہیں گزرنے ہانے تھے کہ شہنشاہ گارڈیاں کو قتل کر دیا گیا اور فلاطینوس نے بھاگ کر انطاکیہ میں پناہ لی۔ وہاں کچھ مدت قیام کرنے کے بعد وہ روم چلا گیا اور وہاں اپنی درس کا قائم کی۔ اس کی صحت اکثر محدود شدی تھی لیکن اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ اس کے عادات و خصائص ایسے شستہ و رفتہ تھے کہ جو شخص چند دنوں کے لیے اس کے حلقہ تدریس میں شامل ہو جاتا وہ عمر بھر کے لیے اس کا گروپیدہ ہو جاتا تھا۔ فلاطینوس طبعاً تنهائی پسند تھا اور ہمیشہ تعمق و تفکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہی استغراق بعد میں اس کے مسلک کا لازمی جزو بن گیا۔ فلاطینوس کی خوش قسمتی سے اس کی ذات کے گرد قابل شاگردوں کا جمکھٹ ہو گیا تھا جن میں امیلوس۔ اشوکیں اور فرفوریوس نے شہرت حاصل کی۔ فلاطینوس کو اپنے عقاید و افکار کی اشاعت میں نمایاں کامیابی ہوئی حتیٰ کہ شہنشاہ روم گیلش اور اس کی ملکہ سلوینیا نے بھی اس کے مذاہوں کی صفائی میں شامل ہو گئے۔ فلاطینوس کی دلی آرزو تھی کہ وہ کمپینیا میں ایک شہر "فلاطنون آباد" کے نام سے بانے جہاں اس کے پیرو اور ہم خیال ہاوم مل جل کر زندگی گزاریں اور جہاں ایک دارالمحضین بھی کھولا جائے۔ شہنشاہ اور اس کی ملکہ نے امن تجویز کا خیر مقصد کیا ایکن فلاطینوس کی زندگی نے وفا نہیں اور یہ خواب شرستہ تعبیر نہ ہو سکا۔ فرفوریوس نے فلاطینوس کے ۵۰ رسائل کو چھ چھ کی "اینڈز"۔ ۱ (لغوی معنی: نو۔ میں تقسیم کیا۔) کے عدد کو فیناگورس کے مسلک میں مقدس و کلیل سمجھا جاتا تھا اس لیے بطور تبرک و تناول یہ ترتیب عمل میں آئی۔ ان رسائل کی چوتھی اینڈ میں روح کے مستلزم یہ بحث کی گئی ہے اور اس کا ایک حصہ (ساتوان رسالہ) بقایے روح کی بحث کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس کا شہار فلاطینوس کے اہم ترین رسائل میں ہوتا ہے۔ فلاطینوس کے رسائل میں رطب و یابیں بہت ہے لیکن صوفیانہ اور ادبی نقطہ نظر سے بعض مقامات ایسے اعلیٰ و ارفع ہیں کہ بقول برٹر ندرس "ذوقِ جل" کے لحاظ سے دنیا نے ادب میں صرف دانتے کی "فردوں" کے کچھ حصے ہی ان کے مقابلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ یہ بھی فلاطینوس ہی سے مخوذ ہیں۔

فلاطینوس کی وفات کے بعد اس کے شاگرد فرفوریوس نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے نو فلاطینویت کا دوسرا دور شروع ہوا۔ فرفوریوس رہتے تو ۲۰۰ م) کا اصل نام مالخوس تھا اور وہ سامی النسل تھا۔ وہ فلاطینوس کا محض مقدم ہی نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے نامور استاد کی تعلیمات میں اضافی نہیں کریے۔ برٹر ندرس کے خیال میں اس نے فلاطینوس کے افکار کو مابعدالطبعیاتی رنگ دیا جو اس کے استاد کی تحریروں سے نہیں جھلکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فلاطینوس کی بد نسبت فیناگورس سے زیادہ مناثر ہوا تھا۔ علاوہ ازین فرفوریوس نے فلاطینویت میں ارسٹو کی منطق کو

داخل کیا اور اس کی تعلیمات کو فلاطینوس کے عقاید میں گھلا ملا دیا۔ اس کا علمی اقدام تاریخی لحاظ سے بڑا اہم ہے کیونکہ دور عباسیہ کے عرب حکماء کے ہاتھ افلاملوں اور ارسطو کی جو تعلیمات سریانی ترجموں کے ذریعے سے پہنچیں وہ فرفوریوس کے اسی نظریے کی حامل تھیں کہ افلاطون اور ارسطو کے نظریات میں کسی قسم کا بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ فلاطینوس نے ارسطو کے مقالات عشرہ پر سخت تنقید کی تھی۔ فرفوریوس اور اس کے متبوعین نے دوبارہ ارسطو کی طرف رجوع کیا۔ مسلمانوں کی طرح بلکہ ان کی پیروی میں دور وسطیٰ کے عیسائی متكلمین نے اپنے نکر و نظر کی بنیاد اشراقیت اور مشائیت کی اسی مقابمت پر استوار کی تھی۔

فرفوریوس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے ارسطو کی 'قانون' کی تمهید لکھی تھی۔ وہ اپنے استاد سے زیادہ رہبانتی پر زور دیتا تھا اور اس معاملے میں مشتمل تھا۔ مافی کی طرح اس کا خیال تھا کہ تزکیہ نفس کے لیے گوشت خوری اور اختلاط جنسی کا ترک لازم ہے۔ لیکن اس نے مافی کے اس عقیدے کی تردید کی کہ خواہش شر کی تخلیق کرنی ہے اس لیے ترک خواہش ہی سے روح بخات پا سکتی ہے۔ عیسائیت کے رد میں اس نے بہت کچھ لکھا۔ اس کے خیال میں عیسائیوں کی کتب مقدسہ الہامی نہیں ہیں بلکہ چند کم علم لوگوں کی تالیفات ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ بعد میں عیسائی حکومتوں نے باربا فرفوریوس کی کتابوں کو نذرِ آتش کیا۔

فرفوریوس کا ایک شاگرد جملیقین تھا جس نے افلاطون اور ارسطو کی کتابوں پر مختلف شرحیں لکھیں جو اب نایاب ہیں۔ تعمیل علم سے فارغ ہو کر وہ اپنے وطن شام کو چلا گیا اور وہاں نوغلاطونیت کا درس دینے لگا۔ اپنے استادوں کی طرح اسے بھی فیثاغورس کے افکار میں گھرا شفقت تھا اس موضوع پر اس نے رسالے بھی تالیف کیے۔ فیثاغورس کے نظریات نے اس کے نوغلاطونی عقاید کو متاثر کیا۔ وہ ماقوق الطیع پر اعتقاد رکھتا تھا۔ فیثاغورس کی طرح وہ مادے کو شر کا سرکز و محور خیال کرتا تھا اور ترک نہذات پر زور دیتا تھا۔ اس نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی سخت خالفت کی کہ خدا نے جناب مسیح کے جسم میں حلول کیا تھا۔

سرورِ زمانہ سے نوغلاطونی نظریات میں تحریف ہوئی گئی اور اس میں توبہت اور خوارق عادات کا شمول ہو گیا۔ نوغلاطونیت کا آخری علم بردار پروقلس بازنطینی (۱۵۴۸ء تا ۱۵۷۴ء) کو سمجھا جاتا ہے۔ اس نے بونانیوں کی کثرت پرستی کے جواز میں کتابیں نکھلیں۔ وہ عیسائیت سے سخت متفرو تھا اور ساری عمر اس کے خلاف تقریریں کرتا رہا اس لیے اسے نوغلاطونیت کا مبلغ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر نوغلاطونی پیدا نہیں ہوا۔ جو نوغلاطونی نظریات شام کے عیسائیوں اور مسلمانوں تک پہنچی اور جنہیں صوفیہ نے اپنایا وہ اکثر ویشنتر پروقلس کے نظریات ہی تھے۔

۲۶۹ میں شہنشاہ جسٹینین نے بونانی فلسفی کی تدریس کو منوع قرار دیا اور تمام مدرسے بند کر دیے۔ نوغلاطونی حکماء بھائی کر ایران چلے گئے جہاں خسرو

انوشنرووان نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور گندبشاپور کے طبی مدرسے میں انہیں تدریس کا کام تفویض کیا لیکن یہ فلاسفہ نئے محاول سے برگشتہ خاطر ہو کر واپس چلے گئے - اور بقول برٹرنرلرسل "گمنامی کے کھرے میں غائب ہو گئے" - فلسطینیوس کے فلاسفے کا منگ بنیاد تجلی^۱ کا تصور ہے - اس کا عقیدہ تھا کہ ذات احمد سے بتدریج عقل - روح انسانی اور مادہ کا نزول^۲ ہوتا ہے - تعمق و تفکر کے طفیل روح انسانی مادے کے تصرف سے آزاد ہو کر دوبارہ اپنے مبداء حقیقی سے جا ملتی ہے - اسے صعود^۳ (اوپر جانا) کہتے ہیں - عربی زبان میں اس نظریے کو فصل و جذب (ذات احمد سے جدا ہو کر دوبارہ اس میں جذب ہو جانا) کہتے ہیں - فلسطینیوس کی تثیلیت ذات احمدیت - عقل - روح پر مشتمل ہے اور عیسوی تثیلیت ہے سے مختلف ہے - عیسوی تثیلیت کی طرح اس کے ارکان کا مقام ایک جیسا نہیں ہے - ذات احمد سب سے ارفع و اعلیٰ ہے - اس کے بعد عقل کا مقام ہے اور اس کے بعد روح کا درجہ ہے - اس تثیلیت کے تیسرے رکن یعنی روح سے آفتاب - قدر اور دوسرے اجرام فلکی کا ظمودر ہوا - روح سے انسان کی روح علوی ہوئی - انسانی روح جب مادے کی طرف مائل ہوئی تو وہ اپنے مقام سے گر گئی اور روح سفلی کا نام پایا - مادے کے تصرف سے نجات پانے کے لیے وہ پیغمبہر کشمکش کرتی ہے اور اپنے مبدائے حقیقی کی طرف پرواز کر جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے - اس بے قراری کو فلسطینیوس نے عشق کا نام دیا جو بعد میں این میانا کے تصور عشق اور صوفیہ کے عشق حقیقی کی صورت میں نمودار ہوا - پرواز یا صعود کی کوشش میں روح انسانی کو ناکاہی ہو تو اسے کسی دوسرے آدمی یا جانور کے جسم میں حلول کرنا پڑتا ہے اور مادے کی آلات سے آزاد ہو جائے تو وہ روح کل میں جذب ہو کر نشاط جاوداں کی حق دار ہو جاتی ہے -

نظریہ تجلی کی وضاحت کرتے ہوئے فلسطینیوس نے آفتاب کی تکمیل سے کام لیا ہے - وہ کہتا ہے کہ ذات احمد سے عقل اور روح کا بہاؤ ایسے ہوتا ہے جیسے آفتاب سے نور چھلک پڑتا ہے لیکن جس طرح نور کے انعکاس سے سرچشمہ آفتاب متاثر نہیں ہوتا ایسے ہی عقل کے بہاؤ سے ذات احمد اثر پذیر نہیں ہوئی - مادہ وہ تاریکی ہے جہاں آفتاب حقیقت کی شعاعیں نہیں پہنچنے پاتیں - کائنات کی تمام اشیاء کا بیولی ہی مادہ ہے - روح اسے صورت شکل عطا کرتی ہے - انسان کی روح علوی کا رابطہ روح کل سے بدستور قائم رہتا ہے - روح سفلی جو مادے سے قریب تر ہے گناہ کا سرچشمہ اور ہوا وہ موس نفانی کا سرکز ہے -

اس مابعدالطبعیات سے جو دستور اخلاق مرتب کیا جاسکتا ہے وہ ظاہر ہے - جب مادہ شر اور گناہ کا سرکز ٹھہرا تو بدیہی طور پر اس سے کنارہ کش ہونا پڑتے گا تاکہ روح انسان پاک اور سنبھل ہو کر روح کل کی طرف پرواز کر سکے - نتیجہ ایک

نوافلاطونی کا فرض اولیں ہے وہ کہ وہ عالم حواس سے منہ موڑ کر شبانہ روز مراقبے میں عرق رہے تاکہ اس کی روح میں پرواز کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس طرح نوافلاطونیت اخلاق و عمل میں زاویہ نشینی اور رہبانیت کی تلقین کر رہی ہے۔ فلاطینیوس منتے دم تک اپنے عقاید پر کاربند رہا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مراقبے کی حالت میں اسے کئی بار روح کل میں جذب ہونے کا تجربہ پوا لیکن از خود رفتگی کی یہ کیفیت گریز پا ثابت ہوئی اور مادے کی کشش نے روح کو دوبارہ عالم سفلی میں کھینچ لیا۔ شاید اسی بنا پر فلاطینیوس کی موت کے بعد اس کے پیروؤں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسے الہام ہوتا تھا اور اس سے معجزات کا صدور بھی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مصور نے فلاطینیوس کی تصویر کھینچنے کی خواہش کی۔ فلاطینیوس نے انکل کرتے ہوئے کہا میرا جسم بیڑتے وجود کا ایک غیر اہم حصہ ہے اس کی تصویر کھینچنا بے سود ہے۔

بعض اہل علم نے یہ سوال آٹھا ہا ہے کہ آخر فلاطینیوس کے مسلک کو نوافلاطونیت کا نام کیوں دیا گیا ہے اور افلاطون کے افکار سے اس کا رابطہ تعلق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں نوافلاطونیت کو افلاطون کے فلسفے کا احیاء نہیں کہا جاسکتا۔ کیوں کہ اس میں افلاطون کے فلسفے کا صرف وہ پہلو پیش کیا گیا ہے جس کا تعلق اشراق۔ تصوف اور خوارق عادات سے ہے "افلاطون کی تحریروں سے نظریہ" امثال۔ مکالعہ" فیدو کے متصوفانہ افکار۔ مکالعہ" جمہوریہ اور سپوزیم سے عشق کی بحث ماخوذ ہے اور افلاطون کی سیاسی دلچسپیوں۔ خیر کی مختلف صورتوں کی بحث۔ اس کے ریاضیاتی افکار۔ اس کے اسلوب کی شکنگی اور ڈراماتیت کو فلاطینیوس نے نظر انداز کر دیا ہے۔ "اپنی عمر کے اواخر میں افلاطون فیٹاغورس کے نظریات سے بڑا متاثر ہوا تھا حتیٰ کہ اس نے فیٹاغورس کا نظریہ اعداد بھی اخذ کیا اور اخلاق میں اسی کی طرح رہبانیت اور گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گیا۔ بھی وجہ ہے کہ امن دور کے مکالیت میں وہ فلسفیانیہ مسائل کو عقلی استدلال کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے ان کی وضاحت کرنے ہوئے استماروں اور اساطیر سے کام لیتا ہے۔ فلاطینیوس نے فلسفہ افلاطون کے اسی اشراق پہلو کو اس کی تعلیم کا اصل اور حاصل سمجھا اور اس پر مشرق باطنیت کا پیوند لگا کر فاسدہ نوافلاطونیت کی تشکیل کی۔ فلاطینیوس کا تجھی کا نظریہ بھی افلاطون سے ماخوذ ہے۔ افلاطون نے ذات احمد کو خیر مغض یا حسن ازل کا نام دیا تھا۔ اس کے خیال میں خیر اور حسن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ذات احمد لامحدود اور مطلق مغض ہے۔ انسانی عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کائنات سے ماؤراء ہے کہوں کہ اگر وہ کائنات پر عمل فرمایا ہوگی تو اس ماؤرانیت میں فرق آجائے گا۔ نظام کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے چند ارواح یہیں جو ذات احمد اور کائنات کے مابین رابطے اور واسطے کا کام دیتی ہیں۔ لوگوں ان ارواح کا نمائندہ ہے جو ذات احمد کی تجلی ہے اور کائنات کے مقابلہ اس سے ہوئے ہیں۔ چونکہ ذات احمد زمان و مکان سے بالاتر ہے اس لیے

عقل انسان کی رسانی اس تک نہیں ہو سکتی۔ البتہ نور باطن (اشراق) سے اس کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے۔ عالم سفلی و مادی امثال' کا عکس ہے سایہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے افلاطون نے غار کی مشہور محشیل بیش کی۔ اور بد ثابت کرنے کی کوشش کی یہ عالم حواسِ محض فریب نگاہ ہے۔ حقیقی عالم وہی ہے جو امثال کا مسکن ہے۔

افلاطون ذات احمد کو امن کائنات سے امن قدر ہے تعاقد اور معاوراء سمجھتا تھا کہ اس کے لیے 'ایک' کا لفظ استعمال کرنا بھی نامناسب خیال کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ 'ایک' کا تصور 'کثرت' کے تصور کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی صرف 'ایک' کہہ دینے سے کثرت لازم آجائی ہے۔ فلاطینیوس نے اس عقندے کو عقلی استدلال سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ عقیدہ بمان لیا کہ ذات باری ایک ہے اور کثرت سے معاوراء ہے۔ اس سوال نے اسے پریشان نہیں کیا کہ 'ایک' کثرت سے معاوراء کیوں کر پوسکتا ہے۔ اور اگر وہ کثرت سے معاوراء ہو تو کثرت اس سے متفرع کیسے ہوگی۔ جب ذات احمد اور کائنات کے مابین کسی نوع کا تعلق نہیں ہوگا تو وہ کائنات تخلیق کیسے کر سکے گا۔ اس دقت کو عقلانی رفع کرنے کے بجائے فلاطینیوس نے شعراء اور صوفیہ کی طرح استعاروں سے کام لیا اور کہا کہ کائنات ذات باری سے ایسے متفرع ہوئی جیسے آفتاب سے شعاعیں یا باری سے سردی یا جیسے مکڑی سے جالا وغیرہ۔

افلاطون کی طرح فلاطینیوس کے پان بھی انسانی زندگی کا مقصد واحد ہے ہونا چاہیے کہ وہ مادی اور حواس کی دنیا سے ہے تعلق ہونے کی کوشش کرے۔ اس کوشش میں انسان کو سب سے پہلے اپنی روح علوی کو جسم اور حواس کی قید سے آزاد کرنا پوکا۔ اس عمل کو وہ تصفیداً کا نام دینا ہے۔ اس کے بعد تفکر و تدبیر کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ جب استغراق اور مرافعے کے طفیل روح کی توجہ عالم سفلی سے یکسر پڑ جائے گی تو روح تفکر و تدبیر سے بھی بے نیاز ہو جائے گی اور بلا واسطہ عقل، اول سے رابطہ استوار کر لے گی۔ اس مرحلے ہر روح ہر وجود و کیف کی حالت طاری ہو جائے گی اور اس عالم سکر و نشاط میں اسے ذات احمد کا وصال نصیب ہوگا اور وہ اس میں جذب ہو کر رہ جائے گی لیکن قیدِ حیات میں ایسے لمحات وارثنگی گریزان ہوتے ہیں۔ اس بحث کو شیئس نے ان الفاظ میں سمیٹا ہے:

"نوفلاطونیت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان وجود و کیف میں ذات باری تک رسانی حاصل کر لیتا ہے۔ عقل و خرد کا عجز و قصور نوفلاطونیت کا نقطہ آشاز ہے جہاں عقلی استدلال اپنی ہے چارگی کا اعتراف کرتا ہے وہاں نوفلاطونیت وجود و حال کی مدد سے راستے کی رکاوٹوں سے گزر جانا چاہتی ہے۔ یونانی فہم جس مقام تک عقل کے وسائل سے نہ پہنچ سکا نوفلاطونیت وجودان کے ذریعے وہاں تک پہنچ جانا چاہتی ہے۔ اس کے مطابق جہاں عقل

کی کوششیں ناکام رہیں وہاں والہانہ بے خودی کا بیاب ہو جائے گی۔ ”
مشہور سورخ گبن نے نوفلاطونیت پر یہ الزام لکھا ہے کہ ان لوگوں نے فہم
انسانی کو ملوث کر دیا ہے وہ کہتا ہے۔

”نوفلاطونی بڑے معنی اور عمیق فکر کے مالک تھے لیکن انہوں نے فلسفے
کے مقصود کو نظر انداز کر دیا اور انسانی فکر کی تربیت کرنے کی بجائے آلات
اسے بکار رکھ دیا۔ انہوں نے اس علم کو جو انسانی قوی سے موافق رکھتا ہے
فراموش کر دیا اور اخلاقیات۔ طبیعتیں اور ریاضیات سے قطع نظر کر کے اپنی
تمام قوت مابعد الطبيعیاتی بعثوں اور مناظروں میں ضائع کر دی۔ اس کے بعد
ان لوگوں نے غیر مردمی عالم کے بھیدوں کو دریافت کرنے اور افلاطون اور
ارسطو کے ایسے نظریات کے درمیان مقایمت کرنے پر کمر پت مباندھی جن
سے عامہ الناس کی طرح یہ نوفلاطونی فلاسفہ خود بھی ناؤشا نے محض تھے۔“
بعض اپل علم کہتے ہیں کہ نوفلاطونیت پہنچوستان کے نظاریہ آپنہ سے متاثر
ہوئی تھی اور فلاطینوس نے تناسخ اور فریب نفس (مایا) کے تصورات اس مأخذ سے
لیتے تھے۔ لیکن امن مفروضے کی توثیق کے لیے تاریخی شواہد بہم نہیں پہنچ سکے۔ اس
میں شک نہیں کہ نوفلاطونیت اور آپنہدوں کی تعلیم میں اقدار مشترک موجود ہیں۔
آپنہدوں کی تعلیم بھی یہی ہے کہ پہلے آئما (انفرادی روح) کو دریافت کیا جائے اور
بھر اسے بربن میں فنا کر دیا جائے۔ اور بربن یا آفاق روح تک رسائی صرف وجود
سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ عقل استدلائی اس کوشش میں ناکام رہے گی۔ لیکن بھلی
کے جو مراحل نوفلاطونیت میں گئی ہیں ان کا آپنہدوں میں کہیں بھی کھو ج
نہیں ملتا۔ یہ نظریہ خود افلاطون کے فلسفے میں موجود تھا اس لیے فلاطینوس کو
آپنہدوں سے رجوع لائے کی ضرورت محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ ربا تناسخ ارواح کا
مسئلہ تو یہ مصر قدیم میں بھی موجود تھا۔ غالباً اسکا جہی ہے کہ مصر ہی سے
اس کا پہلاً دوسرے مالک میں ہوا۔ بقول بیرون ڈوئس اسے فیٹاغورس نے مصر قدیم
سے منسغ لیا تھا۔ اپل مصر روح کے غیر فانی ہونے کے قائل تھے اور موت کے بعد
جسم کو میتی کی صورت میں محفوظ رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روح تین بزار
بررس کے بعد مختلف نباتات۔ حیوانات وغیرہ کا چکر کاٹ کر دوبارہ میتی میں واہس
آجائے گی۔ فیٹاغورس اور ایمیہی دکلیس نے تو اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ آگھیں اپنے
گزشتہ جنموں کے حالات بخوبی یاد ہیں۔ ”جمهورید“ کے اوآخر میں افلاطون نے بیان
کیا ہے کہ لکام دبیوی لوگوں کو نئے نئے جنم عطا کریں ہے۔ عارفیوس کی روح
نے اپنے نئے راج بنس کا قالب انتخاب کیا۔ تھرست ٹس نے بندر کا اور آکلیمنون
کے عتاب کا۔ اسی طرح ماہا کا تصور بھی افلاطون کے یہاں ملتا ہے جس کے مطابق
عالم ٹوابر یا عالم حواس غیر حقیقی ہے اور محض نیرنگ نظر ہے۔ ان حقائق میں یہ
دعویٰ کرتا کہ فیٹاغورس۔ افلاطون فلاطینوس وغیرہ کے نظریات پر آپنہدوں کی
تعلیمات کا اثر بڑا تھا ایسا ہی بعد از قیاس ہے جیسے یہ خیال کہ آپنہدوں کے انکل

فلاطینیوں نے عیسائیوں کے عقاید پر بالعلوم اور عارفوں^۱ کے افکار پر بالخصوص کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ وہ عارفوں کے اس عقیدے کا مخالف تھا کہ دنیا شریک غلبیت ہے اس لیے اس میں دلچسپی لینا گناہ ہے۔ فلاطینیوں نظرت کے حسن و جمال کا پرستار تھا کیون کہ اُن کے خیال میں فطرق حسن بھی حین ازل ہی کا ہر تو ہے۔ فلاطینیوں کے نظریات اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں کہ وہ براه راست عیسوی کلام پر اور بالواسطہ مسلمانوں کے تصور اور عامِ کلام پر اثر انداز ہوئے۔ آگٹائیں ولی آمن کا مدارج تھا۔ آمن کا خیال تھا کہ فلاطینیوں کی روح میں افلاطون کی روح نے حلول کیا ہے اور افلاطون کو وہ فلاسفہ کا مسیع کہا کرتا تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسائیت اور تو فلاطونیت میں بنیادی توافق پابا جاتا ہے اور فلاطینیوں کی تعلیمات میں خفیف سارہ وبدل کر دیا جائے تو آسے عیسائی کہنے میں کوئی تائل نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ارٹمان نے اپنی تاریخ فلسفہ میں تو فلاطونیت کا ذکر ازمنہ وسطی کے مسیحی علمِ کلام کے ضمن میں کیا ہے۔ آس کے خیال میں اس مسلک کو یونانی فلسفے کی شاخ قرار دینا غلطی ہے لیکن یہ رائے بوجوہ قابل نبول نہیں ہے۔ بقول سیشن عیسوی عقاید اور فلاطینیوں کے افکار میں بنیادی اختلافات ہیں۔ تو فلاطونیت میں یونانی قدیم کی احتمان پرستی کی روح کار فرماء ہے۔ آگٹائیں دل کی طرح کلیمنت ولی بھی تو فلاطونیت کا بڑا شیدائی تھا۔ وہ سکندریہ کا پہلا عیسائی اہل قلم ہے جس نے فلسفے اور عیسائی فکر و نظر میں مقابعت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ از منہ وسطی کے عیسائی متکلام عیسائیت کے پردے میں فلاطینیوں کے افکار ہی کی تبلیغ کرتے رہے حتی کہ طاہم اکتوںس نے اوسطو سے افکار کی ابیت واضح کی۔ آج بھی کاسیانے روم کے علمِ کلام میں فلاطینیوں کی تعلیمات باقی و برقرار ہیں۔

مسلمان مفکرین خلافت عبادیہ کے عہد زربیں میں فلاطینیوں کے افکار سے متعارف ہوئے تھے کیون کہ انطا کیہ۔ تصویریں اور حران کے نسطوری عیسائیوں اور حایشین نے یونانی فلاسفہ کی کتابوں کو مربانی سے عربی میں ترجمہ کر دیا تھا۔ فلاسفین اور شام کے عیسائی مدارس میں جس فلسفہ، یونان کی تدریس ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر تو فلاطونی تھا۔ سریانی علماء اوسطو۔ فیثاغورس۔ بیرونیاتیس وغیرہ فلاسفہ یونان کی شرح تو افلاطونی افکار و عقاید کی روشنی میں کر رہے تھے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے سکندر افروذیسی نے نفسیات اوسطو کی شرح مذہبی نظر سے کی تھی۔ نتیجہ، وہ عربوں میں بڑی مقبول ہوئی۔ "النہیات اوسطو" کا عربی ترجمہ ۶۲۲ میں ہوا تھا۔ یہ اوسطو کی تالیف نہیں تھی بلکہ فلاطینیوں کے رسانیل کی آخری تین کتابوں کی تلخیص تھی جو نیجاح آمسوی نے لکھی تھی۔ عربوں نے شخصی سے اسے اوسطو کی

تصنیف سمجھے لی اور النہیات کے نو فلاطونی افکار ارسطو سے منسوب کر دیئے۔ اس طرح دنیاۓ اسلام میں افکار ارسطو کے پردے میں نو فلاطونی افکار کی خوب اشاعت ہوئی۔ اس "اسلامی نو فلاطونیت" کو این سینا اور این رشد نے ہایہ تکمیل تک پہنچایا۔ مسلمان صوفیہ ہر خاص طور سے نو فلاطونی تعلیمات کا گھرا اثر ہوا۔ چنانچہ جنید بغدادی۔ شہاب الدین سہروردی اشراق مقتول۔ شیخ اکبر محبی الدین این عربی حتیٰ کہ غزالی تک کے بنیادی افکار نو فلاطونی کم جا سکتے ہیں۔ نجیل کا نظریہ مسلمانوں میں بر کھبیں رواج پذیر ہو گیا۔ الکنڈی سے لم کر فارابی۔ اخوان الصفا۔ این سینا وغیرہ تک سارے فلسفہ اسلام کا منگ بنیاد ہیں نظریہ ہے۔ فلاسفہ اسلام نے سکندر افروادیسی کی پیروی میں عقل کل کو عقلی فعال کا نام دیا اور عقل انسانی کو عقل مستفاد کا۔ آن کے خیال میں عقل فعال ذات باری سے منفرع ہوئی ہے اور اس کے عمل سے عقل مستفاد کو فروع ہوتا ہے۔ انسان کوشش کرے تو عقل مستفاد عقل اول میں جذب ہو سکتی ہے۔ این رشد کہنا تھا کہ انسانی روح کا وہی حصہ باق رہے گا جو عقل اول یا عقل فعال میں جذب ہو جائے گا۔ اسے نظریہ وحدت عقل فعال کہتے ہیں۔ این رشد نے اس کا منطقی تیزید بھی قبول کر لیا اور حشر نشر سے انکار کر دیا۔ فرینک تھلیٰ کے الفاظ میں:

"مسلمان فلاسفہ کی رسانی ارسطو کی اصل تعلیمات تک نہ ہو سکی۔ وہ ان کی ترجمانی نو فلاطونی رنگ میں کرتے رہے۔ دراصل نو فلاطونی شرح کے پردے کو بٹا کر ارسطو کی تعلیمات تک پہنچ سکتا اس زمانے میں سخت مشکل تھا کیوں کہ وہ صدیوں سے شرح و ترجمانی کے ملیئے میں مددوں ہو چکی تھی۔ دو اصناف کو البتہ مستثنی کیا جا سکتا ہے: منطق اور ریاضیات، جن میں مسلمانوں نے اجتہادی اضافے کیے۔"

مسلمانوں کے تصوف پر نو فلاطونی افکار کے بڑے گھرے اور دور روس اثر ہوئے۔ بايزید بسطامی جو پہلے صاحب حال صوفی ہیں فنا فی الله کے مبلغ ہیں جنید بغدادی نے فلاطینوس کی پیروی میں ذات احمد کو حسن ازی اور محبوب اول کہہ کر بکارا اور عشق حقیق کو تصوف و سلوک کا لازمہ قرار دیا۔ حللاج کے خیلان میں اوتار کا آریانی تصور نہایاں ہے لیکن اس کا یہ خیال کہ انسانی روح میں روح کو جلوہ فرمایے فلاطینوس سے ماخوذ ہے۔ این عربی نے نظریہ وحدت الوجود اور فصل وجذب فلاطینوس سے لیا تھا۔ فلاطینوس کا خیال تھا کہ ذات احمد کائنات سے بے تعصی اور ساوراء بھی ہے اور اس میں طاری و ساری بھی ہے۔ این عربی نے یہو بھی کہا ہے۔ این عربی کا انتہا۔ افلاظون کا خیر محس اور فلاطینوس کی ذات احمد ابکہی مفہومہ میں استعمال کئی گئے ہیں۔ شیخ اکبر نے فلاطینوس کی عنق اول کو "حقیقت محمدیہ" کا نام دیا ہے۔ بسیارہ میں نو فلاطونیت کی ترویج رسائل

ادوان الصفاک اشاعت سے ہو فوجن سے این عربی نے بھی استفادہ کیا تھا۔ این عربی کے شاگرد رشید اور لے بالک مولانا صدر الدین قونوی مولانا روم کے استاد تھے۔ مولانا روم ایک مدت تک ان کے درس میں شریک ہو کر فتوحات اور نصوص پر ان کی شرح و توضیح سے فیض یاب ہوتے رہے۔ مشنوی مولانا روم میں فصل و جنب کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ این عربی کے واسطے سے فلاطینوس ہی کی صدائے بازگشت ہے۔ مشنوی کی ابتداء اس مشہور شعر سے ہوتی ہے ۵

بشنواز نے چوں حکایت میں کند از جدائیها شکایت میں کند

اس میں روح انسان کے اضطراب و التہاب کا نقشہ کوئینچا ہے جو اپنے نیستان پا مانند حقیقی میں دوبارہ جذب ہونے کے لئے ہے قرار ہے۔ اور اس کی جدانی میں نالہ و فریاد کر رہی ہے۔ عبد الکریم الجیلی نے اپنی کتاب ”انسانِ کامل“ میں این عربی کا نظریہ وحدت الوجود پیش کیا ہے۔ الجیلی بھی فلاطینوس کی طرح وجود مطلق کا نزول تین مراحل میں تسلیم کرتے ہیں البتہ انہوں نے عقل اول کو پورت (وہ ہونا) اور روح کو اینیت (میں ہونا) کے نام دیتے ہیں اسی طرح روح انسان کا صعود بھی ان مراحل میں دکھایا ہے جنہیں طے کر کے وہ انسانِ کامل بھی بن جاتی ہے۔ اور دوبارہ وجود مطلق میں جذب ہو جاتی ہے۔ مولانا روم۔ عراق۔ جامی۔ محمود شبستری بخار۔ سنانی۔ این الغارض وغیرہ صوفی شعرا کی پرسوز اور دلدوڑ شاعری نے ان دونوں لاطوفی افکار و تعلیمات کو اسلامی دنیا میں دور تک پھیلا دیا۔ صوفیہ کے اکثر مسلمانوں نے عامۃ الناس میں ان تعلیمات کی ترویج کی حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کے تکرار و احسان کا محور بن گئیں۔ این تیمید۔ شیخ احمد سر بنندی۔ محمد بن عبد الوہاب بھی وغیرہ کی مخالفت کے باوجود ایہی تک ان کا اثر و نفوذ باقی و برقرار ہے۔

فلاطینوس کے افکار و آراء ہر محاکمہ کرتے وقت اس حقیقت کا پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ ہر عظیم مفکر کے نظریات میں چند دوامی عناءور لازماً موجود ہونے یہ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ نئے نئے علمی اكتشافات قدماء کے بعض نظریات کو بدل دیتے ہیں اور بعض کو اوپام باطل ثابت کر دکھاتے ہیں۔ آج فلاطینوس کا علی کا نظریہ کون تسلیم کرے گا یا اس کی زربانیت۔ جذب و سکر اور نزول و صعود کو کون مانے گا۔ اس کی نفیسیات داسان پاریہ، بن چکی۔ اس کی اخلاقی قدریں فرسودہ ہو چکیں لیکن کائنات کے مقابلہ میں تعقق و تفکر کی جو دعوت فلاطینوس نے آج سے کم و پیش ذیلہ ہزار برس ہملے ہی تھی اس کی ابھیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

”میرا خیال ہے کہ فلاطینوس دوامی ستاہر عالم میں تفکر و تدبیر کی دعوت دینے میں حق بجا تھا تیکن آس کا یہ خیال غلط تھا کہ یہ تفکر ہیں کسی شخص کو ذیک بنائے کے نہیں کافی ہے۔ تفکر آس وقت مفید اور صالح ثابت ہوئا حب اس کا رشتہ عمل ہے استوار ہو گا۔ اس سے عمل کو تقویت ہوئی جائیے۔۔۔۔۔ ورنہ میں شخص فرار کے وسائل ہے۔۔۔۔۔“

ہر ٹونڈرسل کا یہ خیال صحیح ہے کہ تعقیق و تفکر سے عمل کو تحریک و تقویت ہوئی چاہیے لیکن اس خیال کا اظہار ہوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ عمل تعقیق و تفکر سے عاری ہو تو وہ انسان کو اپنے منصب سے گرا کر وحش کی سطح پر لے آتا ہے۔ اس دور کی مغربی تہذیب کا العیہ بھی ہے کہ مغرب میں صرف عمل ہی عمل رہ گیا ہے۔ اب مغرب ایک نہ ختم ہوئے والی دوڑِ دعوپ میں منہمک بین اور ادھر آدھر دیکھئے بغیر دیوانہ وار آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں۔

حسن ازل کا تصور جو فلاطینوس کے فکر و نظر کا محور تھا شاید آج قابلِ قبول نہ ہو لیکن آس کا یہ قول کہ حسن کی قدر صرف مُعنی عشاقد اور فلاسفہ بی جان سکتے ہیں آج بھی اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ صدیوں ہہلے تھا۔ دانتے کے طریقہ خداوندی کی جان "جلوہ حسن ازل" ہے جو دنیا نے ادب میں بے مثل سمجھا جاتا ہے۔ بہ خیال فلاطینوس ہی سے مستعار ہے۔ آج ہم پانی میں چاند کا عکس دیکھ کر شاید فلاطینوس کی طرح چاند کی تلاش میں سرگردان نہ ہوں لیکن چاند کے حسین عکس کو پانی میں دیکھ کر متاثر نہ ہونا تو ہمارے بھی اس کی بات نہیں ہے۔ اور اس حسین عکس کی طرف توجہ دلانا بھی کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے فن کاروں اور شعراء کو بھی اس سے زیادہ کی توفیق ارزانی نہیں پو سکی۔

تجربیت^۱ اور متعلقہ تحریکیں

تاریخ فلسفہ میں عقلی استدلالی اور حسیات کا مقابل شروع سے موجود رہا ہے۔ یونان قدیم کے وفاطمی حسیات کو عالم رہنمائی کا مأخذ سمجھوتے تو یہ جب کہ افلاطون اور اس کے ہم خیال کہتے تھے کہ ذین بذات خود مشابدے اور حسی تجربے کی صداقت کے بغیر صداقت کے انکشاف پر قادر ہے۔ سوفیسطانیوں کا خیال تھا کہ حقایق خواہ کتنے ہی بسیط اور مجرد کیوں نہ ہوں بہر صورت انسانی تجربے ہی سے لیے جاتے ہیں اس لیے صداقت صرف انسانی تجربے سے حاصل ہو سکتی ہے اور انسانی مشابدے اور تجربے کے ماؤراء صداقت یا حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پروتاغوروس سوفیسطانی کہتا ہے ”حسیات حصول علم کا وسیلہ ہیں۔“ سوفیسطانیوں نے صداقت کے ماتحت خبر کو بھی ازٹی قدر مانتے سے انکار کر دیا۔ غور جیسا سوفیسطانی کہتا ہے۔ ”ہر زمانے اور پر ماشرے میں اسی قسم کی نیکی پائی جانی ہے جو اس زمانے اور ماشرے سے مناسب رکھتی ہو۔“

سقراط نے سوفیسطانیوں کے ان خیالات کی تردید میں سارا ذر صرف کیا تھا۔ اور ازٹی و ابدی قدزوں کی طرف توجہ دلانی تھی۔ افلاطون اور ارسطو نے یعنی عقلی استدلالی کو اولیٰ ایمیت دی ہے۔ ان کے بعد مثالیت اور عقلیت کا چولی دامن کا مانہ ہو گیا اور یہ روایت جرم من مثالیت تک باقی رہی۔

زوی رومہ کے بعد یورپ میں اس عہد کا آغاز ہوا جسے مورخین تاریک صدیاں کہتے ہیں۔ اس زمانے میں عیسائی مقتدا بیان مذہب نے فلسفے کو مذہب کی کنیز بنا دیا اور اس سے اپنے مذہبی عقاید کی تائید و توثیق کا کام لینے لگے۔ طامن اکنوناس ایلارڈ وغیرہ نے افلاطون نور ارسطو کے نظریات ہی سے عیسائیت کی ابدی صداقت کا اثبات کیا ہے۔ تاریخ فلسفہ میں انہیں ”حقیقت پسند“ کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ یہی افلاطون کی طرح امثال کو حقیقی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ امثال مادی عالم سے ماؤراء ہیں۔ ان کے برعکس روسلین کا دعویٰ تھا کہ امثال مخصوص نام ہیں جو مختلف الشیاء کو دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقی وجود نہیں رکھتے۔ اس بنا پر روسلین اور اس کے برونوں کو ”اسماں“ کہتے لگے۔ ان فریقوں میں صدیوں تک نزاع جازی رہی جس نے بنیادی خیال یہ تھا کہ کون سا عالم حقیقی ہے؟ وہ عالم جس کا ادراک ہم اپنے

حوالہ سے کرتے ہیں یا وہ عالم جسے ہارا ذہن خلق کرتا ہے۔ تیرہوین صدی میں ایک انگریز عالم ولیم آکم نے روکیلیان سے اتفاق کرنے ہوئے کہا کہ خاص اشیاء ہی اصل حقائق ہیں اور جو عالم ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتا ہے وہی حقیقی ہے۔ امثال بعض تجربیدات ہیں جن کا حقیقی وجود کچھ نہیں ہے۔ امن طرح کائنات کی حقیقت سے متعلق دو نظریے وجود میں آئے۔ ایک جو افلاطون اور ارسطو کی روایت سے پادگار تھا اور جس کی رو سے امثال حقیقی ہیں اور دوسرا وہ جس کی رو سے کائنات کی حقیقی اشیاء خاص اشیاء ہیں جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آئی ہیں۔ پہلی روایت سے مذہب نے اپنی تصدیق کا کام لیا اور دوسری روایت نے جدید سائنس کی بنیادیں استوار کیں۔ یہ نظریہ کہ عالم امثال عالم اشیاء سے علیحدہ ہے اس میں عقیدے کے عین موافق تھا کہ خدا نے مادی عالم کو عدم سے پیدا کیا اور خود اس عالم سے ماؤراه ہی رہا۔ اہمیت کی ترویج سے اپل نظر حسیاتی تحریکات سے زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینے لگی اور جدید سائنس کا آغاز ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب تک اشیاء کو امثال کے ساتھ سمجھا جاتا تھا اپل علم امثال کو حقیقی سمجھ کر اشیاء میں چندان دلچسپی نہیں لیتے تھے لیکن جب اہمیت کی ترویج سے یہ خیال رامخ بوا کہ اشیاء حقیقی ہیں تو علماء مشاہدے اور تجربے کو بروئے کار لا کر ان کی اصنیت کے معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کوشش کے ساتھ انسان علم کلام کے دور سے نکل کر سائنس کے دور میں داخل ہوا سائنس میں گلیلیو اور فلسفی میں یہیں اس نے رجحان کے ترجیhan سمجھی جاتے ہیں۔

یہیں نے یہ کہہ کر کہ عالم کا مأخذ حسیات ہیں یا عام صرف انسانی تجربے سے حاصل کیا جاسکتا ہے تجربیت کی بنیاد رکھی۔ یہیں نے فلسفے کو مذہب سے جدا کیا اور کہا کہ مذہبی عقاید کی عقیداتی توجیہوں کی کوشش با علم کلام سے، صرف اور ہے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس عالم کی جملہ اشیاء حقیقی ہیں اور انہیں غیر متغیر فوائد مقتصر ہیں جن کی مدد سے کائنات کے رازوں کا انکشاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے "حقیقی عالم دوسرے لوگوں کے خیالات یا قدیم تصورات سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے" یا اس نے یہیں یہیں کی بعنوان میں سائنس اور فلسفے کو علم کلام کے تصرف سے نجات دلانے کی دعوت دی وہ کہا کہ حسیات ہی کو علم کا اصل مأخذ سمجھا جا سکتا ہے۔ انگریزی تحریکیت کا دوسرا مناز شارح جان لاک ہے۔ لاک (۱۶۲۴ - ۱۷۰۳) نیوٹن کا ہم عصر تھا اور نیوٹن ہی کی طرح وہ بھی تجربے اور مشاہدے سے عالمی نتائج اخذ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آکسفورڈ میں تعلیم پانی جہاں اسے کیمینٹری سے خاص دلچسپی تھی۔ فارغ تحصیل ہوئے اس نے طباعت کا پیشہ اختیار کیا۔ لاک نے یہیں سے اتفاق کیا کہ حرث ہڑے علم کا مأخذ ہے اور ازلی وابدی صفاتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی فلسفیانہ جستجو ڈا آغاز اس سوال سے کیا "انسان اشیاء کا یعنہ کیسے حاصل کرنا ہے؟" جواب میں وہ کہتا ہے کہ علم شخصیتی ممزکات سے حاصل ہوتا ہے۔ اس

یہ خیال میں ادراک ہی حصول علم کی طرف پہلا قدم ہے۔ دنیا یے فلسفہ میں یہ نظریہ
لما اقتلاع پرور تھا کیوں کہ صدیوں سے فلاسفہ علم کا مانند حیات سے ماوراء
عالم امثال میں تلاش کرنے آئے تھے۔ لاک نے افلاطون کی ازلی و جتی صفاتوں سے
انکار کیا اور کہا کہ ابتدا میں ذین انسانی ایک لوح سادہ کی طرح ہوتا ہے جس پر
برے اور مشاہدے سے تاثرات بیٹت ہوتے ہیں۔ اپنی اثرات پر ہمارا تمام علم مبنی ہے۔
لہذا ذہن ان تاثرات کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ضمیں وہ کہتا
ہے کہ صفات مثلاً گرمی۔ ذائقہ۔ رنگ وغیرہ شے میں نہیں بوتیں بلکہ ہمارے حتی
انداز کے باعث موجود ہیں جیسا کہ گلیاں نے کہا تھا کہ کچھ جلی پر میں نہیں پوچ
بلکہ میں ہوئی ہے۔

سیاستیں میں لاک کا نظریہ یہ تھا کہ بر شخص پیدائشی طور پر چند حقوق
رکھتا ہے جن میں سے تین سب سے اہم ہیں ۱۔ زندہ رہنے کا حق۔ ۲۔ آزاد رہنے کا حق
۳۔ حصول املاک کا حق۔ وہ بر شخص کو حصول املاک کا حق دیتا ہے لیکن اس
کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نانصاف ہوگی اس کی تھہ
بین املاک ہوگی۔ اسی کے الفاظ ہیں۔

”جہاں املاک نہیں ہوگی وہاں نانصاف نہیں ہوگی۔ بد بات اتنی ہی قطعی ہے
جتنا کہ اقليدیس کا کوئی مستند“

لاک کہتا ہے کہ عدل و انصاف کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے عوام اپنے بعض
حقوق سے دست بردار ہو جائے ہیں۔ سیاسی طاقت کا مانند عوام ہیں۔ حاکم کے پانہ
بین طاقت اسی وقت تک رہنی چاہیے جب تک وہ عدل و انصاف سے حکومت کرے۔
حاکم عوام کے خادم ہیں جنہیں بروطف کرنے کا حق عوام کو حاصل ہے۔ جو حاکم
انہی فرائض کو ادا کرنے سے قادر رہیں انہیں عوام ہر حکومت کرنے کا کوئی حق
نہیں رہتا۔ ان خیالات کے باعث لاک کو سیاسی آزادی اور عوام کی حاکمیت کا علم
بردار کہا جاتا ہے۔ وہ اس بات کو اچھا خیال نہیں کرتا کہ جو لوگ قوانین وضع
کریں وہی ان کی پابندی بھی کرائیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ مقننہ اور انتظامیہ کا
ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ اخلاقیات میں لاک ضمیر کے وجود کا
منکر ہے اور کہتا ہے کہ اخلاقی قوانین جبکی نہیں ہوتے بلکہ حیات کے واسطے سے
حاصل کیجئے ہوئے علم کی روشنی میں ہم جو صحیح یا غلط رائے قائم کرتے ہیں وہی
ضمیر ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں تحلیل نفس کے علماء نے ضمیر کے پیدائش
وجود سے انکار کیا ہے۔ لاک کے فلسفے پر تبصرہ کرتے ہوئے برٹنندز مل لکھتے ہیں۔

”لاک کا اثر نہایت دور رہ ہوا۔ شلوٹے کسی شخص کے متعلق کہا تھا
”اس کی پذیبوں میں اتنا گودا ہے کہ صدیوں تک ختم نہیں ہوگا۔“ بد بات لای
ہر صادق آئی ہے۔ بارکائے اور ہبوم اس کے بیروکار تھے۔ کانٹ اس سے متاثر
ہوا۔ اس کے اخلاقیاتی نظریے نے شافٹس ہری۔ بیہی سن۔ ہبوم اور آدم سمنہ
کہہ متاثر کیا روسو کے انکار ہر اس کا اثر نہایت ہے۔ والٹر نے اس سے ماسی

نظریات سے استفادہ کیا۔ لاک دور جدید کی روح کا نمائندہ ہے۔ آزادی، خیال آزادی رائے، انفرادیت، جمہوریت اور نقد و جرح کی روح کا ترجان ہے۔ بشپ بارکلے کا ذکر مثالیت پسندی کے ضمن میں آچکا ہے۔ اس نے مادیت اور العاد کے رد کے لئے لاک سے استفادہ کیا۔ لاک نے کہا تھا کہ تمام علم حقیقی ادراک سے حاصل ہوتا ہے بارکلے نے کہا کہ وہی اشیاء موجود ہو سکتی ہیں جن کا ادراک کیا جائے یعنی "موجود کا مطلب ہے مادرک ہونا" یہ کہہ کر اس نے عالم مادی کے وجود سے انکار کیا۔ اس کا ایم سوال تھا "کیا عالم مادی ذہن کے بغیر موجود ہے؟" جواب میں اس نے کہا کہ ذہن کے بغیر مادہ اپنا مستقل وجود نہیں رکھتا لہذا صرف ذہنی کوائف موجود ہیں۔ یہ کوائف میرے ذہن میں نہیں ہوں گے تو کسی نہ کسی کے ذہن میں موجود ہوں گے اور نہیں تو خدا کے ذہن میں تو لازماً موجود ہوں گے۔ اتنی ذہنی کوائف کے ربط و تعلق کا نام علم ہے۔ بارکلے کے انکار میں لاک کی نجربیت نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔

۶: ہوم نے جو اٹھا ہوں صدی کے تشکک کا امام ہے لاک اور بارکلے کے فلسفہ نجربیت کو منطقی ثابت تک پہنچا دیا۔ ہوم یہی لاک کی طرح کہتا ہے کہ انسان بخواہی انسانی علم کا مأخذ ہے اور ہمارا علم ظواہری دنیا تک محدود ہے۔ ہوم کہتا ہے کہ بارکلے بھی راستے ہی میں رہ گیا تھا کیون کہ پہنچنے خدا کا تصور بھی ترک کرنا پڑے گا۔ اس کے خیال میں ہم تو صرف ذہنی کوائف کے تسلسل کو جانتے ہیں جو ذہن انسانی پر تاثرات تبت کرتے رہتے ہیں۔ ہوم اس بارے میں بارکلے سے اتفاق کرتا ہے کہ صرف اتنی اشیاء کا وجود ہے جن کا ادراک کیا جائے مثلاً جب میں کمرے میں موجود ہوں تو میز کا وجود بھی ہو گا کیونکہ میں اس کا ادراک کرتا ہوں۔ کمرے سے باہر چلا جاؤ گا تو میز موجود نہیں ہوگی۔ ہم تو صرف ذہنی کوائف کے بہوں کو جان سکتے ہیں جو یک بعد دیگرے وارد ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا خدا یا عالم طبیعی کے وجود کی کوئی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہوم معجزات کا بھی مسکر تھا۔ کیون کہ اس کے خیال میں ان کی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے۔ بارکلے نے طبیعتیات میں سے جو پروگرام کو خارج کر دیا تھا۔ ہوم نے اسے نفیت سے بھی خارج کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ذات کا کوئی تاثر نہیں ہوتا اس لئے ذات کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں این بطور میں جہانگنکا ہوں تو مجھے کہیں بھی ذات کا کچھوچھ نہیں ملتا صرف کسی نہ کسی شے کے ادراک کا سامنا ہونا ہے۔ اس لئے انسان محض جنہیں مدد کات بھی کا مجموعہ ہے جو پیش، حرکت میں رہتے ہیں۔ ذات کے اس انکار سے روح کا تصور بھی کالمدعا ہو جاتا ہے۔

ہوم کے اثرات پڑے دور رس ہونے۔ ایسوں صدی میں اکست کوئنٹ 'ہنٹھ'

پرسن، ولیم جیمز نے اور ہمارے زمانے میں برٹننلرسل، ڈبوی اور لیوس نے اس سے استفادہ کیا ہے۔

ہم نے دیکھا کہ فلسفہ "تجربیت جدید سائنسی نقطہ نظر" کا آئینہ دار ہے۔ اس کا اصل اصول وہی ہے جو سائنس کا ہے یعنی حواس خمسہ سے ماؤراء کسی حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس میں انسانی مشاہدے اور تجربے پر کامل اعتقاد کیا جاتا ہے۔ عقلت پسند عقلی استدلال کو عالم کا عیار اور مأخذ سمجھتے رہے ہیں اور ازیٰ و ابدی صداقتوں کے قائل ہیں۔ تجربیت پسند کہتے ہیں کہ صداقت صرف انسانی تجربے سے حاصل ہوتی ہے اور ازیٰ قدروں کا وجود صرف عقیقت پسندوں کے ذہن میں ہے۔ آن پکے خیال میں عقلی استدلال حتیٰ تجربے کے بغیر بذات خود صداقت کے انکشاف پر قادر نہیں ہے کیونکہ ذہن حسیات کے دریبوں میں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ ذہن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ تاثرات میں ضبط و نظم پیدا کرے۔ عقلیت پرستوں کو شروع ہی سے یہ دقت پیش آتی رہی ہے کہ وہ فکر کے لیے مواد کہاں سے ایں۔ آخر کچھ مواد تو ہوگا جس پر ذہن اپنا عمل کر سکے اور تجربہ۔ انسانی کے بغیر آئے یہ مواد کہاں سے مل سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کے دو پہلو ہیں بیث اور موضوع۔ خالص عقلیت پرستی صرف موضوع کو درخور توجہ سمجھتی ہے۔ بیت بغیر موضوع کے کھوکھلی رہتی ہے اور موضوع بغیر بیث کے انتشار ان جاتا ہے۔ علم ان دونوں کے باہمی ربط و تعلق ہی کا دوسرا نام ہے۔

جدید دور کے مکاتب فکر میں نتائجیت، ایجادیت، منطقی تحلیل، منطقی ایجادیت، اور اصالت عمل، تجربیت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس لیے ان کا ذکر تجربیت پسندی کے ضمن میں کرتا مناسب ہوگا۔

ایجادیت کا بانی فرانس کا ایک مفکر اگست کوانت تھا۔ وہ ایجادی علم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حقیقی - قطعی - مفید - یقینی اور مثبت علم کو ایجادی کہا جا سکتا ہے۔ ایجادیت ایک ذہنی کیفیت ہی ہے اور نظام فلسفہ ہی ہے۔ ایک ایجادی تمام علمی عقدوں کو ایک ایک کر کے سلسلہ تھا اور "آفاق مسائل" سے اتنا نہیں کرتا۔ ہی نقطہ نظر ایک سائنس دان کا ہی ہے۔

اگست کوانت یہ کہنے اور لاک کی طرح مشاہدے اور تجربے کو عالم کا مأخذ خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم انسان یا کائنات کے بطون کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ ہم تو صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات کی کل کس طرح چل رہی ہے۔ ہی ہزاراً مبلغ علم ہے اور ہی کچھ بھی جانشی کی ضرورت ہوئی ہے۔ کائنات میں انسان کا جو مقام ہے اس کا تعین انسانی مشاہدے اور تجربے کی روشنی ہی میں کیا جاسکتا ہے۔ کوانت انسان کو مرکز کائنات مانتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ

انسان کے تجربے میں آتا ہے وہی حقیقی ہے - دوسرے الفاظ میں خالص تجربہ ہی خالص حقیقت ہے - اس لیے انسان اپنے تجربے کی بنا پر ہی کائنات سے متعلق کوئی نظریہ قائم کر سکتا ہے - ایک ایجادی کے ہاں کائنات وہی ہے جو انسانی تجربے میں آئے - حقیقت کبریٰ یا جو پر قائم بالذات کی جستجو لا حاصل ہے - انسان اپنے تجربہ اور مشابدات کی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا اس لیے مابعد الطبیعی بعثوں میں الجهنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ کونت کے خیال میں خدا پر ایمان لانا یا کسی وجود مطلق کو مانتا پہارے تجربے سے متباہز ہے - کونت صرف ایک ہی وجود مطلق کو مانتا ہے اور وہ ہے انسانیت عالیہ - انسان کی خدمت اور اس کی فلاح و بہبود کی کوشش ہی اس کے ہاں نیک ہے۔ اس طرح آس نے رواتی مذہب کو مانتے سے انکار کر دیا ہے - آس کا عقیدہ ہے کہ ایجادی فلسفی کی انشاعت ایجادی مذہب کے فروغ کا باعث ہوگی - یہ مذہب انسانیت عالیہ کا ہوگا اور اسے "کایسا نے روم بغیر عیسائیت کے" کہا جائے گا۔

کونت کا تاریخی نظریہ یہ ہے کہ ذہن انسان تین ارتقائی مرحلے سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ مذہب کا تھا جس میں واقعات کی توجیہ کسی بیزدائی قوت کے حوالے سے کی جاتی تھی - دوسرا مرحلہ مابعد الطبیعیات کا تھا جس میں واقعات کی توجیہ مختلف قوتوں کی نسبت سے کی گئی - تیسرا اور آخری مرحلہ سائنس یا ایجادیت کا ہے کہ اب واقعات کی تشرع و توجیہ سلسلہ سبب و سبب سے کی جا رہی ہے - یہی انسانی عقل و خرد کی معراج ہے - مذہب اور مابعد الطبیعیات فسانہ پارینہ بن چکے ہیں - اب خدا یا حقیقت کبریٰ یا وجود مطلق کی جستجو بے حاصل ثابت ہوگی۔

نتابغت کی پیش قیاسی کرتے ہوئے کونت نے کہا ہے کہ اصل علم وہ ہے جو مفید مطلب اور کارآمد ثابت ہو - وہ علم کے نظریات کو درخور توجہ نہیں سمجھتا بلکہ اس بات کی جستجو کرتا ہے کہ کون سا علم انسانی زندگی میں عملانہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے - وہ علم کے عملی پہلوؤں کو اہم سمجھتا ہے کیون کہ بقول آس کے سائنس ہمیں یہ تو بتا کر ہے کہ واقعات کیسے روئما ہوتے ہیں یہ نہیں بتا کہ کیوں روئما ہوتے ہیں -

الہارہوبن صدی کے فرانسیسی قاموسیوں کی طرح کونت بھی ذہن کو مادے کا ایک جزو یا فرع قرار دیتا ہے - وہ کہتا ہے کہ نفسیات واردات و کیفیات مغز سر کا فعل ہے - اس کے مسلک میں ذہن یا روح کا کوئی وجود تسلیم نہیں کیا جاتا کیون کہ انہیں بعض مابعد الطبیعیات مفروضات خیال کیا جاتا ہے - اس کے خیال میں ہم اپنی نفسیات کیفیات کا داخلی مشابدہ نہیں کر سکتے - ہم صرف معروضی طریقے ہی سے نفسیات واردات کا مشابدہ کر سکتے ہیں - یہی خیال بعد میں ڈاکٹر والسن کے اصالت عمل کا اصل اصول بن گیا تھا -

قاموسیوں کی طرح کونت کو بھی انسانی ترقی پر کامل اعتناد ہے - وہ کہتا ہے کہ بنی نوع انسان سائنس کی بدولت ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں

گے۔ عمرانیات اور مسلک اپنار کی ترکیبیں بھی اسی کی وضع کی ہوئی ہیں۔ وہ انسانیت عالیہ کے نصب العین کی عملی ترجیحی کو ترق کا نام دینا ہے اور قدیم مذہبی اور مابعدالطبیعیاتی روایت کو ترق کے راستے میں حائل خیال کرتا ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے۔

”مردے زندوں پر حکومت کر رہے ہیں“

ہمارے زمانے میں درخائیں اور لیوی بروہل نے کونٹ کے عمرانی نظریات کی نئے سرے سے ترجیح کی ہے۔ تین اور رینان بھی اسی روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کونٹ کے افکار نے امریکہ کے نتائجیت پسند فلاسفہ ولیم جیمز اور ڈبوی اور دوسرا سے دور کے تجزیتی پسندوں سوارث مل اور بتھم کے نظریات پر بھی گھرے اثرات ثبت کیے ہیں۔ دوسرے دور کی انگریزی تجزیت کا سب سے مناز فلسفی جان سوارث مل (۱۸۰۶ - ۱۸۴۳ع) اگست کونٹ کا بڑا مذاہ تھا۔ اس کے والد جیمز مل اور جیرسی بتھم (۱۸۲۳ - ۱۸۸۷ع) کونٹ کے افکار کی اشاعت سے پہلے اپنے نظریات مرتب کر چکے تھے ہر حال سائنس کی ترق اور ایجادیت کے باعث تجزیت کو دوبارہ انگلستان میں اشاعت پذیر ہونے کا موقع مل گیا اور لاک اور ہبوم کی روایت جان سوارث مل کی منطق میں نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ اس دور کی انگریزی تجزیت اور ایجادیت میں اقدار مشترک امن قدر زیادہ ہیں کہ بعض مورخین فلسفہ اول الذکر کو ثانی الذکر ہی کی شاخ تصور کرتے ہیں دونوں مکاتب فکر میں حقایق^۲ کو قابل تفسیجہا جاتا ہے۔ اور سائنسی طریق تحقیق کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ دونوں مابعد الطبیعتیات کے مخالف ہیں۔ دونوں معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور انسان ترق اور سرت کو اخلاقیاتی نصب العین مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایجادیت انسانی علوم کی ترتیب و تنظیم کو اہم سمجھتی ہے اور سوارث مل کی تجزیت میں نفسیات اور منطق پر زور دیا گیا ہے۔

سوارث مل کے پیش نظر سیاسی اور معاشری اصلاح کا نصب العین تھا اور وہ معاشرے کے ترق برور رجحانات کا ترجیhan تھا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے وہ مناسب تعلیم و تربیت کو نہایت اہم سمجھتا تھا۔ اس کے سوچا سمجھا ہوا عقیدہ تھا کہ تعلیم و تربیت سے انسان کے خیالات کو بدلا جاسکتا ہے اور خیالات کے بدلتے جانے سے کردار بھی بدلتا ہے۔ البتہ صحیح علم کے حصول کے لیے صحیح وسائل کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اپنی وسائل کا تجزیہ اس نے اپنی مشہور تالیف ”منطق“ میں کیا ہے جس میں تجزیت کے بہترین اصول ملتے ہیں۔ سیوارث مل کا منافقی نظریہ تمام تر ذہنی واردارت کے ربط و تعلق برہنی ہے مثلاً مجید جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے کیون کہ اس کے تجربے میں جلنے اور جلانے کا عمل ہے یک وقت ظہور میں آنے ہیں۔

اخلاقیات میں شوارث مل جیرمی بنتهم کی طرح افادت کا قائل ہے اور اسی کی طرح "زیادہ سے زیادہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ مسرت" بہم پہنچانے کو اخلاقیات کا نصب العین قرار دیتا ہے۔ اپنی تایف "افادت" میں اس موضوع پر بحث کرنے ہوئے کہنا ہے کہ چونکہ صرف لذت کی خواہش کی جاتی ہے اس لیے لذت بھی مستحسن ہے۔ یہ ایک فکری مغالطہ ہے کیونکہ محض خواہش کرنے سے کوئی لذت مستحسن نہیں ہو سکتی۔ اس کے میں وقوع کا معیار خواہش سے خارج میں ہے۔ بنتهم اور شوارث مل کی افادت میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب ہر قانون ساز اپنی ہی لذت اور مسرت کی جستجو میں ہوگا تو وہ دوسروں کی لذت یا مسرت کے لیے قوانین کیسے بنائے سکے گا اور افراد کی مسرتیں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکیں گی۔ بنتهم اور مل کے نظریات میں فرق یہ ہے کہ بنتهم مسرت کا راز شخصی افادے میں تلاش کرتا ہے جب کہ شوارث مل اس کی بنیاد معاشری جذبات پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ اسے بنتهم کے اس خیال سے بھی اختلاف ہے کہ لذت خیر ہے اور اذیت شر ہے کیونکہ بعض حالات میں خیر اذیت سے وابستہ ہوئے ہے اور لذت شر کا لازمہ ثابت ہوئے ہے۔

شوارث مل کا زمانہ آزادی رائے کا دور تھا جب فرانس میں میرابو نے آزادی فکر و رائے کا علم بلند کر رکھا تھا۔ ان مفکرین کا خیال تھا کہ رائے کے قائم کرنا اور اس کے اظہار کے حقوق پیدائشی ظور پر ہر انسان کو حاصل ہیں۔ کسی حاکم کو کسی صورت میں بھی انسان کے یہ حقوق سلب کرنے کا اختیار نہیں دیا جاسکا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب خوشحال متوسط طبقہ جاگیر داروں کے استبداد سے آزاد ہو چکا۔ انگلستان میں شوارث مل آزادی خیال کا فلسفی ترجیح سمجھیا جاتا تھا۔ اور یہ خیال تھا کہ افراد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح سے وابستہ ہے۔ جب تک کہ معاشرے کی اصلاح نہیں کی جائے گی افراد کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتے گی۔ بہترین معاشرہ وہ ہوگا جس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کام کرے گا۔ پقول ابر کے "جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں کہائے گا۔" مل عورتوں کی آزادی کا ہر جوثر حاصل تھا اور کہا کرتا تھا کہ عورتوں کو آزادی سے محروم کر کے اتنا لفڑان عورتوں کو نہیں پہنچتا کہ معاشرے کو پہنچتا ہے۔

امریکی نtalibiyat کا شارح ولیم جیمز، 'لیک پیوس' کانٹ، پیرس اور کونٹ کے انکل کا جامع ہے۔ جب سی۔ ایس پیرس نے عقلیت پرستی کے خلاف قام الہایا تو اسے اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے کانٹ سے لفظ Pragmatic مستعار یا تھا جو بر اس کے مکتب فکر کا نام نtalibiyat پڑ گیا۔ جہاں تک معروفی عالم کے تعلق ہے کانٹ بھی نtalibiyat پسند تھا۔ "تفصیل عقلی محض" میں وہ کہتا ہے کہ پہ روح کی بنا قدر و اختیار اور وجود باری کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ان پر ایمان لانا اس نے ضروری ہے تا کہ بھم اخلاقی زندگی گزار سکیں۔ پیرس اور کانٹ کے علاوہ ولیم جیمز، چارلز

رینوویر کی تعلیم سے بھی متاثر ہوا جو احادیث کا منکر اور کثرت پسندی کا قائل تھا۔ جیمز کہتا ہے کہ رینوویر کی کثرت پسندی نے اسے "احادیت کے عفریت" سے بچا دلائی تھی۔ جرمن احادیث پسند انسان کو وجود مطلق کے سامنے بے بس اور مجبور بخشن سمجھتے تھے۔ ان کے نظریے کی رو سے انسان قدر و اختیار اور جد و جہد سے عاری ہے۔ جیمز نے اسی جریت کے باعث بیگل کی احادیث کو رد کر دیا تھا۔

ولیم جیمز کسی صداقت مطلق کا قائل نہیں ہے۔ وہ 'وجود مطلق' کو 'ابعدالطبعیات عفریت' کا نام دیتا ہے۔ اس کے خیال میں بر صداقت ان احوال کے ساتھ انساف ہے جن سے وہ ظہور پذیر ہوئے ہے۔ جب یہ احوال بدلتے ہیں تو صداقت الہی بدلتے ہے۔ صداقت کو بدلتے ہونے احوال کے ساتھ بدلتا ہی بڑتا ہے۔ ولیم جیمز کوئی قطعی نظام فکر بیش نہیں کرتا۔ اس کے نظریے میں مثالیت، حقیقت پسندی اور تصوف کے افکار پہلو بہ پہلو ملتے ہیں۔ وہ کسی جوہر قائم بالذات کو تسلیم نہیں کرتا اس کے خیال میں وہی اشیاء مونشو بحث بن سکتی ہیں جو انسانی تجربے سے لی گئی ہوں۔ جیمز کہتا ہے کہ ایسی اشیا کا وجود ممکن ہو سکتا ہے جو انسانی تجربے سے ماوراء ہوں لیکن انہیں فلسفے کا موضوع نہیں بنایا جاسکتا۔ جس شے کا انسانی تجربے سے کوئی واسطہ نہیں اس پر غور و فکر کا کرنا بے مصروف ہے۔ فلسفے کا مقصد محض یہ معلوم کرنا ہے کہ کون ساعیہ زندگی کے سنوارے میں مدد ملے سکتا ہے۔ جیمز کے لیے نتائجیت ایک طریق فکر ہے جس کا مقصد کسی نوع کی ازلی صداقت کا کھوج لکانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بات سے انسانی تجربے یا طرزِ عمل میں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آیا وجود مطلق ہے یا نہیں ہے۔ جیمز کا حقیقی عالم تجربات انسانی کا عالم ہے جس میں انسانی قدریں اور سائنس دونوں شامل ہیں۔ اس عالم کے ماوراء فکر کی پرواز ممکن نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس سے ماوراء کوئی عالم اور بھی ہو لیکن انسان اسے جاننے سے قادر ہے۔ تفکر خلا ہیں نہیں ہوسکتا نہ زندگی سے الگ بو کر فکر کرنے کی کوشش مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ اس کے خیال میں انسانی تجربہ ہی حقیقت ہے۔ وہ اگست کوونت سے اتفاق رائے کرتا ہے کہ صرف انسانی مشاپدہ اور تجربہ، ہی علم کا اصل مأخذ ہے۔ اس سے صرف نظر کر کے کسی نوع کا علم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نظریے کی صداقت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی انسانی ضرورت یا حاجت کی تشفی ہو سکے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں کارآمد ثابت ہوسکے۔ چونکہ عقاید و نظریات کی احادیث ایک عہد سے دوسرے عہد تک پہنچی رہتی ہے اس لیے معروضی یا ازلی صداقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بنتهم نے کہا تھا "احادیث ہی ہر شے کا معیار ہے" لیکن کا قول ہے "وہ قاعدہ جو عملاً سب سے زیادہ موثر ہوتا ہے نظریے میں بھی سب سے زیادہ موثر ہوتا ہے۔" نتائجیت بھی کسی صداقت کو جانپنے کے لیے عملی افادیت

کے معیار کو ضروری سمجھتی ہے۔ جس عقیدے سے مفید نتائج برآمد ہوتے رہتے ہیں وہی صفات کا حامل ہوسکتا ہے۔

نتائجیت میں ارادت کی روایت بھی خاصی اہم ہے۔ ولیم جیمز کا خیال ہے کہ عقل و خرد کو پر وقت عمل کی خدمت پر کمر بستہ رہتا چاہیے۔ اور عالم کو زندگی کے تناقضے ہوئے کرنا چاہیے۔ فلسفہ زندگی کے لیے ہے زندگی فلسفے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح نتائجیت میں عمل کو تفکر پر اور ارادے کو عقل پر فوقیت والیت دی کہی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں نتائج حاصل کرنے کے لیے نتائجیت عقل کی بجائے ارادے سے رجوع لاتی ہے بلکہ فکر کو بھی عمل ہی کی ایک صورت سمجھتی ہے۔ جیمز کہتا ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے فکر کرتے ہیں اس لیے فکر زندگی گزارنے کا ایک آہ ہے۔ وہ عقاید کو جانپنے کے معیار سے زیادہ عقاید کے مأخذ میں دلچسپی لیتا ہے اور اس کا میلان واضح طور پر ارادت کی طرف ہے۔

جیمز مذہب کو بھی نتائج کی کسوٹی پر پر کہتا ہے۔ اپنے ایک مقالے "عقیدہ رکھنے کا آہ" میں وہ کہتا ہے کہ ایمان کا جو پر نہ جذبہ ہے نہ عقل ہے بلکہ "ایمان لانے کا ارادہ" ہے جسے سائنس کے طریقوں سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ مذہب میں کسی "صدقافت مطلق" کا کھوچ نہیں لکایا جاسکتا البتہ یہ سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ کیا خدا، حیات بعد نہیں اور قدر و اختیار پر عقیدہ رکھنے سے ہمیں کوئی عمل فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کیا ان عقاید میں کوئی قدر موجود ہے۔ اگر جواب اثبات میں اس لیے ہیں کہ یہ انسان کو نیک بنانے اسے مسرت بخشنے میں مدد دینے ہیں۔

نتائجیت کا دوسرا مشہور شارح ڈبوی ہے جو جیمز ہی کی طرح فکر انسان کو محض ایک آہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فکر معدے یا ثانیگون کی طرح کا ایک آہ ہے جس کی مدد سے انسان زندگی کے عقدے حل کرتا ہے۔ اس کے خیال میں وہی نظریہ صحیح ہے جو کامیابی سے ہم کنار کرے۔ کسی نظریے کی عملی کامیابی کی طرف رہنافی ہی اس کی صفات کا واحد معیار ہے۔ ڈبوی کہتا ہے کہ انسان اپنے مشاہدے یا تجربے سے ماوراء نہیں جاسکتا۔ یہ کوشش احمدانہ بوگی۔ اس کے خیال میں کائنات ایک پدلتی ہوئی نشو و نما باقی پوئی ترق پذیر ہے جس کے مشاہدے سے انسان تجربے میں برمد اضافہ پوتا رہتا ہے۔ ایک فکر کے لیے تجربات انسانی ہیں ابیت رکھتے ہیں۔ اس کا کام محض یہ دیکھنا ہے کہ یہ تجربات کیسے ایک دوسرے کو متاثر کرنے رہتے ہیں۔

ڈبوی کہتا ہے کہ فکر کا عمل مسائل اور عقدوں کی تحلیل کا عمل ہے کیوں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی حل طلب نہ ہو۔ ڈبوی کے معتقدین کہتے ہیں کہ اس نے فکر کو آہ کہہ کر اس کے صرف ایک ہی پہلو سے اختنا کیا ہے اور ان کا کار کی تخلیقی فکر کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں فکر یعنی عقدے سلجھانے کا ایک آہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک

تقلیق پھلو بھی ہے جو فنون لطیفہ کے شاپکاروں کا عنصر ترکیبی سمجھا جاسکتا ہے۔ انگلستان میں بروفسر شر نے نتائجت کی ایک نئی صورت پیش کی اور اسے "انسان پسندی" کا نام دیا۔ اس کے استدلال کا یہاصل ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے لیے معیح ہے اسے کسی مافوق النظرت ہتی کے بجائے انسان مقاد ہی کی بروشوں کرنا چاہیے۔

نتائجت پر نقد لکھتے ہوئے ایک اطالوی مورخ رگیرو کہتا ہے "نتائجت نے امریکہ میں جنم لیا جو ایک کاروباری ملک ہے اور یہ خالصتاً ایک کاروباری ملک ہی کا فلسفہ ہے" اس میں شک نہیں کہ عملی کامیابی، نتیجہ خیری اور افادت کو افکار کی صداقت کا واحد معیار قرار دینا کاروباری ذہنیت ہی کا کرشمہ ہے۔ برٹنڈریس میں نتائجت کے ایک اور پھلو کی طرف توجہ دلانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی نتائجت کا آغاز آزادی کے تصور سے ہوا تھا لیکن وقت رفتہ یہ فلسفہ حصول اقتدار پر منتج ہوا۔ ان کے الفاظ میں "نتائجت کھر میں جمہوریت اور گھر کے باہر سماج کو قائم کرنا چاہتی ہے"۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی نئی طاقتور فرد کو سراہا ہے لیوی جماعت کی قوت کا پرستار ہے۔ جماعت کی قوت سے اس کی مراد امریکی سرمایہ داروں کی طاقت ہے جو انہی سرمائی کے بل پر تمام دنیا پر چھانا چاہتی ہے۔ امریکی سرمایہ داروں کے ملکی عزائم کو نتائجت سے تقویت ہوئی۔ امریکہ کے سرمایہ داروں کی ایک دلیل یہ یہی ہے کہ اگر وہ اقوام عالم پر سماج اور تجارتی استبداد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کامیابی بذات خود اس بات کا ثبوت ہوگی کہ ان کا سماجی استبداد حق و صداقت پر مبنی ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ تحریت فلسفی میں سائنس کے نقطہ نظر اور طرزِ تحقیق کو رواج دینے کی ایک کوشش تھی۔ دور جدید کے مکاتب فکر نو حقیقت پسندی۔ منطقی تحلیل۔ منطقی ایجادیت۔ وغیرہ اسی روایت کے ترجمان سمجھئے جا سکتے ہیں۔

حقیقت پسندی کی روایت جرمن فلسفی پربارث سے شروع ہوئی تھی جس نے پہلی کی عقیلیت پرستی سے اختلاف کیا تھا۔ برٹنڈریس، ڈریک اور منٹھے آنا نے اسے تقویت بخشی۔ نو حقیقت پسندی میں ان تمام نظریات کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو وجود مطاق یا ذات احمد کا ذکر کرتے ہیں۔ مثالیت پسندی کی رو سے ذہن ان تمام اشیاء کا خالق ہے جو بظاہر مادی دکھانی دیتی ہے۔ مثالیت پسند ذہن کو حقیقی ماننے ہیں اور مادے کو ذہن کی خلائق قرار دینے ہیں ان کے خیال میں مادہ اپنے وجود کے لیے ذہن کا محتاج ہے۔ نوحقیقت پسند کہتے ہیں کہ ذہن اور مادہ دونوں ہی مادی ہیں اور ذہن بھی مادی عالم کا ایک جزو ہے۔ ڈریک ایک حقیقت پسند کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اشیاء ہمارے عنم سے آزادانہ حیثیت میں موجود ہیں

اور اپنے وجود کے لئے ہمارے ذہن کی محتاج نہیں ہیں۔ نوحتیقت پسندوں کے خیال میں انسان کی دانش مندی بھی ہے کہ وہ کائنات میں اپنے اصل مقام کو پہچانے اور اس شعور کی روشنی میں زندگی بسر کرے۔

نوحقیقت پسندی کی رو سے خارجی عالم حقیقی عالم ہے اور اسے جانا جا سکتا ہے۔ برٹرنڈ رسل اس تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نظریے کی رو سے (۱) اشیاء اپنے وجود کے لئے کسی ذہن کی محتاج نہیں ہیں (۲) عالم ایک نہیں متعدد ہیں اور صحیح علم تحلیل و تجزیہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ (۳) احادیث کا نظریہ سہیل ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے کیونکہ یہ شر کو خیر کے ساتھ ایک ہی وجود میں سرکوز کر دیتا ہے۔ مثالیت پسند کہتے ہیں کہ محسوسات و مدرکات کلی طور پر ذہن سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ منطقی لحاظ سے وہ ذہن اور اشیاء دونوں سے متعلق ہیں۔ برٹرنڈ رسل کہتے ہیں کہ یہ امر بدیہی ہے کہ اشیاء پہلے سے موجود ہوئے ہیں اور بعد میں آئنیں جانا جاتا ہے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اشیاء کو جانا جائے جو علم و شعور سے علیحدہ موجود ہیں۔ مثالیت پسند کہتے ہیں کہ ذہن اشیاء کا خالق ہے حالانکہ ذہن اشیاء کو پیدا نہیں کرتا بلکہ آئنیں معلوم کرتا ہے۔ برٹرنڈ رسل نے اپنی طویل عمر میں کئی مسائل فلسفہ، اختیار کیے ہیں یا اپنے نقطہ نظر کو کئی نئے نئے نام دیے ہیں۔ آنے کا منطقی تحلیل کا نظریہ جدید طبیعتیات اور ریاضیات پر مبنی ہے اور اضافت سے متاثر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید طبیعتیات نے مادے کو کم مادی، اور ذہن کو کم ذہنی، بناتا ہے۔ وہ ذہن اور مادے کی تفریق کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تفریق اور دوئی مذہب سے یادگار ہے۔ آنے کے خیال میں جدید فلسفہ، خود کو مائنٹس سے علیحدہ نہیں سمجھتا نہ عالم کو ایک عضویاتی کل قرار دیتا ہے نہ کائنات کا مطالعہ کلیاتی انداز میں کرتا ہے۔ جدید فلسفہ مائنٹس کی طرح مسائل اور عقدوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کر کے آنے کی تحلیل کرنا چاہتا ہے۔ آنے کے خیال میں مائنٹس اور فلسفے میں فرق محض امن بات کا رہ گیا ہے کہ فلسفے کے مسائل زیادہ عمومی ہوتے ہیں اور نیز یہ انسانی قدروں سے اعتنایا کرتا ہے۔ برٹرنڈ رسل نے واٹ بیڈ سے مل کر منطق کو ریاضیات کے اصولوں کو از سر نو مرتب کرنے کی کوشش بھی کی ہے تاکہ وہ مائنٹس کے قریب تر آجائے۔

منطقی ایجادیت کا مکتب فکر بھی تحریکیت کی روایات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے "حلقد" یعنی آنا، بھی کہا جاتا ہے جسے میرٹز شلک نے ۱۹۲۸ء میں منظم کیا تھا۔ اس حلقد کے دوسرے ممتاز مفکر روڈلف کارناب۔ اوٹو نیورنہ۔ پی فرینک اور کے گوڈل تھے۔ انگلستان میں اسے اے۔ جے۔ آئر اور امریکہ میں سی ڈبلیو مورس اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ منطقی ایجادیت پسند مابعد طبیعتیات کو بے معرف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مائنٹس کے جملہ شعبوں میں جو تحقیقی نتائج حاصل ہوتے ہیں آنے کی اس طرح منطقی ترجیحی کی جائے کہ ان سب کے لئے ایک ہی زبان

صورت پنیر ہو تاکہ علمی انکشافات میں بک جھی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ منطقی ایجادیت پسند تسلیم کرنے یعنی کہ عقل انسان بعض اہم ترین مسائل اور عقدوں کا کوفی شافی و کافی حل پیدا نہیں کر سک لیکن وہ بھی ماننے کو تیار نہیں یعنی کہ عقل سے بالآخر بھی کوفی ایسا وسیلہ تھبیلِ عام کا وجود ہے جو آن حقائق کا انکشاف کر سکے جو عقل اور سائنس کی دسترسی سے باہر یعنی۔ آن کے خیال میں فلسفے کو صرف معانی کے تعبیزیے اور فتوحات کی منطقی ساخت کے انکشاف پر قناعت کرنا چاہیے باقی سب کچھ سائنس پر چھوڑ دینا چاہیے۔

امن میں شک نہیں کہ جدید طبیعیات کے انکشافات نے تحریت کے بعض اہم پہلوؤں کی نفی کر دی ہے لیکن جہاں تک انداز نظر اور طرز تحقیق کا تعلق ہے اس کی بدولت فلسفہ سائنس کے قریب تر آ گیا ہے۔ اب فلاسفہ قدماء کی طرح گوشہ تنهائی یعنی بیٹھ کر تحریری خیالات کے تابے تابے نہیں بنتے بلکہ سائنس کے دوش بدیوش اپنے فکر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے موضوعات فکر عملی زندگی میں تلاش کرتے ہیں۔

ارادیت

تاریخ فلسفہ میں ارادیت^۱ کو فلسفیانہ رومانیت بھی کہا گیا ہے۔ انہار ہوئی صدی عیسوی میں خرد افروزی کی جو تحریک فرانس میں ہبھی تھی اُس کا ذکر ہم مادیت پسندی کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ والٹر۔ لامتری۔ دیدرو۔ ہولباخ وغیرہ قاموں میں نے عقل و خرد اور سائنس پر کامل اعتناد کا اظہار کیا تھا۔ آن کا استدلال یہ تھا کہ عقل انسان کو حیوانات سے ممتاز کرنے ہے اُن لیے عقل ہی تہذیب و تمدن کی اساس ہے اور اسی کو بروئے کار لا کر ترق پنیر معاشرہ انسانی قائم کیا جا سکتا ہے اُن کے بر عکس روسونے کہا تفکر و تدبیر کا عمل غیر فطری ہے کہ انسان کو فطرت سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ تفکر کو خیر پاد کرے اور فطرت کی جانب لوٹ جائے۔ اُن خرد دشمنی کے باعث روسو کو رومانیت کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ رومانی تحریک شاعری میں جذبات کے پر جوش اظہار۔ علم میں سائنس کی مخالفت۔ اخلاق میں انانیت و انفرادیت۔ سیاسیات میں استبداد اور فلسفے میں خرد دشمنی کی صورت میں نمودار ہوئی۔ دنیا نے ادب میں اُن کے اولین ترجمان پرڈا۔ گونئی اور شلر تھیں، فلسفے میں کانٹ کے واسطے سے رومانیت شوپنھائیر اور نشترے کی ارادیت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

کانٹ روسو کا بڑا مذاح تھا۔ اُس نے روسو کی ہم نوائی میں خرد افروزی کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ کانٹ کے افکار میں عقل اور ارادے کے درمیان مقاومت نہ ہو سکی، اُن تضاد نے دو فلسفیانہ تحریکوں کو جنم دیا۔ (۱) جرمتوں کی عقلياتی مثالیت پسندی جس کا مشہور شارح پیگل تھا۔ پیگل کے خیال میں خود شعور ذہن ہی حقیقت کبریٰ ہے نتیجہ رجائی نقطہ نظر پیدا ہوا یعنی جو کچھ بھی صحیح معنوں میں موجود ہے وہی خیر ہے۔ (۲) شوپنھائیر کی ارادیت اُن کی عین ضد ہے شوپنھائیر نے شعور اندھے ارادے کو حقیقت قرار دیتا ہے اور عقل کو ارادے کی سطحی اور ذیلی حالت سمجھتا ہے۔ نتیجہ اُس کا نقطہ نظر قنوطی ہے یعنی زندگی دکھ ہے۔ یہ خیال شوپنھائیر اور نشترے کی خرد دشمنی کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ آنسیوں

(۱) Voluntarism یہ نظریہ کہ ارادہ (Will) کائنات کا اصل اصول اور حیات کا محرك اولیں ہے۔

صدی کی خرد دشمنی الہارہوں صدی کی خرد افروزی کے خلاف رومانی ردعمل کا نتیجہ تھی۔

آرٹھر شوبنھائر ۱۸۸۱ء میں ڈائزک کے شہر میں ایک خوشحال تاجر کے گھر بیدا ہوا۔ جوان ہونے بروہ پیغمبرگ میں کارو بار کرنے لگا۔ جس طرح موت اور بڑھائے کے خوف نے بده کو دنیا سے برگشتہ خاطر کر دیا تھا تھا اسی طرح شوبنھائیر بھی لوگوں کو آلام زیست کا شکار دیکھ کر زندگی سے بیزار ہو گیا۔ اُس کی ماں ادبیات کا ذوق سليم رکھتی تھی اور فسانہ نویسی میں خاصی مشہور تھی۔ ایک دن دوران سفر میں اُس کی ماں نے ایک حسین فطری منظر کی بے ساختہ تعریف کی تو شوبنھائیر چیز بھیں ہو کر کھنٹے لگا سوال یہ نہیں ہے کہ فطری منظر حسین ہے سوال یہ ہے کہ کیا دیکھتے والے خوش بھی ہیں؟ اوائل شباب ہی میں شوبنھائیر کرب ناک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف تو سائنس اور فلسفہ کے مضامین عالی آسمی اپنی طرف کھینچتے تھے دوسری طرف لذت کوئی کی ہوس دل میں چلکیاں لیتی تھیں۔ وہ مطالعہ و تفکر سے اکتا کر حسین عورتوں کی آغوش میں سکون حاصل کرتا اور ان سے سیر ہو کر مطالعہ کتب میں غرق ہو جاتا تھا۔

شوبنھائیر کی ماں ویمر گتی جہاں کے ادبی حلقوں میں اُس کی ملاقات گوئی سے ہوئی۔ شوبنھائیر گوئی کی صحبت سے فیض باب ہوا لیکن وہ استاد کی رجائیت کو قبول نہ کر سکا۔ رومانیت دونوں میں قدر مشترک ثابت ہوئی۔ گوئی شوبنھائیر کے اس نظریے کی قدر کرتا تھا کہ عقل کے مقابلے میں وجود اندر اک حقیقت پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ گوئی اپنے نوجوان شاگردی مردم بیزاری اور سنک کے باوجود اُس کا مذاح تھا۔ ایک دن گوئی نے اُس سے کہا:

”اگر تو اپنی قدر کا سکنی ہے تو دنیا میں قدر بیدا کر“

شوبنھائیر نے اعلیٰ فلسفے کی تعلم گوئیجن اور برلن کی درس گاہوں میں پائی جہاں اسے فشنے کے لیکھر سنتے کا اتفاق ہوا۔ اسی زمانے میں اُن نے کائنٹ افلامتوں اور اپنیشدوں کا بہ نظر خائر مطالعہ کیا۔ شروع شروع میں جرمن فلاسفہ نے شوبنھائیر کو نظر انداز کر دیا کیون کہ جرمی کی درس گاہوں میں بہ کہیں فشنے شیلک اور بیگل کے تلامذہ پڑھاتے تھے جنہیں شوبنھائیر ناپسند کرتا تھا۔ ہر کیف زمانے کے گزرنے کے ساتھ اپنے نظر نے اسے ایک بلند پایہ فلسفی تسلیم کر لیا اور دور نور تک اُس کی علمیت کا چرچا ہو گیا۔ فلسفی ہونے کے علاوہ وہ ایک زیرک کاروباری آدمی تھا۔ خوب روپید کہا اور خاصی دولت جمع کر کے گوشہ نشیں ہو گیا۔ اس نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ فلسفہ بھی اُس کا اوڑھنا، بچھوڑنا بن گیا۔ ۱۸۶۰ء میں وفات پائی۔

شوبنھائیر اپنے آپ کو کائنٹ کا جانشین سمجھتا تھا۔ تکنیکی لحاظ سے وہ بھی مثالیت پسند ہے کہ دوسرے مثالیت پسندوں کی طرح وہ بھی کائنات کی ترجیحی فرد کی نسبت اور رعایت سے سکرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں بعد گیر ارادہ کی

کار فرمانی ہے اور وہ ہر شے میں ازل سے موجود ہے۔ ایران کا مشہور قتوطی مانی تخلیق کائنات میں شر کے عنصر کو فعال مانتا تھا اور خیر کے عنصر کو مفعل اور ستری خیال کرتا تھا۔ شوپنہائٹر کا آفاق ارادہ بھی فعال اور شر آمیز ہے۔ انسان کی عقل بر ارادہ غالب ہے جو آسے آمادہ عمل کرتا ہے انسانی ارادہ آفاق ارادے کا جزو ہے جو کام شر کی بنیاد پر ہے اور جس نے انسان کو سخت خود غرض بنا دیا ہے۔ انفرادی ارادہ آفاق ارادے کی طرح غیر فافی ہے۔ موت پر جسم فنا ہو جنتا ہے لیکن ارادہ باق رہتا ہے۔ یہ خیال ویدانت اور بدھ مت کے کرم کے نظریے کی صدائے باز کشت ہے جس کی رو سے کرم موت کے بعد بھی باق رہتا ہے۔ شوپنہائٹر کہتا ہے کہ تمام فطرت ارادے کا اظہار ہے۔ پتھر میں یہ ارادہ انداہا ہے انسان میں آکر اسے اپنا شعور ہو جاتا ہے۔

کانٹ نے کہا تھا کہ حقیقت نفس الامر کا ادراک انسان کے اس کی بات نہیں ہے لیکن اس کے متبوعین نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ فشنٹر نے مطلق خودی، شیلنگ نے وجود مطلق، پیگل نے عین مطلق اور شوپنہائٹر نے آفاق ارادے کو حقیقت قرار دیا۔ شوپنہائٹر کے خیال میں عقل کی تک و تاز ظواہر تک محدود ہے۔ ہم اپنے ذہن میں وجدانی طور پر جس حقیقت کا شعور حاصل کرتے ہیں وہ ارادہ ہے۔ ارادہ حیات زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ ارادہ آقا ہے عقل اس کی لونٹی ہے شوپنہائٹر کہتا ہے:

”عقل اپنی فطرت میں عورت کی طرح ہے۔ یہ اسی وقت کچھ دے سکتی ہے جب یہ کچھ لے لتی ہے۔ اپنی ذات میں یہ محض ایک کھوکھلے چھلکے کی مانند ہے۔“

شوپنہائٹر نے آفاق ارادے کو صوفیہ کی روح کل کے مثال قرار دیا ہے جو مادی کائنات میں طاری و اری ہے۔ اس پہلو سے اس کا نظریہ وحدت وجود کے قریب معلوم ہوتا ہے اس کے خیال میں عالم کے ظواہر ارادے ہی کی معروضی صورتیں ہیں۔ یہ غیر شعوری غیر عقلی انداہا آفاق ارادہ ہی حقیقت کبری ہے یعنی کائنات میں ایک ہی شے حقیقی ہے اور وہ غیر منطقی آفاق ارادہ ہے۔

شوپنہائٹر کی اس مابعد الطبیعتیات سے جو اخلاق نظریہ متفرع ہو وہ ظاہراً قتوطی ہو گا۔ آدق ارادہ بعد گیر ہے شر آمیز ہے تمام درد کا مأخذ ہے۔ انسان میں ارادہ حیات تمام شر کا سبب ہے۔ زندگی دکھ ہے اضطراب، خلجان اور غم سے بھری ہے۔ دنیا میں مستر کا کوئی وجود نہیں ہے کیوں کہ جب کوئی آرزو ہوئی نہ ہو تو اذیت محسوس ہوتی ہے اور ہوئی ہو جائے تو اس کا نتیجہ اکنائب ہے جو بذات خود تکلیف ہے۔ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ دکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوپنہائٹر بدھ مت اور ویدانت کے قتوطی نظریات سے متاثر ہوا ہے۔ وہ مايا، آواکون اور نروان کو اساطیر قرار دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ ائل صداقتون پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مايا کا بردہ چاک کیا جائے تو اس کے پیچھے خبیث شیطان کی صورت

دکھان دے گی جس نے انسان کو مسائل عذاب اور دکھ میں مبتلا کر رکھا ہے۔
شوپنہاٹر کے خیال میں اکثر لوگ سنگین قسم کے امتحان ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ موت کی تلوار ہر وقت سر پر لٹک رہی ہے۔ کھوکھلی مہماں اور بے شمار آرزوؤں کے جال بنتے رہتے ہیں۔ گوتم بدھ کی طرح شوپنہاٹر بھی خود غرضی کو شر کی جڑ ارادے کی نقی کر سکتا ہے۔ ارادے کے بے پناہ تصرف سے بحاجات پانے کے لئے نفس کشی ضروری ہے۔ ارادے کی موت انسان کی بحاجات ہے۔ ارادے کے آپسی شکنخے سے چھٹکارا ہانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بھی پیدا کرنا چھوڑ دے نہ زندگی رہے گی نہ دکھ ہو گا۔ شوپنہاٹر کو تسلیم ہے کہ اس کے پہ خیالات عیالت کے منافی ہیں لیکن وہ کہتا ہے ”بھی نوع انسان کی قدیم دانش سے محض اس ایسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ خلیل (جناب عیسیٰ کی جانے پیدائش) میں چند واقعات روئما ہوئے تھے۔“

شوپنہاٹر جنسی جذبے کو شر آئیز آفاق ارادے کا علیقی وسیلہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جنسی فعل کے ساتھ شرم و حیا کا احسان اسی لیے واپسی رہا ہے کہہ بہ شغط جانتا ہے کہ وہ بھی پیدا کر کے اپنی دکھ درد میں مبتلا کر رہا ہے۔ عورت اس جذبے کی تحریک کا باعث ہوئی ہے اس لیے وہ گردن زدنی ہے۔ شوپنہاٹر بہت بڑا عورت دشمن ہے جب کبھی عورت کا ذکر آتا ہے اس کے لہجے میں زبر ناک طنز آجائی ہے۔

”جس طرح قدرت نے شیروں کو پنجون اور دانتوں سے، باتھیوں کو وونڈ اور دانتوں سے اور بیلوں کو سینگوں سے مسلح کیا ہے اسی طرح اس نے عورت کو مکر و فریب کا پتھیرا دیا ہے۔“

”صرف وہی شخص جس کی عقل و خرد پر ہوسنا کی کا بردہ بڑا ہے اس پستہ قد۔ چوڑے کولھوں۔ چھوٹی نانگوں اور تنگ کندهوں والی غلوق کو صنف نازک کا نام دے گا۔ عورت کو حسین کہنا غلط ہے کیون کہ وہ احسانِ جمال سے یکسر عاری ہوئی ہے۔ اسے موسیقی، شاعری یا دوسرے فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی جو عورتیں ان فنون میں صیرت کی مدعی ہوئی ہیں وہ محض مردوں کو خوش کرنے کے لئے ایسے دعوے کریں یہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے معروضی دلچسپی نہیں لے سکتیں۔“

”عورتوں اور مذہبی پیشواؤں کو آزادی دینا خطرناک ہے۔“

شوپنہاٹر کا جانیاں نظریں بھی آس کی مابعدالطبعیات سے واپسی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نفس کشی اور آرٹ سے ہم زندگی اور وجود کی بے حاصلی کا شعور حاصل کر کے آفاق ارادے میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ انانیت کو مٹا دینے کا کام خیر ہے اور حسن و جمال میں تعمق و تدبیر سے ہم انفرادیت سے ساواراء ہو جاتے ہیں۔

اس طرح عارضی طور پر ہی سہی ہمیں خواہش کے چنگل سے آزادی مل جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے موسیقی سب سے زیادہ موثر ہے۔ موسیقی سے ہم پر از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ذات کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم اپک اپسے عالم میں چلے جاتے ہیں جہاں خواہش کا گزر نہیں پہنچتا۔ بزار افسوس کہ بد وجد آفرین کیفیت گریز ہا ثابت ہوئے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا طلسما شکست ہو جاتا ہے اور ہمہ وہی قابو جانہ خود غرضی ہمارے روح میں اپنے سے رحم پہنچے گلزار ہوتی ہے۔ کوئی بذہ اور مانی جیسے قنوطیوں نے جو کہتا تھا وہ کر دکھایا لیکن اپنی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شوبنھائرنے کے سب کی ڈات نہیں تھی۔ آدمی آسودہ حال تھا۔ بر تکلف کھانا کھاتا اور مزے سے رہتا۔ آمائش کے سب سامان میسر تھیں۔ دوسروں کو نفس کشی کی تلقین کرنے والا خود نفس پروری کی تکریمیں رہتا تھا۔ اور ہر وقت کسی نہ کسی حسین عورت کے پیچھے سائنس کی طرح منڈلاتا رہتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ مرزا غالب کی طرح وہ مصری کی مکھی تھا۔ عورت کے خلاف زبر اگنے والا یہ فلسفی ایک دفعہ سیاحت کے دوران روم کی ایک ماہ پارہ پر بزار جان سے فریقتہ ہو گیا۔ ایک دن وہ محبوبہ پائزرنے کے مردانہ حسن اور رئیسانہ نہائیں کی اسیر ہو گئی اور شوبنھائرنے کے گھونٹ بی کر رہ گیا۔ روپے پسے کے معاملے میں وہ نہایت خسیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے دروازے میں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک بڑھیا آنکھی جس نے شوبنھائرنے کے پیٹے سینے کی آجرت لینا تھی۔ آسے دیکھ کر شوبنھائرنے بد مزہ ہو گیا، آس نے بڑھیا کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بلا نتے درمان تھی برابر تقاضا کر کر رہی۔ شوبنھائرنے غصے میں آکر آسے دھکا جو دیا تو وہ اڑھکتی بڑھکتی سیڑھیوں کے نیچے جا گری اور اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی۔ بڑھیا نے فلسفی پر دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ شوبنھائرنے بڑھیا کو جین حیات مال بھر میں چار دفعہ ایک رقم مقررہ ادا کرتا رہے گا۔ بڑھیا سخت جان تھی بیس برس تک زندہ رہی اور برجانہ وصول کر کر رہی۔ آخر جب وہ مر گئی تو شوبنھائرنے اپنے روز ناسخے میں لکھا:

”بڑھیا مر گئی۔ بوجہ آتر گیا۔“

انانت کو شر کی جڑ کھینچنے والا یہ فلسفی نہایت خود بین اور خود پسند تھا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ۱۸۱۹ء میں اس نے برلن میں لیکھر دینا شروع کیا تو اپنے لیکھر کے اوقات وہی رکھئے جو پیگل کے لیکھر کے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ طلبہ پیگل کو چھوڑ چھاڑ کر اس کے کمرے میں بجوم کر آئیں گے لیکن کسی نہ کے نتھر کا رخ نہ کیا۔ اس پر وہ پیگل کا سخت مخالف پوکیا۔ وہ اخبار نویسوں کو آجرت شے کر ملک بھر میں اپنی شہرت اور مقبولیت کے ثبوت فراہم کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے پالتو کتے کا نام آئما (ویدانت کی انفرادی روح) رکھا تھا۔ اس کتے سے سے بڑا بیار تھا۔ وہ کہا کرتا تھا دنیا بھر میں خلوص کا اگر

کہیں وجود ہے تو صرف کتنے کی آنکھوں میں ہے۔ شوہنہائر کو اپنے فاسنے بر بڑا ناز تھا اور اس پر برملا فخر کیا کرتا تھا۔ اپنے بعض مقالوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ مقالے روح القدس نے آئے لکھوائے تھے۔

شوہنہائر کی قبولیت اور کلیت سے قطع نظر اُس کی تحریروں میں اُس کی گہری نفسیات بصیرت۔ ڈر فینی اور عملی دانش مندی کا ثبوت ملتا ہے۔ اس نے ارسطو یا ہیگل کی طرح منطق کے ذریعے کوئی با خابطہ نظام فکر پیش نہیں کیا لیکن کائنات میں انسان کے مقدار۔ انسانی فطرت کے تضادات و مضادات اور طرزِ عمل کے عجیب و غریب عمرکات کا اُس نے استادانہ تجزیہ کیا ہے۔ اس کے مقالات میں جایجا حکمت و دانش کے موقع بکھرے پڑے یہ جو انسانی بصیرت و آگہی میں اک گونہ اغافہ کرتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند اقتباسات ذیل میں درج کریں گے:

”ایک صحت مند گذاگر ایک مریض بادشاہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔“

”بر شخص اپنے شعور کی حدود میں گھرا ہوا ہے اور ان حدود کو پار نہیں کرسکتا جیسے وہ اپنی جلد سے باپر نہیں آسکتا۔“

”آدمی جتنا زیادہ دولت مند ہوتا ہے آتنا ہی آکنایاٹ کاشکار ہو جاتا ہے۔“

”اکثر لوگ اتنے احمق۔ فرومایہ اور بازاری ہوتے ہیں کہ بغیر خود بازاری بننے آن سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔“

”ایک عالم خواہ کتنی ہی فروتنی اور کسر نفسی کا اظہار کرے لوگ آئے ذہنی لحاظ سے اپنے سے برت ہونے کے باعث کبھی معاف نہیں کریں گے۔“

”جو لوگ تم سے ملنے آئیں آن سے اپنے ہی متعلق باتیں کر کے انہیں بیزار نہ کرو بلکہ انہیں اپنی ذات کے متعلق باتیں کرنے دو کہ وہ اسی لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔“

”زندگی کی محبت فی الاصل موت کا خوف ہے۔“

”جو شخص بڑھا پے میں ہی مجلس آرائی کا شوق رکھتا ہے وہ بالکل تھی مغز ہے۔“

”عقل تجربے سے آئی ہے۔ دانش و خرد کے مقولے حفظ کرنے سے نہیں آتی۔“

”اکثر امراء ناخوش رہتے ہیں کیوں کہ وہ تہذیب نفس کی دولت سے معصوم ہوتے ہیں۔ دولت ضروریات انسانی کو بے شک پورا کرکے ہے لیکن اس سے حقیقی مسربت خریدی نہیں جا سکتی۔ دولت پریشانی کا باعث ہوئے ہے کہ اسلام کی نکھداشت جانکاہی چاہتی ہے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ حصول زر و مال کے لیے بھاگتے ہیں اور صرف کتنی کے چند اشخاص تہذیب نفس کے حصول کو اپنے سمجھتے ہیں۔“

”جن شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ تھائی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ غیر معمولی ذہن و کردار کا مالک ہے۔“

”کوئی دو چیزیں اتنی متبانی و مخالف نہیں جتنی کہ قدماء کی سادہ تحریریں

اور انکی شرح میں لکھئے ہوئے عالمانہ حاشیے -

"غیر معمولی ذہن و دماغ رکھنے والی کا کوئی دوست نہیں ہوتا کیون کہ

"آس کی باریک بین نکالیں دوستی کے فربت کو فوراً بھانپ لیتی ہیں۔"

"انسان اپنی سے پناہ انانیت کو شانستگی اور حسن اخلاق کے پردوں میں
چھپائے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔"

"تم کسی دوست کو قرض دو گے یا آس پر احسان کرو گے تو وہ ہمارا

دشمن بن جائے گا۔ اگر تم کسی دوست کو مالی امداد دینے یا آس کا کام

کرنے سے معدنوری کا اظہار کرو گے تو وہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہو گا۔"

"جس شخص کی ذات میں کوفہ جوہر ہو آس کا شہرت حاصل کرنا اتنا ہی

یقینی ہے جتنا کہ جسم کا سایہ ہونا۔"

"غورور داخلی عمل ہے اور اپنے آپ کی بلا واسطہ قدردانی کا نام ہے۔

خود ہماری خارج سے تعاق رکھتی ہے اور اپنے آپ کی بالواسطہ قدردانی ہے

یہی وجہ ہے کہ خود ہمارا لوگ باتوں پوتے ہیں اور سفرور خاموش رہتے ہیں۔"

"جو لوگ دوسروں کے سامنے اپنے مصائب کا رونا روئے ہیں وہ نہیں جانتے

کہ لوگ ظاہرا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ باطن دوسروں کے

مصائب پر خوش ہوتے ہیں۔"

"بڑھاپے میں انسان کا مشابہہ آس شخص جیسا ہوتا ہے جو رات کے ناج کے

خاتے ہر لوگوں کو اپنے بنا فی چہرے آثارتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کی

نکاپوں کے سامنے آن کے اصل خد و خال آجائے ہیں۔"

"فرض کرو بہت سے ذین اشخاص ایک مغل میں مل یٹھیے ہیں اور ان میں

صرف دو احمدی ہیں۔ وہ دونوں یقیناً ایک دوسرے کو پالیں گے اور اس

بات پر خوش ہوتگے کہ بارے اس مغل ہیں ایک تو اسی کے ذین آدمی ہیں

موجود ہے۔"

"ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی ایک بد صورت لڑکی سے نہایت تباہ

سے ملے گی۔ مردوں میں احمدی اور کودن اور عورتوں میں بد صورت پیشہ

پر دلعزیز ہوتے ہیں۔ ایک حسینہ کو کوئی عورت پسند نہیں کریں سب

آس سے دور بھاگتی ہیں کہ ان کے سامنے لوگ آنہیں بد صورت نہ خیال کریں۔

اسی طرح جو مرد غیر معمولی ذہن و دماغ رکھتا ہے لوگ آس کے تریب

نہیں پہنچتے کہ کہیں آن کی اپنی حاقت اور جہالت کا راز فاش نہ ہو جائے۔

اس طرح وہ بے چارہ اکیلا رہ جاتا ہے۔"

"مال و زر سمندر کا شورا بہے کہ جتنا پیو گے انہی ہی بیاس بھڑکے گی۔"

"مرد آزاد وہ ہے جو تنہا رہتا ہے اور اپنی ہی رفاقت پر قناعت کرتا ہے۔"

"بہلا دینے یا معااف کر دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ بڑی مشکل سے حاصل کیا

ہوا تجربہ ضائع کر دیا جائے۔"

"ہمہارے دوست سمجھیں خلوص و محبت کا پتین دلاتج گے - بہ عرض دکھاؤا
ہے - سمجھارے دشمن البتم سے ضرور خلوص رکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لئے
بھی سمجھیں نہیں بھلائے۔"

"کسی عمارت پر کام کرنے والے معمار اور مزدور اس کے مکمل نقشے کا علم
نہیں رکھتے - انسان کی بھی بھی حالت ہے - وہ لیل و نہار کے چکر میں پڑ کر
زندگی کے جامع تصور سے غافل ہو جاتا ہے۔"

"ڈاکٹر انسان کی کمزوری کو' وکیل اس کی خبانت کو اور مذہبی پیشا
اس کی حادثت کو خوب جانتا ہے۔"

"وہی لوگ دوستوں کی مغلقوں کی خواہش کرتے ہیں جن کا اندرون کھو کھلا
ہوتا ہے - وہ اپنی داخلی ویراف سے کھبرا کر دوستوں کی مجالس میں پناہ تلاش
کرتے ہیں۔"

"غربیوں میں جہالت اس قدر عبرت ناک نہیں ہوئی جتنی کہ امیروں میں ہوئی
ہے۔"

بہت سے الفاظ میں کم خیالات کا اظہار جہالت ہے - تھوڑے الفاظ میں زیادہ
خیالات کا اظہار علمیت ہے۔"

شوپنھائیر دوسرے خرد دشمنوں کی طرح انسانی تہذین اور ترق کے تصور کا سخت
مخالف تھا - اس نے اپنی کتاب "دنیا بیشیت ارادے اور خیال کے" میں ترق کے
تصور پر زبردست حملہ کیا ہے - وہ تہذین اور ترق کو کھو کھلا قرار دیتا ہے اور
کہتا ہے کہ انسان اپنی فطری خود غرضی کے باعث کبھی ترق نہیں کر سکے گا۔
ارادیت کا دوسرا مشہور شارح فریڈرک نشترے ۱۸۶۳ع میں جرمی کے صوبہ
سکیستی کے تفصیلے روکن میں ایک پادری کارل فریڈرک کے گھر پیدا ہوا - چار برس
کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے الٹا گیا - نشترے نہایت ہونہار اور ذکی تھا اور چھوٹی عمر
میں موسیقی اور شاعری میں دلچسپی کا اظہار کرنے لگا - اس کی طبیعت پر داخلیت
کا رنگ غالب تھا - اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ کوہنے کے بجائے وہ گھر کی
چار دیواری میں گھسا رہتا اور شعر کھانا کرتا - ۱۸۶۴ع میں اس نے بان یونیورسٹی
میں داخلہ لیا - اب وہ گھر کی پابندیوں سے آزاد ہو کر خوب کھل کھیلا - اس
کے شباب کا یہ دور بڑا پر آشوب تھا - شراب میں بدمست بو کر ساتھیوں سے پاؤں
کرنا امن کا محبوب مشغله بن گیا - آخر اس بے راہ روی سے کنارہ کش ہو کر اس
نے لسانیات اور فلسفے کی تحصیل شروع کی - دوران مطالعہ وہ عیسائیت
سے بدظن ہو گیا - لانپ زک کی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات شوپنھائیر اور مشہور
موسیقار چڑا واگرزا سے ہوئی جن سے اسے گھری عقیدت ہو گئی - ۱۸۶۷ع میں وہ فوج
میں بھرتی ہو گیا لیکن خرابی صحت کی بنا پر اسے سبکدوش ہونا پڑا - ان ایام میں
اس کی صحت ایسی بکڑی کہ بھر کبھی بجال نہ ہو سکی -

۱۸۶۵ع میں نشترے کو بالینڈ جانے کا اتفاق ہوا جہاں ایک لڑکی کو دل دے

بیٹھا۔ نشے کی بد قسمتی سے اس کی شادی کی پیش کش کو ہانے حقارت سے ؎ہکرا دیا جس سے نشے کا سر چشمہ مکثہ ہو گیا اور اس کے سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اب وہ شوپنہائٹ اور واکز پر نقطہ چینی کرنے لگا۔ واکز سے وہ اس بات پر خفا ہو گیا کہ اس کے نغمے پارسی فال میں عیسائیوں کی نفس گشی کا عنصر ہایا جاتا ہے۔ شوپنہائٹ سے منعمر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس فنوطی فلسفی نے رحم و کرم کو اخلاق حسنہ کا اصل اصول قرار دیا تھا۔ وہ سیر و سیاحت کے لیے اطالیہ بھی گیا جہاں ایک حسینہ پر جس کا نام لوسلامی تھا بزار جان سے عاشق ہو گیا۔ لوسلامی نے اسے سنکی سمجھے کر سرد مہری کا برتواف کیا۔ نشے کی یہ دوسری ناکامی پہلی سے بھی زیادہ تلغخ تھی۔ وہ عورت ہی سے متفرق ہو گیا اور شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ ۱۸۸۸ع میں نشے پر مرض کا غلبہ ہوا اور اس کے دماغ میں خلل آگیا۔ ”بقول زردشت“ میں جس مرضانہ انانیت اور خود ستائی کا کھوچ ملتا ہے وہ اس کے اختلالِ ذہن پر دلالت کرتی ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں وہ شروع ہی سے فاتر العقل تھا۔ ”بقول زردشت“ میں کہتا ہے۔

— ”میں دجال ہوں“

— ”میں ابھی دانش سے زج آ گیا ہوں اس شہد کی مکھی کی طرح جس نے چہ زیادہ شہد اکٹھا کر لیا ہو میں چاپتا ہوں کہ لوگ ہاتھ پڑھا پڑھا کر یہ دانش مجھ سے لے لیں۔“

— ”سب خدا مر چکے۔ اگر خدا کا کوئی وجود ہوتا تو میں کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں“

— ”میں ہوں دیو نیسیں۔ مسیح کا دشمن“
نشے کی خود نوشت سوانح عمری کے چند عنوانات یہیں۔

”میں اتنا بڑا دانشمند کیوں ہوں؟“

”میں اتنا چالاک کیوں ہوں؟“

”میں اتنا اعلیٰ مصنف کیسے بن گیا ہوں؟“

نشے نے ۱۹۰۰ع میں انتقال کیا۔ اس کی تصانیف میں ”خیر و شر سے ماؤراء‘، ”شجرۃ الاخلاق‘، ”المید کی پیدائش‘، ”بقول زردشت‘، ”حصول قوت کا عزم‘ اور ”تردد سیحیت‘ نے شہرت پائی۔ نشے کے مقالات کو اس کی لائق بہن الزیبیہ نے مرتب کر کے ان پر مقدمہ حواسی لکھئی اور ابھی بھائی سے متعلق اہم معلومات ہیم پہنچائیں۔ نشے نے شوپنہائٹ کا یہ نظریہ قبول کر لیا کہ ارادہ ہی وجود اور انسانی زندگی کا اصل اصول ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے جیسا کہ شوپنہائٹ نے کہا ہے یہ ارادہ ارادۂ حیات نہیں ہے بلکہ حصول قوت کا ارادہ ہے۔ نشے کسی آفاق اور بعد گیر صفات کا قائل نہیں ہے۔ اس کے خیال میں فطرت میں کسی قسم کا کوئی مقصد مخفی نہیں ہے نہ اس کی کوئی واضح منزل ہے۔ وہ اشیاء کے ارزی وابدی اعادے کا کا قائل ہے اور اسے اپنے ”بان کہنے والے فلسفے“ کا سب سے اہم اصول سمجھتا ہے۔

ابدی اعادے کا خیال روایتین کے یہاں بھی ملتا ہے۔ اس کا مطابق یہ ہے کہ کائنات میں پیشہ احوال و اشیاء کا سلسلہ و متواتر اعادہ پوتا رہتا ہے اور تاریخ ایک دائرنے میں چکر لگاتی رہتی ہے۔ بھی زمان کا دولابی تصور ہے جو فلسفہ یونان و ہند میں شروع سے موجود رہا ہے۔ نشے نے جایجا زردشت سے اظہار عقیدت کیا ہے ایک جگہ کہا ہے کہ ویدوں کے مصنف اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ زردشت کے جوئے کے تسمیے بھی کھولیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے زردشت کے زمان کا تصور قبول نہیں کیا۔ زردشت کے خیال میں بر ایزار برس کے بعد ایک نیا ہادی پیدا ہوتا ہے لیکن وقت کی حرکت اُس کے خیال کے مطابق دولابی نہیں ہے بلکہ خط مستقیم بر بوق ہے۔ یعنی وقت کا آغاز بھی ہے اور انعام بھی بوکا۔ بقول ٹونٹ بی یہ نظریہ یہودیت کی وساطت سے عیسائیت اور اسلام تک پہنچا تھا۔

نشے کے فلسفے کو انفرادیت کا فلسفہ بھی کہا گیا ہے کیون کہ وہ عظیم افراد کی پیدائش کو نوع انسان کی ترقی کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں بیات ہوگی وہاں حصول قوت کا ارادہ بھی ہوگا اور حیات کا مقصد واحد فوق انسان کو پیدا کرنا ہے اور عظامہ کی نسل کا ظہور ہے۔ وہ مساوات اور اخوت کے تصورات کے ساتھ جمہوریت کو بھی رد کر دیتا ہے۔ کہتا ہے:

”مساعد حالات میں عظیم افراد کی تقلیق ضروری ہے جو آن تمام انسانوں سے عظیم تر اور برتر ہوں گے جو آج تک پیدا ہوئے ہیں۔ بھی اُنی نوع انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔“

آس کے خیال میں طاقت ور فوق انسان فاعع ہوں گے۔ انہیں اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ عوام پر حکومت کریں۔ کہتا ہے:

”لیکور کو آدمی سے کیا نسبت ہے۔ وہ انسان کے ساتھ مضجع کے خیز دکھانی دیتا ہے جیسے عام آدمی عظیم انسانوں کے مقابلے میں مضجع کے خیز ہوں گے۔“ نشے اور میکیاوبیلی کے سیاسی نظریات ملنے جلتے ہیں۔ میکیاوبیلی کا مددوچ سیز بورجیا تھا اور نشے نپولین بونا پارٹ کا مذاہ ہے جیسے وہ عفریت اور فوق انسان کا مجموعہ کہتا ہے۔ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ نپولین جیسا فوق انسان گھٹیا اور حقیر دشمنوں سے شکست کہا گیا۔ سیاست میں نشے بیگل کی طرح ریاست کی ہمہ گیر قوت و استیلا کا قائل نہیں ہے بلکہ حد ترجمہ انفرادیت ہے اور عقائد کے وجود کو ریاست کی بہبود کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اُسے قومیت پرست اور محب وطن نہیں کہا جا سکتا۔ وہ جرمتوں کو اپنی حکارت کی نکاء سے دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں عظیم انسانوں کی ایک نسل ظہور میں آجائے ایسے عظیم انسان جو تباہ دنیا پر حکومت کریں۔

بیریقليتس کی طرح نشے بھی انسان معاشرے کی ترقی کے لیے جنگ و جدال کو ضروری خیال کرتا ہے۔ کیونکہ بقول نشے جنگ کے دوران عظیم افراد کا ظہور ہوتا ہے۔ آس کے خیال میں صرف جنگجو ہی دانش و خرد سے بھرے باب ہوتا ہے۔

وہ مسلمانوں حشیشین کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ نذر قاتل تھے۔ آئں کا قول ہے۔

"کامیاب جنگ پر قسم کے اس باب کو مقدس بنا دیتی ہے۔"

اس کے خیال میں امن موت ہے اور جنگ زندگی ہے۔ جنگ نہ ہو تو لوگوں میں شجاعت اور جوانمردی کے جذبات نہیں کر رہے جائیں۔ وہ مردوں کو جنگ آزمائی کی تربیت دینا چاہتا ہے کہتا ہے:

"عورت کا کام بعض جنگجوں کو جتنا اور بروان چڑھانا ہے۔ باقی سب ہر زہ سرانی ہے۔"

نشیء کہتا ہے کہ روح تین صورتوں میں ظاہر ہوئی ہے۔ وہ اونٹ بنی ہے۔ اونٹ شیر بتتا ہے اور شیر بھی کا روپ دھار ایتا ہے۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے ضبط و تحمل سے انسانی روح میں شیر کی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے اور مرد شجاع بھی کی طرح نئی قدریوں کی تخلیق کرتا ہے۔

نشیء کی سیاستیں کی طرح اس کی اخلاقیات بھی قوت پرستی کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کے اخلاقیاتی تصورات اس کی کتابوں "خیر و شر سے ماوراہ" اور "ارادہ حصول قوت" میں زیر بحث آئیں ہیں۔ ان میں نشیء خیر و شر میں امتیاز کرتا ہے اور انسانی عمل کے محکمات قدیم اخلاقیات اور جدید تقاضوں کے تعلق پر قلم الہاتا ہے "ارادہ حصول قوت" کے ابتدائی باب "فلسفہ کے تعصبات" میں اس نے اپنا نظریہ "ارادہ حصول قوت" پیش کیا وہ بحث کا آغاز امن بات سے کرتا ہے کہ حداقات ایل امر نہیں ہے بلکہ اضافی اور تغیر پذیر ہے۔ اس کے بعد ارادہ حصول قوت کی بنا پر وہ نئی اخلاقی قدریں تخلیق کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اخلاق دو قسم کا ہے۔ آقاوں کا اخلاق اور غلاموں کا اخلاق۔ وہ شجاعت اور بلند نظری کو خیر کا نام دیتا ہے اور کمزوری اور مسکنت کو شر قرار دیتا ہے۔ "بقول زردشت" میں کہتا ہے:

"جو کچھ بھی قوت سے ظاہر ہو وہ خیر ہے اور جو کمزوری سے ظاہر ہو وہ شر ہے۔"

'شجرہ اخلاق' میں نشیء نے شوبھنائز کے اس نظریے پر کڑی تنقید کی ہے کہ رحم دف اور نفس کشی تمام اخلاق کی جڑ ہے۔ وہ ان 'محاسن' کو بنی نوع انسان کے لیے سہلک خیال کرتا ہے اور شوبھنائز کے اخلاقی مسلک کو "بیوری بده مت" کا نام دیتا ہے جو مغرب کی تباہی کا باعث ہوا۔ رحم و کرم - پسندیدی انسانی۔ اور مسکنت کی تبیغ پر اس نے عیسائیت پر سخت گرفت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تین یہودیوں عیسیٰ - پطرس مچھیارے - پال خیمد دوز اور ایک یہودی مسیح عذر کی تعلیمات نے عصیم رومی سلطنت کو یہوند زمیں کر دیا تھا۔ عیسائیت کے یہ منفی اور سلبی اثرات احیاء اعلوم کی صدیوں میں زائل ہونا شروع ہوئے جب رومہ کی عظیم کلاسیکی قدریوں کا احیاء عمل میں آیا اور اپل مغرب کو عیسائی ربیانیت اور اس کے

حیات کُش نظریات سے بحاجت مل گئی۔ نتیجہ اہل مغرب نے دوبارہ تغلب و تسلط کی طرف قدم بڑھایا۔ نشیرے مشہور جرمون مصلح مارٹن لوٹھر کا سخت خلاف تھا کہ اس نے اصلاح یافتہ کلیسا کی بنیاد رکھ کر عیسائیت کے اکھڑے ہوئے قدم اہر سے جا دیئے۔ احیاء العلوم نے مذہب کا خامہ کر دیا تھا، لوٹھر نے بھر اسے بجال کر دیا۔

نشیرے عیسائیت کا دشمن اس لیے ہے کہ اس میں غرور و تکبر کو جسے نشیرے محسنِ اخلاق میں شار کرتا ہے برا بھلا کھا کیا ہے۔ اور جنک و جدال۔ جذبہ غیظ و غضب۔ مہم جو فی اور علم کی تنقیص کی گئی ہے حالانکہ یہ محسن اخلاق میں داخل ہیں۔ مسیحی عالم پاسکل پر تقدیم کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”عیسائیت طاقت ور لوگوں کو برباد کرنے۔ ان کے جوش و خروش کو دھیما کرنے۔ ان کے کمزور لمحات سے فائدہ اٹھانے۔ ان کے متکبرانہ اعتہاد کو اندیشے اور ضمیر کی بے چنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرکے ہے۔ عیسائیت شریفانہ جذبات کو زہر آلوڈ کر دیتی ہے۔ ان میں مرض کا چھوٹ پھیلاتی ہے حتیٰ کہ ان کی قوت، ارادہ حصولِ قوت دب کر رہ جاتا ہے۔ اور طاقت ور لوگ اپنے آپ سے نفرت کرنے لکھتے ہیں اور نفس کشی کر کے مر جانے ہیں۔ یہ ہے خود کشی کا وہ طریقہ جس کی مثال ہمیں پاسکل میں ملتی ہے۔“

اسی بنا پر نشیرے نے روپی ناول نکار دوستوفسکی پر تعریضیں کی ہیں کیوں کہ وہ مسیحی نفس کشی کو اہم سمجھتا ہے۔ نشیرے کہتا ہے کہ دوستوفسکی گناہ اس لیے کرتا ہے تاکہ بعد میں پیشانی کے احساس سے لذت یاب ہو سکے۔ وہ عیسائیت کی پیدا گیر محبت کا بھی مخالف ہے۔ نشیرے عیسائیت کی مخالفت کے جوش میں مذہب ہی سے بد فلن ہو گیا تھا۔ کہتا ہے کہ:

”جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی مذہبی ہے تو میں اس سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا۔“ بقول زردشت میں کہتا ہے:

— ”بُوڑھا خدا من چکا“

— ”سب خدا من چکے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ عظماء زندہ رہیں۔“

— ”خدا من چکا۔ اے فوق الانسان خدا تیرا سب سے بڑا خطرہ تھا۔ وہ قبر میں کیا تم اٹھو بیٹھے۔“

— ”عیسائیت ایک نہایت سہاک اور بہکا دینے والا جھوٹ ہے۔“

— ”جهان صلیب۔ دنیا کا خبیث ترین شجر۔ آئے گا اس ملک میں کوئی نہیں بات نہیں ہوگی۔“

اس کے خیال میں عیسائیت غلامانہ اخلاق کی تلقین کرکے ہے۔ عیسائیت کے علاوہ وہ ستراط کے اخلاق اور اپنہ اور شوپنہائز کے انکار کو ”زندگی کو نہ کہنے والے“ نظریات خیال کرتا ہے جن کے باعث بقول نشیرے انسان معاشرے کی جڑوں میں

رہر نہیں بنا ہے۔ وہ ایسے مغربی سمندرن کا نقیب ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ فلسفے کا مقصد ہی ہے کہ برائے نصب العینوں کو رد کر کے نئے نئے نصب العین اختیار کئے جائیں تاکہ تنزل پذیر معاشرہ مغرب کی سرده رگوں میں زندگی کا خون دوڑ جائے۔

دوسرے ارادت پسندوں اور رومانیوں کی طرح نئے بھی خرد دشمن ہے۔ اس کے خیال میں عقل جبلت کے ہاتھوں میں محض ایک بے جان آلی کی مانند ہے۔ افلاطون کی عقلیت کو رد کرنے ہونے وہ کہتا ہے کہ ارادہ حصولِ قوتِ حسن کا اساسی عنصر ہے۔ اس کا قول ہے:

”جب طاقت آمادہ کرم ہو کر سرفی و محسوس صورت میں ڈھل جائے تو ہم اسے حسن کا نام دیں گے۔“

لیکن شاعروں کی خلافت میں وہ افلاطون کا بہم نوا ہے۔ کہتا ہے:

”شاعر بڑے دروغ باف ہوتے ہیں۔ میں ان سے اکتنا کیا ہوں۔ قدماء سے بھی اور آج کل کے شاعروں سے بھی۔ مجھے یہ لوگ سطحی اور کھوکھلے لگتے ہیں۔ یہ لوگ انہی بانی کو گدلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ گھرا لگے۔“

اطالوی مجسمہ تراشوں میں وہ مائیکل آنجلو کو رفائل سے بڑا فن کار مانتا ہے اور کہنا ہے کہ رفائل نے صرف رسمی رواجی مسیحی قدروں کی ترجیح کی ہے جب کہ مائیکل آنجلو جبروت۔ سطوت اور مردانگی کی نقش گری کرتا ہے جو عظاء کی صفات تھیں۔

الیہ کے متعلق اس کی بحث قابل قدر اور خیال انگیز ہے۔ الیہ کا ذکر کرنے ہونے اس نے آرٹ کی دو قسمیں گئیں ہیں۔ دیونیسی (جسے ہم رومانی کہتے ہیں) جس میں تند و تیز جذبات کا بے محابا اور ہر جوش اظہار کیا جاتا ہے اور ابولوفی (جسے ہم کلاسیکی کہتے ہیں) جو ضبط نفس کی دعوت دیتا ہے۔ ”الیہ کی پیدائش“ میں نئی کہتا ہے کہ آرٹ دیونیسی اور ابولوفی رجھانات کے امتزاج سے ترق کرتا ہے جیسے مرد اور عورت کے ملاب سے بچہ بیدا ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں دیونیسی دانش کا اظہار ابولوفی اسلوب میں ہوتا ہے۔ ارسٹون نے کہا تھا کہ الیہ سے رحم اور خوف کے جذبات ابھر آتے ہیں اور ان کی تنتیخ ہو جانی ہے۔ نئی کو امن سے اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الیہ کا مقصد رحم اور خوف کے جذبات کو ابھارنا نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کی لذت سے آشنا کرانا ہے۔ وہ انہی آپ کو ”الیہ کا فلسفہ“ کہتا ہے۔ اس کا قول ہے:

”میرے اندر دیونیسی نظرت ہے جو تباہی اور بربادی ہر خوش ہوئے ہے۔“ مذہب کے خاتمے کا اعلان کرنے ہونے اس نے کہا ہے ”نئے سمندن میں آرٹ منہب کا نعم البدل ثابت ہوگا۔“

شوہنہاٹر عورت کو سکر و فریب اور جنسی کشش کا مأخذ سمجھ کر آمن سے نفرت کرتا تھا۔ نئی عورت کی کمزوری کے باعث اس کا دشمن ہے۔ اس نے

بایجا عورت کا ذکر حقارت سے کیا ہے -

— ”عورت مرد سے زیادہ چالاک اور خیث ہے -“

— ”کیا تم عورت کے پاس جا رہے ہو؟ اپنا چابک نہ بھول جانا -“

— ”جب کوئی شخص کسی عورت پر عاشق ہو جائے تو اسے شادی کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ملتا چاہیے کہ حالتِ دیوانگی میں کوئی شخص اپنے مستقبل سےتعلق صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا -“

— ”جو عورت علمی و عقلی مسائل میں دلچسپی لیتی ہے اس کے جنسیاتی نظام میں لا زماں خلل ہوتا ہے -“

— ”عورت ایک مععد ہے اور حمل اسی مععد کا حل ہے -“

— ”مرد عورت کے لیے عرض ایک وسیلہ ہے لیکن عورت مرد کے لیے کیا ہے؟“

— ”حقیقی مرد دو چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے - خطروہ اور تفریغ - اسی لیے عورت کی خواہش کرتا ہے کیون کہ عورت تفریغ کا سب سے خطرناک سامان ہے -“

— ”ایشیانی دانش مند ہیں کہ عورت کو بردے میں بند رکھتے ہیں -“

— ”عصمت فروشی کے ادارے کو شادی کی رسم نے خراب کر دیا ہے -“

— ”انتقام اور محبت میں عورت مرد کی بد نسبت زیادہ سفاک ہوئی ہے -“

— ”جب عورت عشق کر رہی ہو تو مرد کو اس سے ڈرتا چاہیے کہ میں حالت میں وہ سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے اور محبت کے سامنے برشے کو بیج سمجھتی ہے -“

”جرمن لوگ عورتوں کی طرح ہیں - تم کبھی بھی ان کی کھرانی کو نہ پا سکو گے کہ اس کھرانی کا کوئی وجود نہیں ہے -“

نشیے انگریزوں سے نفرت کرتا تھا کیون کہ وہ جمہوریت پسند ہیں اور عورت کی عزت کرتے ہیں - اسی بنا پر اس نے جن سوارث مل بر سخت طرز کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف ایک احمد ہی عورتوں کے حقوق کا ذکر کر سکتا ہے - یا ان کی آزادی کا حامی ہوتا ہے - انگریزوں کے ستعلق اُس کا خیال ہے کہ وہ کبھی لئنی نہیں ہو سکتے - انگریز عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے :

”انگلستان کی حسین عورتوں کی چال کیسی بے ڈھنگی ہے حالانکہ دنیا بھر کے مالک میں یہاں کے راج پنس اور فاختائیں زیادہ خوبصورت ہیں -“

نشیے کے افکار میں شوپنہائیر کی بد نسبت زیادہ ربط اور پہم آپنگی پائی جاتی ہے - شوپنہائیر کے نظر میں نفس کشی کے ماتھے تفاق ارادے کی بعد گیری کا تضاد ملتا ہے جب کہ نشیے کی ما بعد الطبیعتیات اور اخلاقیات دونوں میں ارادے کو فوقیت حاصل ہے - نشیے شعوری سطح پر رومانی نہیں ہے لیکن اس کا نقطہ نظر اور طبیعت کی افاد رومانی ہی ہے - وہ رومانیوں پر تنید کرتا ہے لیکن بازار کا بڑا مذاع ہے -

دوسرے رومانیوں کی طرح امن کا اساسی خیال ہوئی ہے کہ جذبات ہمارے لئے
نصب العین معین کرتے ہیں اور عقل ان کے حصول کے لیے وسائل فراہم کریں ۔
شوپنھائر اور نشترے کی ارادیت اور خرد دشمنی نے برگسان - ولیم جیمز - جیمز
وارڈ اور فرانڈ کے نظریات پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں ۔

ارتقاء*

بونان قدیم کے فلاسفہ ارتقا کے قائل نہیں تھے ان کے خیال میں عالم مادی کی اشیاء ازلی و ابدی امثال کے عکس ہیں۔ امثال غیرمتبدل ہیں اس لیے ان کے عکس میں ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عہد سقراط سے پہلے کے ایک فلسفی اناؤکسی مینڈر کے افکار میں البتہ ارتقا کا جزوی تصور ملتا ہے۔ لیکن بونانی مثالیت پسندوں کے تھار خانے میں یہ طوطی کی آواز تھی۔ انسوں صدی میں طبیعی علوم نے ترق کی توڑی حیات پر طبیعی قوانین اور کائنات کی تاریخ پر حیاتیات کے اصولوں کا اطلاق کیا گیا جس سے نظریہ ارتقا صورت پذیر ہوا۔ ایک فرانسیسی عالم لیزارک (۱۸۲۵ء۔ ۱۸۴۰ء) نے لکھا:

”جب کبھی کوئی حیوان اپنے جسم میں کسی نئے عضو کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یا خواہش کرتا ہے۔ یہ نیا عضو وراثتاً آس کے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔“

سانس دانوں نے لیزارک کے اس داخلی اور نفسیاتی اصول ارتقاء کو غیر علمی تواریخ دیا جس کے باعث آس کے نظریے کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ ڈارون نے لیزارک کا پہلا اصول رد کر دیا لیکن دوسرا تسلیم کر لیا۔ ڈارون صرف خارجی ماحول کے اثرات سے بحث کرتا ہے۔ اس کا نظریہ ارتقا مالٹھس کے آبادی کے نظریے پر بنی ہے جس کی رو سے ذی حیات اس تیز رفتاری سے بھی پیدا کرتے ہیں کہ سب کے لیے خوراک مہماں ہیں ہو سکتی۔ اس لیے زندہ رہنے کے لیے انواع میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش کے تصور سے ڈارون کے نظریے کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کے اصل کی جستجو کرنے ہوئے ڈارون نے کہا کہ انواع میں زبردست جہدِ لباقاً جاری ہے۔ جو جانور خارجی ماحول سے موافق پیدا کر لیتے ہیں وہ باقی رہنے ہیں باقی سب مٹ جاتے ہیں۔ زندہ بھینے والوں کو بقائے اصلاح کہا جائے گا۔ لیکن طبیعی ماحول بــ لاربــتا ہے۔ ان تغیرات کے دوران انواع دوسرے انواع میں تبدیل ہو جاتی ہیں تاکہ بدئے ہوئے ماحول میں زندہ رہ سکیں۔ اس عمل کو انتخاب^۱

طبعی کھا جاتا ہے یعنی نیجر آن خاصیتوں کا انتخاب کر لیتی ہے جن کی مدد سے انواع نئے ماحول میں زندہ رہ سکتی ہیں اور آن خامیوں کو مٹا دیتی ہے جو زندہ رہنے میں رکاوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اس نظریے کی رو سے مجھ کے طویل زمانوں میں نامساعد ماحول کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے بنی نوع انسان کا ذہنی چوبر ترق کر گیا جس کے نفعیل وہ ماحول سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے جب کہ دنوسار جیسے کوئی پیکر جانور ماحول کے ساتھ مقابمت نہ کر سکے اور فنا کے کھاٹ آئے گئے۔ اس تحقیق سے ڈارون نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان دوسرے حیوانات سے صرف ایک ہی مرحلہ بلند تر ہے۔

ڈارون کے اس نظریے کی فلسفیانہ ترجیحی میں پسروں اور پرگسان نے اپنے اپنے رنگ میں کی اور ارتقاء کے تصور نے فلسفے میں بار بایا۔ اس عہد کی فلسفیانہ ارتقائیت کو نیجریت کے خلاف رد عمل بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

انیسویں صدی نیجریت^۱ کے عروج کا دور ہے۔ طبیعی سائنس کو دوسرے شعبوں میں اس قدر حیرت ناک ترق ہوئی کہ ذی حیات کے اعمال کو بھی طبیعی قوانین کی روشنی میں مطالعہ کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ اپنے علم ارتقاء کے اصولوں کا اطلاق کائنات کی تاریخ پر کرنے لگے۔ نیجریت میں نیجر کو حقیقت واحد سمجھا جاتا ہے اور جو کچھ بھی مافوق الطبع ہو یا اس عالم سے ماوراء ہو اسے نیجر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کی رو سے جو کچھ بظاہر طبیعی قوانین سے علیحدہ دکھانی دیتا ہے وہ انسانی حیات ہو یا انسان ذہن کی خلائق ہوں حقیقتاً نیجر ہی کا لازمی حصہ ہے۔ ہر سے نیجر سے آئی ہے اور نیجر ہی کو واپس چلی جاتی ہے۔ نیجری کہتے ہیں کہ بعض اشیاء یا قوانین بے شک ایسے بھی ہیں جن تک ابھی سائنس کی رسانی نہیں ہو سکی لیکن یہ سب بھر صورت نیجر ہی کا حصہ ہیں اس سے علیحدہ نہیں ہیں۔ آن کے خیال میں نیجر زمان و مکان کی حدود میں اشیا کے مجموعے کا نام ہے جس پر مسبب و متبہ کا قانون مستصرف ہے۔ اگر مادے کو نیجر کا اساسی عنصر سمجھا جائے تو نیجریت مادیت ہی کا دوسرا نام بن جائے گی۔ نیجریت جبر مطلق کی قائل ہے اور اس میں قدر و اختیار کے لئے کوئی کنجائش نہیں ہے۔ یعنی وہی قوانین جو ستاروں پر حاوی ہیں انسانی اعمال پر بھی حاوی ہیں۔ انسان خارجی اور داخلی دونوں پہلوؤں سے محروم ہے۔ نیجریت میں آزاد ارادے، جوش حیات اور یزدانی قوت کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ارنست پائزخ پیکل (۱۸۳۶ء—۱۹۱۹ء) نیجریت کا سب سے مشہور ترجمان تھا۔ آس نے خدا کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ صرف نیجر کا وجود ہے وہ بتول خود "مائشک مذہب" کا بانی ہے جس کی رو سے نیجر ازل سے موجود ہے۔ اسے کسی خدا نے خلق نہیں کیا۔ انسانی روح دوسرے حیوانات کی روح سے مختلف نہیں ہے اور بھر صورت مغیز سر کی فعلیت کا دوسرا نام ہے۔ موت پر خاتمہ ہو جاتا

ہے۔ اس لیے روح کی بقا کا عینہ محض وابہ ہے۔ جس طرح انسان جسم سے علیحدہ روح کا کوئی وجود نہیں ہے اسی طرح دنات سے علیحدہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پیکل نے انسانی شعور کو بھی نفسیات میکوس' فعلیت کی ارتقاء یافتہ صورت فرار دیا ہے۔ یہ خیالات آس نے اپنی مشہور تالیف "معہ کائنات" میں پیش کیے ہیں۔ پیکل کی نیجریت پر ابی مذہب آک بکولا ہو گئے۔ ایک دفعہ پیکل کو روم جانے کا انفاق ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو ہوب نے حکم دیا کہ شہر کو مقدم دعویٰ دے کر پاک کیا جائے۔ شیش نے نیجریت کے تین اصول کا نہیں ہیں :

- ۱- کائنات پر اندھے قوانین مستصرف یہ جیسا کہ مثلاً حرکت اور گردش کا قانون۔

۲- دنیا کی کوئی منزل نہیں ہے اور یہ بے معنی اور بے مقصد ہے۔

۳- دنیا اخلاق نظام نہیں ہے اور اس میں قدروں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض ابی فکر نے محسوس کیا کہ طبیعی سائنس حیات 'ذین' صفات اور قدروں کی علمی توجیہ کرنے سے فاصر رہی ہے اور ان جیزوں پر اس کے میکانکی قوانین کا اخلاق ممکن نہیں ہو سکتا چنانچہ فلاسفہ میں برگسان، الکرزنڈر، لانڈسارگن اور وائٹ پیڈ نے اور علمائے نفسیات میں میک نوکل اور پرسیول نے نہ مادی میکانکیت کی تردید پر اپنے اپنے نظریات کی بنیاد رکھیں۔

نظریہ ارتقا کا پہلا فلسفی ترجمان پربرٹ سپر تھا سپنسر ۱۸۲۰ء میں ڈری کے لیک معلم کے گھر پیدا ہوا۔ اسے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے موقع نہ مل سکے۔ ناق مطالعہ سے کچھ قابلیت پیدا کی۔ آن لوگوں کی طرح جنہیں باقاعدہ تعلم کی تحصیل کا موقع نہیں ملتا آس نے پر شعبہ علم میں جزوی معلومات بہم پہنچا کر پیدا نہیں کی کوشش کی جس کے باعث وہ عمر تھوڑا تشار فکر کا شکار رہا۔ اس کے باوجود آس نے اپنے فلسفے کا نام تالیفی "فلسفہ رکھنا۔ اپنے زمانے میں اس کے افکار کی شاعت دور دور تک ہوئی لیکن آس سے اپنی شہرت کو اپنی زندگی میں دفن ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ آج آس کے نظریات کو جنداں در خور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ سپنسر کہتا ہے کہ علم کامل اور جامع نہاد نکر کا نام ہے۔ سائنس منتصر معلومات نوایم کرتی ہے۔ فلسفہ آن میں تواافق یہ اکرتا ہے۔ سپنسر کے افکار میں تضاد ہت ہے۔ وہ خالص طبیعی مفکر اپنی نہیں ہے کیونکہ وہ ماننا ہے کہ حقیقت قس الامر کا وجود ہے اگرچہ آسے جانا ہوں جاسکتا۔ بھی خیال کاٹ کیا بھی تھا۔ کاٹ بھی کی طرح وہ اس بات کا قائل ہے کہ غمہ محض تعبیر ہے حاصل نہیں ہونا بلکہ بعض صداقتیں اٹل بھی ہیں۔ الخلاقيات میں آس نے انگریزی اقائد اور جدید ارتقا کے تصورات میزوج کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ اپنائے اصلاح ہیں

سرت سے ہوڑ ور ہو سکتے ہیں ۔

برگسان مادی میکانکیت کے خلاف حیاتیت^۱ کا ترجیhan ہے ۔ ۱۸۵۹ء میں پیرس کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا ۔ بچپن سے نہایت ذہین اور دراک تھا ۔ ریاضی اور طبیعتیں میں استیاز حاصل کیا لیکن سائنس کو چھوڑ کر فلسفی کی طرف مائل ہو گیا ۔ فارغ التحصیل ہو کر فلسفہ پڑھانے لگا ۔ اس کی مشہور کتاب "ارتقائے تخلیقی"^۲ ۱۹۰۰ء میں شائع ہوئی اس میں مادی میکانکیت کی تردید کی گئی ہے اس لیے مذہبی حلقوں میں اس کا ہر جوش خیر مقدم کیا گیا ۔ برگسان نے آخری عمر میں پتسمہ لی کر کایسا نے روم کی پیروی اختیار کر لی ۔ نیجریوں کی تردید کرتے ہوئے برگسان کہتا ہے کہ حیات آزاد اور غلیقی ہے اور مادے کو اپنی منصبہ برآری کے لیے استھان کرنی ہے ۔ حیات کے اعمال کی توجیہہ طبیعتیں یا کیمیٹری کے قوانین سے ہوں کی جاسکتی جیسا کہ نیجریوں کا ادعا ہے ۔ حیاتیت میں تغیر اور زمان کو بڑی ابیعت دی گئی ہے ۔ اور اس کا اصل اصول ارتقائی ہے ۔ میکانکیت کے بر عکس حیاتیت پسند خائیت کی تلقین کرتے ہیں ۔ برگسان اس خائیت کو میکانکیت کے جس ہی کی ایک صورت سمجھ کر رد کر دیتا ہے اور اپنا مستقل فلسفہ پیش کرتا ہے جسے اس نے ارتقائے تخلیقی کا نام دیا ہے ۔

برگسان نے اپنے فلسفے کا آغاز پیپر پر تنقید کرنے سے کیا ہے ۔ اپنی کتاب "زمانِ تخلیقی" میں وہ کہتا ہے کہ سپنسر کے نظریہ زمان پر شور کرنے ہوئے آسے محسوس ہوا کہ حقیقی زمان کو ریاضی کے اصولوں میں مقید و محصور نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقی زمان کا جوبہ سیلان یا بہاؤ ہے ۔ سائز من اس بہاؤ سے اتنا نہیں کرنی نہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ پر شے کو نکل کر کے آن کا ناپ تول کرنی ہے ۔ بہاؤ کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے ۔ اتنا لکھ کر برگسان کہتا ہے کہ اس انکشاف کے بعد میں نے دوبارہ زندگی کے ارتقا پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے سپر کی ارتقائیت کو از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ اور میں بہاؤ یا مرور محض کے تصور میں غرق ہو کر رہ گیا ۔ برگسان طبیعتیں کے اساسی مسائل زمان، مکان، مادہ، حرکت، توانائی وغیرہ کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ سائنس حقیقت اشیاء کا ادراک کرنے سے قادر ہے ۔ حقیقی زمان کے ادراک داخلی زندگی کے بلا واسطہ مشابہ سے ہی سے ممکن ہو سکتا ہے ۔ اس بلا واسطہ ادراک کو اس نے وجود ان کہا جو اس کے نظریے میں اساسی ابیعت رکھتا ہے اور جس کی بنا پر اس کے فلسفے کو وجود ایتھے کہا جاتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ وجود کے بغیر زمان کی حدیقت کو پالا نہیں جا سکتا ۔ عقلی علم کو وہ خارجی، اضافی اور جزوی سمجھتا ہے ۔ اس نوع کا علم اشیاء کو جمود کی حالت میں دیکھتا ہے اور ان کا تجزیہ تو کر سکتا ہے لیکن ان میں انداد قائم نہیں کر سکتا اس کی مثال دینے ہوئے وہ کہتا

ہے کہ عقل ذی حیات کو نکلے کر کے رکھ دینی ہے لیکن ان نکڑوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ یہ کام وجدان کا ہے۔ برگسان کے خیال میں دوسرے فلاسفہ نے مکان کی مابہیت کے مطالعے سے جو نتائج اخذ کئے توہر انہیں زمان ہر منطبق کر دیا گیا جس سے گونا گون غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ زمان کی حقیقت اُس وقت سنکھف ہوئی ہے جب اس میں سے مکان کو خارج کر دیا جائے۔ اس بات کی وضاحت کرنے پوئے اُس نے انسان کی اصل ذات اور عمرانی ذات میں تفریق کی ہے۔ اُس نے کہا ہے کہ ہزاری عمرانی ذات شعوری رو کو چند جامد نکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے جو کیفیات اور واردات کی صورت میں پکے بعد دیکھے ہارے ذہن میں وارد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بھاری اصل ذات مسلسل تغیر و حرکت کا مشاپدہ کرتی ہے۔ یہ مشاہدہ تعمق اور مراقبیت کی حالت میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر برگسان نے زینو الیاطی کے تاریخی عقائد سے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ زینو کا عقائد یہ تھا کہ تیر چلا جانے تو وہ حرکت نہیں کرتا لیکن کہ ہر لمحہ کسی نہ کسی نقطے پر نہہرا ہوا ہوتا ہے۔ برگسان کہتا ہے کہ یہ واحد ہے۔ در اصل تیر مسلسل حرکت میں ہوتا ہے۔ اس مسلسل میں اُس نے سینا کی مثل بھی دی ہے۔ اُس کے خیال میں عقل جس کا تعلق عمرانی ذات سے ہے سینا فلم کی چھوٹی چھوٹی تصویروں کو ایک دوسرے سے الک الک کر کے جامد حالت میں دیکھتی ہے لیکن تسلی یا بھاف کی حالت میں اُس کا جمود ختم ہو جانا ہے۔ ”ارتقاء غلبی“ میں وہ سپنسر کے متعلق لکھتا ہے :

”سپنسر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ارتقاء کا تصور ارتقاء اشیاء کے اکٹھا کرنے سے کرتا ہے جس سے وہ فکری مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت کو نکلے نکلے کر دینا ہے۔ ارتقاء تخلیقی کا راویہ، نگہ اس سے مختلف ہے۔“

برگسان کی کائنات نشوونما پاریسی ہے زندہ ہے حرکت میں ہے اس میں تخلیقی ارتقاء کا عمل جازی ہے جس کے نتیجے میں ہر لمحہ نئی نئی اشیاء کا ظہور ہو رہا ہے۔ مادی عالم حیات ہی سے نکلا ہے۔ مادے کو منظم کرنے کی کوشش میں تخلیقی قوت مقید اور پابند ہو کر رہ گئی ہے اور مادے کی گرفت سے آزاد ہونے کے لئے پانہ پاؤں مار رہی ہے۔ یہ خیال سنایت اور تصوف کے قریب ہے۔

برگسان کے خیال میں مسلسل حرکت و تغیر یا مروڑ بعض ہی حقیقت ہے۔ ارتقاء کے عمل کے پیچھے جوشش حیات کیز فرمایا۔ مادہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے جن پر خالب آئے سے جوشش حیات کی ورزش اور تکمیل پوچی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابی نوع انسان گھوڑ سوزوں کا ایک رسالہ ہے جو سربث گھوڑے دوڑاتا ہو اور پر رکاوٹ کو۔ مال کرتا ہوا آئے بڑھ رہا ہے۔ جہاں عقلی استدلال سے کام نہیں نکل سکا وہاں برگسان نے تمثیلوں سے کام لیا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ مادہ حیات سے نکلا ہے۔ مادہ حیات سے کیسے نکلا؟ اس سوال کے جواب

میں وہ دلیل نہیں دیتا فوارے کی مثال دیتا ہے کہ فوارہ چل رہا ہو تو پانی کا دھارا زور سے اچھل کر اوپر آنہتا ہے۔ یہی جوشش حیات ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اس دھارے سے پانی کے جو قطرے ادھر آدھر گرتے ہیں آنہیں عقل مادے کا نام دیتی ہے۔ برگسان کے فلسفے کا حاصل یہ ہے کہ حیات تغیر ہے۔ تغیر کا مطلب ہے سلسلہ تخلیق۔ زندہ رہنے کا عمل بذات خود تخلیق کا عمل ہے۔ تخلیقی مسلسل کے اس عمل نے انسان کو قدر و اختیار بخشنا ہے کیون کہ جبر تخلیق کے منافی ہے۔

برگسان کے زمان یا مرورِ حاضر کے تصور کے ساتھ اس کا حافظتی کا نظریہ بھی وابستہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمان ایک بھاؤ ہے جسے عقلِ ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم کر دیتی ہے جیسے موجود مارتے ہوئے پانی میں حد تفریق قائم کر کے اسے مختلف مسندروں کے نام دے دئے جاتے ہیں۔ ماضی مثنا نہیں حال میں محفوظ رہتا ہے جس میں مستقبل کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔

برگسان کا فلسفہ دونی کا فلسفہ ہے جس میں حیات اور مادے اور عقل اور وجود ان کی دوسری بڑی اہم ہے۔ مادے سے اس کی مراد وہ ہے جس شے ہے جسے عقل سے مادے کا نام دے رکھا ہے۔ کائنات میں انہی دو اصولوں میں بیکار و تصادم ہے۔ حیات اوپر کی طرف پرواز کرنے ہے مادہ پستی کی طرف کھیجنا ہے۔ حیات ایک عظیم قوت ہے۔ جوشی حیات ازل سے موجود ہے اور مادے کے خلاف صفت آرا ہے۔ یہ آزاد اور خود مختار فعلیت ہے جو مادے کی رکاوٹوں پر قابو پا لیتی ہے۔ برگسان کے خیال میں ابتداء میں حیات تھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ حیات نے جبت اور عقل کی دونی اختیار کی۔ جبت اور عقل کی تفریق اس کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ جبت کی پہترین صورت کو آمنے وجود ان کا نام دیا ہے۔ جس طرح وجود ان کا تعلق زمان سے کھرا ہے اسی طرح عقل مادے سے وابستہ ہے۔ مادے اور عقل کی نشوونما متوازی خطوط پر ہوئی ہے۔ برگسان ”ارتناۓ تخلیقی“ میں کہتا ہے:

”محدود مفہوم میں ہماری عقل کا مقصد ہے ہمارے جسم کو ماحول کے مطابق کرنا۔ خارجی اشیاء کے علاقوں کی نمائندگی کرنا۔ مختصر آمادے کے متعلق سوچ بچار کرنا۔“

عقل کا خاصہ یہ ہے کہ عالم کو الگ الگ اشیاء میں تقسیم کر کے آن کا مطالعہ کرنے ہے۔ وجود عالم کو اپنی اصل حالت میں یعنی بھاؤ کی صورت میں دیکھتا ہے عقل کی دسترس صداقت تک نہیں پوسکتی۔ وجود صداقت کو پالیتا ہے۔ وجود ان کی تعریف کرتے ہوئے برگسان کہتا ہے:

”وجود وہ جبت ہے جسے اپنا شعور بوگیا ہو اور جو اپنے مقصد سے آگہ ہو کر اس کی توسعی کا باعث ہو سکے۔“

ایک اور جگہ کہا ہے:

”یہ (وجود) ایک قسم کی عقلیاتی پعدردی ہے جس کی منہ سے ایک شخص کسی شے کے بطون میں جکہ، پا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے اب کی مطابقت اس شے

کے ہے نظیر عنصر سے جو ناقابل اظہار ہے کر سکے۔"

اہر کہتا ہے :

"ایک قسم کی عقلیاتی ہمدردی جس کی مدد سے ایک شخص کسی شے کی کنٹھ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی اس انفرادی خصوصیت کو پالیتا ہے جو ناقابل اظہار ہوتی ہے۔"

کویا وہ جبیت جو خود آگاہ ہو جانے وجدان کھلانے کی - ظاہرا جبیت خود آگہ آس وقت ہوگی جب آس میں تنگر کا عنصر آئے کا اور تنگر کا یہ عنصر لازماً عقلی ہوگا۔ اس طرح جبیت کے وجدان میں بدلنے کے لیے عقل کا شمول ضروری ہے۔ برگسان کہتا ہے عقل وجدان سے نکلی ہے۔ اگر ایسا ہے تو عقل کو وجدان کی ترقی یافتہ صورت سمجھا جائے گا لیکن برگسان آسے وجدان کے مقابلے میں ناقص اور کوتاه بین قرار دیتا ہے اور ہر اسی ناقص عقل کی مدد سے وجدان اور مسرور محض کے انبات میں بڑے بڑے دقیق عقلی شوابد بھی پیش کرتا ہے۔ سی۔ ای۔ ایم جوڈ نے امن بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ خرد دشمن عقل کو ناقص ثابت کرنے کے لیے عقل ہی سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح خود آن کے ادعا کے مطابق آن کا استدلال ناقص ثابت ہوتا ہے۔ برگسان کا العیہ بھی یہی ہے۔ وہ عقل کو ناقص کہتا ہے اور ہر اپنے خرد دشمن فلسفے کی بنیاد عقلی استدلال ہی پر استوار کرتا ہے۔

برگسان کے ناقدين کہتے ہیں کہ آس نے قدیم تصوف کو جدید سائنس کے روپ میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غلیقی قوت مادے میں مقید ہو کر رہ گئی ہے اور مادے سے گلو خلامی پانے کے لیے باٹھ پاؤں مار رہی ہے۔ بھی بات صوفیہ نے روح کل کے متعلق کہی ہے۔ بہر کہتا ہے کہ عقل حقیقت کی کنٹھ کو نہیں پاسکتی کہ اس کا ادراک تعمیق کی حالت میں بلا واسطہ وجدان سے کیا جا سکتا ہے صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عقل ظواہر میں آجھہ کر رہ جاتی ہے اور حقیقت صرف مراقبی کی حالت میں وجدان پر منکشف ہو سکتی ہے۔ برگسان نے اتنا کیا ہے کہ وجدان کو جبیت سے وابستہ کر کے قدیم تصوف پر جدید سائنس کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ برٹلندرسل لکھتے ہیں :

"برگسان کے فلسفے کا غالب حصہ محض روایتی تصوف پر مشتمل ہے جسے مقابلہ نئی زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ خیال کہ عقلی نقطہ نظر سے اشیاء ایک دوسرے سے مختلف دکھانی دیتی ہیں پارمی ناندیس سے لے کر بریدلے تک مشرق و مغرب کے ہر صوف کے نظریے میں دکھانی دیتا ہے۔ برگسان نے دو طریقوں سے اس خیال میں ندرت پیدا کی ہے۔ اولاً وہ وجدان کو حیوانات کی جبیت سے متعلق کر دیتا ہے۔ یہ خیال آس کے نظریات کو سائنسک رنگ دیتا ہے۔ ثانیاً وہ 'مکان' اشیاء کے آس باہمی تباہن کو قرار دیتا ہے جو عقل کو بظاہر دکھانی دیتا ہے اور "زمان" کو اشیاء کا رابط باہم کہتا ہے جو

وجدان پر منکشf ہوتا ہے۔ اس کے افکار کی پر دلعزیزی کے باعث اس کا نظریہ جوش حیات ہے۔ اس کی سب سے بڑی جدت یہ ہے کہ اس نے تصوف ہر ارتقاء اور حقیقت زمان کا پیوند لکا دیا ہے۔ فرینک تھلیٰ تاریخ فلسفہ میں لکھتے ہیں۔

"خود دشمن تحریک کا سب سے دلچسپ اور پر دلعزیز مفکر پر گسان ہے۔ رومانیوں، نتائجیت پسندوں اور صوفیوں کی طرح اس کا عقیدہ ہے کہ سائنس اور منطق ادراکِ حق سے قاصر ہیں۔ زندگی اور حرکت و تغیر کے مقابلے میں عقلی استدلال ہے کار ہے۔ سائنس صرف میکانیک ہے ہے ہم اور جامد اعمال و اشیاء کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عقل جوش حیات کے ہاتھ میں محض ایک آلی کی مانند ہے۔ وجدان زندگی ہے حقیقی زندگی ہے۔ وجدان خود آگہ شائستہ روحانیت آئیز جبت ہے"

اس میں شک نہیں کہ پر گسان کے بنیادی افکار فلاہایتوں کی نواشرافت سے مakhوذ ہیں اور وہ نواشراقیوں کی طرح سربیان اور وحدت وجود کا قائل ہے۔ اس پہلو سے اس نے تصوف پر سائنس کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ جہاں تک اس کی خرد دشمنی کا تعلق ہے وہ جرم رومانیت اور ارادیت سے متاثر ہوا ہے۔

پر گسان کے ارتقائے تخلیق میں ترمیم کر کے بعض اپل فکر نے ارتقائے دروزی کا نظریہ پیش کیا۔ ان میں لائل مارگن اور الکزنڈر قابل ذکر ہیں۔ مارگن (۱۸۵۲-۱۹۳۶ع) پر گسان کی حیاتیات کو تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ پر گسان کے جوش حیات اور مرور محض جیسے معروضات سائنس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انہیں رد کر کے فلسفہ ارتقاء کی عمارت سائنس کی بنیادوں پر اٹھائی جائے۔ مارگن نے میکانکیت اور غائیت کی درمیان مقابمت کر کے طبیعی ارتقاء اور تخلیق ارتقاء میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مارگن کہتا ہے کہ عمل ارتقاء میں دو قسم کی قوتیں کارفرما ہیں۔ ایک ارتقاء تدریجی کی محک ہے اور دوسرے کی رو سے دوران ارتقاء میں یک لخت بعض بالکل نئی اشیاء وجود میں آجائیں۔ پہلی کو وہ نتیجہ کہتا ہے اور دوسری کو بروز" کا نام دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ مادے سے حیات کا بروز بوا" حیات سے جیتنوں کا اور جیتنوں سے ذین کا بروز ہوا۔ یہ ارتقا ذہن پر ختم نہیں پوکا بلکہ مساعد حالات کے پیدا ہو جانے سے بیذانی قوت کا بروز ہو گا۔ مارگن کے نظرے کی رو سے خدا کائنات سے پہلے نہیں تھا نہ اس نے کائنات کو خلق ہی کیا بلکہ کائنات کے عملی ارتقا سے خدا پیدا پوکا۔

ارتقائے بروزی کا دوسرا ترجمان الکزنڈر (۱۸۵۹-۱۹۳۸ع) کہتا ہے کہ کائنات زمان / مکان اکائی ہے جو سراسر حرکت و تغیر ہے۔ یہ اکائی مثالیت پسندی کے وجود مطلق کے مشابہ ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ کائنی ارتقا کی بنیاد

ہے۔ برگسان نے زمان کو مکان سے منزہ کر کے مرورِ بعض کا نظر بھی پیش کیا تھا اس کے برعکس الگزندلر نے زمان میں مکان مخلوط کر دیا تاکہ اس میں تسلیل پیدا ہو سکے۔ وہ کہتا ہے کہ تسلیل امن وقت پیدا ہوتا ہے جب زمان میں مکان نفوذ کر جاتا ہے۔ اس کے خیال میں اس تسلیل کے باعث کائنات بتدریج ارتقاء پنیر ہو رہی ہے اس میں نہ وقوع آتے یعنی اور نہ یہ عمل زندگی لکھنے کا ہوتا ہے۔ الگزندلر کہتا ہے کہ حیات مادے کے عمل کا تسلیل ہے اور مادے کا بروز ہے۔ آخری اور عظیم وجود جو زمان / مکان / اکٹی سے نمودار ہو گا۔ خدا مادے اور ذہن کی طرح زمان / اکٹی کی تخلیق ہے اور عالم کا خالق نہیں ہے جیسے کہ اہل مذہب کہتے یعنی۔ خدا روز اzel سے کامل اکمل کی صورت میں موجود نہیں تھا بلکہ بتدریج وجود پنیر ہو رہا ہے۔ یہ نامکمل خدا کائنات کے ساتھ ساتھ ارتقا کے منازل طے کر کے اکملت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔

ارتقاء بروزی اور ارتقاء تخلیقی دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں نظریے سریانی ہیں۔ ارتقاء بروزی کا جائزہ لیتے ہوئے برٹنلر میں اپنی کتاب "مذہب و سائنس" میں لکھتے ہیں:

"بروفیسر الگزندلر ارتقاء بروزی کا ترجمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جائد مادہ،" حرکی مادہ اور ذہن انسانی بتدریج ارتقاء پنیر ہوئے ہیں۔ اس نشوونما کا تصور وہی ہے جو لانڈ مارگن نے پیش کیا ہے اور اسے بروز کا نام دیا ہے۔ حیات کا بروز مادے سے پوا ہے۔ ایک زندہ شے مادی شے بھی ہے البتہ اس میں ایک نئی صفت کا ظہور ہوتا ہے جیسے حیات کہتے ہیں۔ یہی بات ہم اس عمل سے متعلق کہہ سکتے ہیں جو حیات سے ذہن کی جانب ہوتا ہے۔ ایک "بادہن شخص" زندہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ارتقا میں ایسی بیچیدگی ہوئی ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی اس قدر مربوط ہوئے ہیں بالخصوص اس کے نظام عصبی میں یہ ربط و تنظم اس قدر نازک اور دقیق ہوتا ہے کہ اس سے ذہن یا شعور کی نمود ہوئی ہے۔

وہ کہتا ہے "یہ کیوں سمجھے لیا جائے کہ یہ ارتقائی عمل ذہن پر آکر رک جائے گا۔ ذہن سے آگے بھی ایک صفت کا نقش ملتا ہے جس کا ذہن سے وہی تعلق ہے جو ذہن کا حیات سے اور حیات کا مادے سے ہے۔ اس صفت کو میں بزدانتیت کہتا ہوں اور جس شے میں یہ پائی جاتی ہے وہ خدا ہے۔"

اس کے بقول کائنات اسی بزدانتیت کو پا لینے کی سعی میں سرگردان ہے۔ یہ بزدانتیت تاحال نمودار نہیں یعنی۔ وہ کہتا ہے کہ خدا خالق نہیں ہے جس کے تاریخی مذاہب کہتے ہیں بلکہ مخلوق ہے۔ بروفیسر الگزندلر اور برگسان کے تاریخی ارتقاء میں کھرا راستہ موجود ہے۔ برگسان کہتا ہے کہ جبریت غلط ہے اور دوران ارتقا میں نئی کیفیات کا ظہور ہوتا ہے جن کا ابتداء میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایک ہراسار قوت اور شے کو ارتقاء پر

محبوب کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جاندار جو بصارت سے عاری ہے اسے نامعلوم طور پر احساس ہوتا ہے کہ مجھے بصارت ملنے والی ہے اور وہ اسی طرح عمل کرتا ہے جو بصارت پر منتج ہوتا۔ پر بعد نئے نئے اعمال کا بروز ہوتا ہے لیکن ماضی کبھی فنا نہیں ہوتا حافظے میں باقی رہتا ہے۔ فراموش کاری محض ظاہر کا دھوکا ہے۔ اس طرح دنیا مسلسل ترق کر رہی ہے ایک وقت آئے کا جب یہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ صرف ایک چیز سے دامن بجانا ضروری ہے اور وہ عقل و خرد ہے جو جامد ہے اور ماضی کی طرف مائل رہتی ہے۔ ہمیں اپنے وجود کو بروئے کار لانا چاہیے جس میں نئی نئی کیفیات کے اختراع کرنے کی صلاحیت موجود ہے . . . میں یہ نہیں کہتا کہ پروفیسر الکرنڈر نے برکسان کے فلسفے کو بد نہام و کمال قبول کر لیا ہے بہر صورت دونوں میں گھری ممائیں پانی جاتی ہے اگرچہ دونوں فلسفے آزادانہ نہودار ہوئے ہیں۔ ارتقائے بروزی کے مدعی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو خلق نہیں کیا بلکہ کائنات خدا کو خلق کر رہی ہے۔ روایتی مذہب کے خدا کے ساتھ اس خدا کا تعلق برائے نام ہر رہ گیا ہے۔"

وحدت وجود کے ماننے والوں اور ارتقائے بروزی کے شارحین کا خدا ظاہراً مذہب کا خدا نہیں ہے جو کائنات سے ماؤراء ہے۔ خالق ہے، قادر مطلق ہے، عدم سے وجود میں لاسکتا ہے بلکہ سریانی خدا ہے جو کائنات میں ظاری و ساری ہے اور کائنات سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں اپل مذہب نے نظریات ارتقا سے متاثر ہو کر ماؤرانی خدا سے قطع تعلق کر لیا ہے اور سریانی خدا کے حق میں تاویلی کر رہے ہیں۔ اقبال نے اپنے خطبات میں سریانی خدا کے اثبات میں دلائل دیے ہیں۔

ارتقائیت کا ایک اور نامور ترجیhan وائٹ پیڈ (1861 - 1932ع) ہے جو ایک بلند پایہ ریاضی دان بھی ہے۔ اس نے برٹنڈرسل کے ساتھ مل کر منطق کو جدید ریاضیات کی اساس پر از سر نو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وائٹ پیڈ کے نظریے میں ارتقائیت اور ہم روحیت کا استزواج ہوا ہے۔ ہم روحیت کا پانی لائب نئز تھا جس کا ذکر مثالیت پسندی کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ لائب نئز نے کہا کہ کائنات کی بر شری ارواح سے مر کب ہے۔ ان ارواح کو اس نے موناٹ کہا ہے۔ وائٹ پیڈ کی مابعد الطبیعتیات بھی ہم روحیت ہے جس میں خدا روح اعلیٰ کا رجہ رکھتا ہے اور اس نظامِ ارواح کی تکمیل کرتا ہے۔ وائٹ پیڈ نے طبیعتیات کے جدید ترین نظریات اضافت اور مفادیر عنصری سے استفادہ کیا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ آئن سٹان، منکوسک، شروئنگر اور ہائزن برگ کے انکشافات کے باوجود آج بھی سائنس ستر ہوں

صدی کے طبیعیات نظریات سے بیجھا نہیں چہڑا سکی۔ اس سائنس میں قدروں کے اے کوئی جگہ نہیں ہے نہ اس میں حسن و جمال، آرٹ یا تصوف کے لئے کوئی گنجائش ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انسان کی عقلی اور جذباتی زندگی کے درمیان خلا پیدا ہو گیا ہے۔ جذبہ اور عقل ایک دوسرے کی تقویت کا باعث نہیں ہوتے کیونکہ ان کے درمیان رابطہ بحال نہیں ہوسکا۔ اس احسان نے واٹھ پیڈ کو مجبور کیا کہ وہ ریاضیات کی دنیا سے نکل کر مابعد الطبیعتیات کی دنیا میں قدم رکھے۔

واٹھ پیڈ کا نظریہ جدید سائنس کے دو عقاید کی نئی سے صورت پذیر ہوا ہے (۱) نیوٹن کا نظریہ "حرکت اشیاء اور (۲) ڈیکارٹ کا نظریہ جس کی رو سے جسم اور ذہن ایک دوسرے سے قطعی جذا کانہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس اور آرٹ کو ایک دوسرے سے نبرد آزمہ ہونے کی بجائے ایک دوسرے کو تقویت دینا چاہیے۔ وہ انہیں ایک دوسرے میں ضم کر دینا چاہتا ہے۔

واٹھ پیڈ کائنات کو عضویات "وحدت خیال" کرتا ہے۔ اس کے خیال میں نیجر ایک جامد حقیقت نہیں ہے جو ساکن خلا میں واقع ہے بلکہ "واقعات" کا نظام ہے جس میں ایک مسلسل تغایبی ہاؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس نے "واقعات" کی ترکیب عام مفہوم میں استعمال نہیں کی۔ اس سے مراد وہ برق لہریں یہ جو ایم کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان واقعات کی خارجی ترکیب سے مادہ صورت پذیر ہوتا ہے اور داخلی ترکیب سے انسان ذہن کی تہود ہوئے ہے۔ یہی واقعات کائنات کا اساسی عنصر ہیں اور چند قوانین کے تحت صورت پذیر ہوتے ہیں یا منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح موضوع اور معروض کا فرق مٹ کر رہ گیا ہے۔

واٹھ پیڈ کے عضویات نظریے میں سائنس، منہب اور آرٹ ایک دوسرے میں مددغم ہو جاتے ہیں۔ ان کے استزاج سے جو اکائی شکل پذیر ہوئے ہے اس میں سائنس کے حقائق، روحانی اور اخلاقی قدریں اور آرٹ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ واٹھ پیڈ روایتی سائنس کے ساتھ روایتی منہب کو بھی رد کر دیتا ہے۔ اپنی مشہور کتاب "سائنس اور عالم جدید" میں نہایت دقیق اور خیال افروز ہیرائے میں اس نے منہب اور سائنس کے طریق جستجو کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس کی دنیا میں خواہ کتنا انقلاب اور انکشاف کیا جائے اسے فتح و نصرت سے تعییر نہیں کیا جاتا لیکن منہب بعیشه اسے اپنی شکست پر معمول کرتا ہے کیونکہ اس سے منہب کے روایتی نظریات کو صدمہ پہنچتا ہے یہی وجہ ہے کہ منہب روز بروز رو بہ تذلل ہے۔ دوسرے ارتقائیت پسندوں کی طرح واٹھ پیڈ کا نظریہ اساسی طور پر سریانی ہے اور تو اشرافتی کے قربن ہے تو اشراقيوں کی ذات اور واٹھ پیڈ کی روح اعلیٰ ایک ہی تصور کے مختلف نام ہیں۔

واٹھ پیڈ کو سائنس سے بہ شکایت ہے کہ اس کے انکشافات نے انسان کا ذہنی

اور قلبی رابطہ کائنات سے منقطع کر دیا ہے۔ وہ جو من مثالیت پسندوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا کہ کائنات ذہن انسان کی تخلیق ہے اس کھونے ہوئے تعلق کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکرے ہیں کہ وائٹ ہیڈ کے پس روہیتی فلسفے کی رو سے تمام اشیاء اور ذی حیات "ارواح" پر مشتمل ہیں اور یہ نظام ارواح جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ بھی ہے روح اعلیٰ یا خدا کے وجود سے قائم ہے۔ یہ کہہ کر وائٹ ہیڈ نے مثالیت پسندوں اور صوفیوں کی طرح انسان اور کائنات کے درمیان رو حافی ربط و تعلق کو از سر نو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وائٹ ہیڈ رومانی شعراء بالخصوص ورڈزورتھ کا بڑا مداد ہے کیون کہ وہ نیچر کو زندہ تصور کر کے اس کے ساتھ جذباتی رشتہ قائم کرتا ہے۔ انہی وجہوں کی بنا پر وائٹ ہیڈ کے ناقابلین کہتے ہیں کہ اس نے جدید سائنس اور فلسفے پر تصوف کا بیونڈ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس پہلو سے اسے صوفیوں، رومانیوں اور برگسان کا جانشیں سمجھا جاسکتا ہے۔

جدلیاتی مادیت پسندی

جدلیاتی مادیت پسندی کا شمار فلسفے کے جدید ترین مکاتب میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کی ترکیب لفظی سے ظاہر ہے اس میں جدلیات اور مادیت کا امتزاج ہوا ہے۔ ان اصطلاحات کی تشرع سہولت فہم کا باعث ہوگی۔

لفظ مادیت کا عام مفہوم دنیوی لذات میں دلچسپی لینے کا ہے۔ اس کا فلسفیانہ مفہوم زیادہ وسیع ہے مختصر آئسے مراد ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور ذہن مادے کی پیداوار ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے مادیت کا آغاز فلسفہ "یونان" سے ہوا تھا۔ قدماء یونان مادے کو نہوں سمجھتے تھے جیسے ناپا اور تولا جا سکتا ہے۔ اور جسے نہر منے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تقسیم کا یہ عمل جاری رہے تو آخر میں ایسے اجزا نہودار ہوں گے جن کی مزید تقسیم ممکن نہیں ہو سکتی۔ ان اجزاء کو ایم کہتے تھے۔ یہ نظریہ دیماقراطیس کا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان کے جسم اور اس کی روح دوسری مادی اشیاء کی طرح ایشمند پر مشتمل ہے البتہ جسم کے ایم کیف بیں اور روح کے نہایت نایف بیں۔ دیوتوں طفیل ترین ایشمند سے مرکب بیں۔ انسووں صدی کے سائنس دانوں نے کہا کہ ایم نہایت سخت بڑ اور ناقابل تقسیم بیں جو ایک دوسرے کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے بیں۔ جدید طبیعتیں نے یہ نظریہ مسترد کر دیا ہے۔ بہر صورت رومہ کے فلاسفہ میں ایقوروس اور لکربیشیں مادیت پسند تھے۔ رومہ کے زوال اور عیسائیت کی اشاعت سے مادیت کی روایت دب کر رہ گئی۔ ازمونہ وسطیٰ کی صدیوں میں افلاطون اور ارسطو کی مثالیت کا چرچا رہا۔ احیاء العلوم کے سائنس دانوں گلیلیو۔ نیوٹن وغیرہ نے مادیت کی روایت کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ جدید سائنس کی ترویج کے ساتھ مثالیت پسندی کے خلاف شدید رد عمل ہوا جو انہاروں میں صدی کے قاموں میں کے افکار میں نقطہ عروج ک پہنچ گیا۔ جدلی مادیت کے شارحین کارل مارکس اور الجلس بھی قاموں میں فیض یاب ہوئے بیں۔

مادیت اور مثالیت کے مقابل کی روایت فلسفہ "یونان" سے یاد کار ہے۔ مادیت پسند کہتے ہیں کہ مادہ حقیقی ہے اور اپنے وجود کے لیے ذہن یا موضوع کا مدد نہیں ہے۔ ذہن مادے سے نسلتا ہے۔ مادے کے بغیر ذہن کا تصور نہیں کیا جاتا۔ مادیت پسندوں کے خیال میں انسان اس لیے سوچتا ہے کہ وہ مغز سر رکھتا ہے خیال مغز سرہی کی پیداوار ہے۔ اور مغز سر مادی ہے۔ مادے۔ جسم یا مغز سر

بغیر سوچ بھار ممکن نہیں ہو سکتی۔ ایکن مادے کو اپنے وجود کے لئے کسی ذہن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خیالات و افکار اشیا کو پیدا نہیں کرتے بلکہ اشیا خیالات و افکار کو پیدا کرتی ہیں۔ مادیت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ وجود یا خیال میں ایک قسم کا اتحاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود یا مادہ حقیقی ہے۔ ذہن کا انحصار مادے پر ہے کیونکہ مغز سر جم کی وہ پیداوار ہے مادی ہی ہے۔ ان کے خیال میں کسی با شعور ہستی نے کائنات کو پیدا نہیں کیا بلکہ مادی دنیا یا نیچر نے ذہن و شعور کی تخلیق کی ہے اور ذہن نے خدا کے تصور کو پیدا کیا ہے۔ کوہا خدا نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ذہن انسانی نے خدا کے تصوو کو خلق کیا ہے۔ دوسرا طرف مثالیت پسند کہتے ہیں کہ ذہن مادے کا خالق ہے اور مادہ ذہن سے علیحدہ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ ہمارے خیالات و افکار ہی اشیاء کی تخلیق کرتے ہیں۔ مادیت پسند کہتے ہیں کہ عالم معروضی حقیقت ہے۔ ہمارے ذہن سے علیحدہ موجود ہے اور اپنے وجود کے لئے ہمارے ذہن کا محتاج نہیں ہے۔ مثالیت پسندوں کا ادعا ہے کہ حقیقت ہمارے ذہن میں ہے اس سے خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ زمان و مکان ہمارے ذہن کی تخلیقات ہیں۔ مادیت پسند جواب دیتے ہیں کہ مکان ہم میں نہیں ہے بلکہ ہم مکان میں ہیں اور مادہ ہمارے ذہن سے الگ موجود ہے۔

جدلیات کی تدوین بھی فلاسفہ یونان نے کی تھی - Dialectics کا لغوی معنی ہے "بحث کرنے کا فن" اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بر شے مجموعہ اشاد ہے یعنی بر شے میں اس کی خدمت موجود ہے۔ تمام اشیاء اپنی خد کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اور ان کے بطون میں بر وقت مشتبہ اور منفی کی کشمکش شروع رہتی رہتی ہے۔ اس طرح متضاد قوتوں کی کشمکش سے عالم میں حرکت و تغیر پیدا ہوتا ہے۔ تضاد جدلیات کا عظیم قانون ہے۔ پیریقلیتس یونانی جدلیات کا شارح تھا۔ اس کا قول ہے :

"کوئی شے ساکن نہیں ہے۔ بر شے تغیر پذیر ہے۔ کوئی شخص ایک بی ندی میں دوبار غسل نہیں کرتا۔"

پیریقلیتس نے تغیر و حرکت کی اساسی اہمیت کی طرف توجہ دلانی اور کہا کہ تضادوں ہی اشیا کے تغیر و ارتقا کا باعث ہوتے ہیں۔ افلاطون اور اس کے متبوعین کی سکونی ما بعد الطبیعتیات کی پسندگیر مقبولیت کے باعث جدلیات کو فروغ نہ ہو سکا۔ پیگل نے آئیسوں صدی میں اس کا احیاء کیا اور اسے نئے سرے سے مدون کیا۔ پیگل نے پیریقلیتس کی ہم نوافی کرتے ہوئے کہا کہ کائنات میں پر کہیں تغیر و حرکت کی کارفرماں ہے۔ کوئی شے کسی دوسری شے سے علیحدہ اپنا وجود نہیں رکھتی۔ سب اشیاء ایک دوسرے سے مروط و منسلک ہیں ایکن پیگل نے جدلیات کو مثالیت پسندی کے تابع کر دیا جب اس نے کہا کہ ذہن میں جو تغیرات واقع

ہوتے ہیں وہی مادی عالم میں بھی ہوتے ہیں۔ اس نے جدایاں عمل کے چند قوانین وضع کیے جو امن لحاظ سے اہم ہیں کہ جدلی مادیت کے شارحین نے بھی انہیں اخت کیا ہے۔

ہیگل کی جدلیات کے تین پہلو ہیں۔ ۱۔ اثبات ۲۔ نفی ۳۔ نفی کی نفی یا اتحاد۔ امن نظریے کی وضاحت کے لیے وہ پہلو کی مثال دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ پہلو میں نشو و نما کی قوت اثابی ہے لیکن بھی نشو و نما اسے پیج میں تبدیل کر دیتی ہے جو پہلو کی نفی کر دیتا ہے بھر اس پیج سے اکھوا پھوٹا ہے جس سے نفی کی نشی ہو جاتی ہے لیکن جس میں پہلو اور پیج دونوں کا جوپر محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح نفی کی نفی یا اتحاد کی صورت میں مشتب اور منفی دونوں صلاحیتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس آخری عمل کو ہیگل کی اصلاح میں "قدروں کا تحفظ" کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اسی صورت میں کائنات میں ہر کہیں جاری ہے اور اسی کے طفیل پر تصور سے وسیع تر تصورات عالم وجود میں آتے رہتے ہیں۔ ہیگل کے خیال کی رو سے بھی عمل کائنات کے ارتقا کا اصل سبب ہے۔ وہ کہتا ہے:

"تضاد اور حرکت زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی اس لیے تغیر پنیر ہوتی ہیں اور حرکت کرنے ہیں کہ خود ان کے بطون میں تضاد کا عنصر موجود ہے۔ تحفظ اقدار کے ساتھ ہیگل کا ایک اور اصول وابستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جدلیات عمل سے کمیت کیفیت میں بدل جاتی ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ ہر تبدیلی مختاد قوتوں کی کشمکش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کوئی شے ارتقاء پنیر اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اس کی نفی موجود ہوتی ہے۔ یہ تغیر دو قسم کا ہوتا ہے۔ جب کوئی شے اپنی اصل صورت میں رہ کر بدلتی ہے تو اسے کمیت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ جب وہ اپنی صورت بدل کر دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے تو اسے کیفیت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ اس طرح کمیت کیفیت میں بدلتی رہتی ہے۔ پانی کی مثال لیجئے۔ جب پانی اپنی اصلی صورت میں ہوتا ہے یا مختلف شکابیں اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی کمیت کی تبدیلی ہوگی۔ لیکن وہ گیسوں میں منقسم ہو جائے تو اسے کیفیت کی تبدیلی کہیں گے۔ یہ عمل اسی طرح ساری کائنات میں ہر کہیں جاری ہے۔

ہیگل کی مثالیت کے خلاف رد عمل ہوا تو جو منی میں لذوگ فوئر باخ (۱۸۱۴ء) نے ہیگل کے انکار پر کڑی گرفت کی۔ اس نے اٹھارہویں صدی کے فرانسیسی قاموسیوں کی طرح مذہب الہیات اور ما بعد انطباعات کی تردید میں قلم اٹھایا اور کامل مادیت کا ابلاغ کیا۔ کارل مارکس اور انجلس نے جو ہیگل کے متبوعین میں سے تھے ہیگل کی مثالیت سے قطع نظر کر کے اس کی جذبات کو مادیت میں منتقل کر دیا اور جدلی مادیت پسندوں کی بنیاد رکھی۔

کارل مارکس ۱۸۱۸ء میں جرمی کے ایک شہر نربر میں ایک ہودی پیر شر کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے آباء و اجداد ریانی تھے لیکن اس کے باپ نے مصلحتنا عیسائیت قبول کر لی تھی۔ مارکس نے ہاں اور بولن کی دس گاہوں میں اعلیٰ تعلیم

بائی۔ قانون کی تعمیل کے بعد اس نے تاریخ اور فلسفہ کا خصوصی مطالعہ کیا۔ ۱۸۵۱ع میں مشہور رومی فلسفی اپیکوروس پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ فارغ التحصیل ہو کر تعلیم و تدریس کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس انقلابی تحریک کی لیپٹ میں آ کیا جو شاہ فریدرک ولیم سوم کی موت کے بعد جرمی میں شروع ہوئی۔ مارکس جاگیرداری نظام کا سخت مخالف تھا جس نے صدیوں سے عوام کو ابتدائی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا۔ اپنے انقلابی انکار کی اشاعت کے لیے مارکس نے ایک رسمی رینش زانی ٹنگ کی زمام ادارت سنہال لی اور اس میں اپسے زور دار اور پر مغز مضامین لکھئے کہ دور تک اس کی علمیت اور وجودت فکر کی دھاک بیٹھے گئی۔ ۱۸۶۳ع میں حکومت نے یہ پرچہ بند کر دیا۔ ۱۸۷۷ع میں پرس میں مارکس کی ملاقات مجلس سے ہوئی اور دونوں کی عمر بھر کی دوستی کا آغاز ہوا۔ ان ایام میں مارکس کو اپنے والد سے ایک معقول رقم ملی جس سے اس نے اپنا چھاپا خانہ خرید لیا اور ایک نیا پرچہ ”نیو رینش زانی ٹنگ“ کے نام سے جاری کیا۔ حکومت نے یہ پرچہ بھی بند کر دیا اور مارکس کو نہایت پریشان حالی میں پجرت کرنا پڑی جس سے اس کا سارا اثناء دریا برد ہو گیا۔ مارکس کی انقلابی سرگرمیوں کے باعث مغربی ممالک کی حکومتیں اس سے خائف رہتی تھیں اور اس کھیں بھی چین سے نہ یہٹھنے دیا جاتا تھا۔ جب اسے جرمی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تو وہ بیلجم چلا گیا اور وہاں سے خارج البلد ہوا تو پرس پہنچ گیا۔ مارکس کی اس در بذری میں اس کی با وفا بیوی جینی نے رفاقت کا حق ادا کیا۔ جینی جاگیرداروں کے ایک ممتاز خاندان فان وسٹ فالن کی فرد تھی۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھی اور ناز و نعم میں بیلی تھی۔ شاعر پائیں اور لاسال جیسے مبصرین حسن و جمال نے اسے خراج عقیدت پوش کیا ہے۔ جینی نے شوہر کی محبت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ زندگی کی آسانشوں کو خیر باد کھما اور شوہر کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ اشتہلی جماعت کا منشور جیسے مارکس اور انجلیس نے مرتب کیا تھا ۱۹۲۸ع میں شائع ہوا۔ اس کا مشہور نعرہ تھا ”دنیا بھر کے محنت کشو! متعد ہو جاؤ“ ۱۸۷۹ع میں پر طرف سے مایوس ہو کر مارکس نے لندن کا رخ کیا اور وہیں مر کر بیونڈ زمین پوا۔

انجلیس ۱۸۲۰ع میں جرمی کے ایک شہر بارمن میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک متمول کارخانے دار تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر انجلیس باپ کی طرح کاروبار کرنے لگا۔ انجلیس کا خاندان اپنے شہر میں پڑا معزز سعجہا جاتا تھا اس لیے جب انجلیس نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا تو اس کے باپ کو بڑی مایوسی ہوئی۔ انقلابیوں نے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی تو انجلیس نے بڑے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔ بیلن کے قریب پتھیاروں کی کمی اور رسے کی مشکلہت کے باعث انقلابیوں کو سرکاری فوج نے شکست دیے کہ تنہ بتر کر دیا۔ انجلس بچ نکلا اور مانچستر چلا گیا جہاں اس کے باپ کا ایک کارخانہ تھا۔ مانچستر کے دوران

نیام میں اس نے مزدوروں کے مصائب کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا۔ اس کی کتاب "انگلستان کے مزدور طبقے کے احوال" ذات مشاہدات پر مبنی تھی۔ اس کتاب کا انگلستان میں بڑا چرچا ہوا اور عوام مزدوروں کی زبیون حال سے پہلی مرتبہ آگہ ہوئے الجلس ۱۸۷۰ تک مانچسٹر میں مقیم ربا اور مارکس اندن میں اپنا تحقیقی اور انقلابی کام کرتا رہا۔ ان سالوں میں ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ خطوط چھپ گئے ہیں ان کے مطالعہ سے دو جگری دوستوں کے گھرے علمی و ذوقی اشتراک کا پتہ چلتا ہے۔ ۱۸۷۰ء میں انگلیس نقل مکان کر کے لندن آگیا۔ اس دوران میں اس کا باپ وفات پا چکا تھا مارکس کو لاکھوں کی جانباد ترکے میں ملی لیکن اس نے اپنا سب کچھ انقلابی تحریک پر لٹا دیا۔ اس نے شوہجی تربیت پائی تھی علم حرب کا ماہر ہونے کے باعث اس کے دوست اسے 'جرنیل' کہا کرتے تھے۔ وہ دہن کا بڑا پکا تھا اس کا مقولہ ہے:

"کہاہے راستے میں رکاوٹ آجائے تو کاوا دے کر مت نکل جاؤ۔ اس کا سامنا کرو اور کود کر اسے پار کرو"

لندن پہنچ کر مارکس اور اس کے اہل و عیال کو جس تنگ دستی اور پریشانی کا سامنا کرتا بڑا اس کی جھلکیاں جینی مارکس کے خطوط میں جا بجا دکھانی دیتی ہیں۔ ایک دفعہ مارکس کو کرانے کے مکان سے بے دخل کر کے اس کا سارا سامان فرق کر لیا گیا کیوں کہ ہائی پونڈ اس کے ذمے واجب الادا تھے۔ جینی ایک خط میں لکھتی ہے:

۱۸۵۰ء کے موسم ہمارے ہمیں چیلسی والا مکان چھوڑنا پڑا۔ میرا بھدے بے چارہ فاکس بنا رہا تھا۔ روزمرہ کی پریشانیوں سے باعث میری صحت خراب ہو گئی۔ ہم چاروں طرف سے مصائب میں گھرے ہوئے تھے۔ قرض خواہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک ہفتے تک ہم ایک جرم میں ہوٹل میں ٹھہرے رہے۔ یہاں کا قیام بھی مختصر ثابت ہوا۔ ایک صبح ہوٹل والے نے ہمیں ناشتہ دینے سے انکار کر دیا اور ہمیں نئی قیام گہ کی تلاش ہوئی۔ میری ماں جو تھوڑی بہت امداد کرنے تھیں اسی نے ہمیں فاقلوں سے بچانے دکھا۔ آخر ہمیں ایک یہودی فیٹہ بیچنے والے کے مکان میں دو کمرے مل گئے جہاں ہم نے گرمی کا موسم نہایت تکلیف میں گزارا۔" ایک اور خط میں لکھتی ہے:

"۱۸۵۲ء کے ایسٹر بر ہماری نہی فرانس کشید نزلے کا شکار ہو گئی۔ تین دن رات وہ زندگی اور موت کی کشکش میں گرفتار سکتی رہی۔ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دم توڑ دیا تو ہم نے اس کی نہی سی نعش کو عقبی کمرے رکھا اور سامنے کے کمرے میں فرش پر ہم نے اپنے بستر بھائے۔ تینوں بھے ہمارے ساتھ لیٹ گئے ہم سب اس نہی سے فرشتے کے لئے رو رہے تھے جس کا جسدے جان بھولے کمرے میں بڑا تھا۔

بے چاری نہی کی موت ایسے حالات میں واقع ہوئی کہ جب ہم فاقع کاٹ رہے تھے - ہمارے جرمن دوست بھی ہماری کچھ مدد نہ کر سکے - ارنست جونز نے جو ہمارے یہاں آیا کرتا تھا امداد کا وعدہ کیا لیکن کچھ بھی فراہم نہ سکا - میں اپنے دل میں درد کی دنیا لیجے ایک فرانسیسی بناء گزین کے ہاں کئی جو ہمارے بڑوس میں رہتا تھا اور ہمارے یہاں آیا کرتا تھا - میں نے اسے اپنی بپتا سنائی اور مدد مانگی - امن جوانمرد نے نہایت دلسوzi کے ساتھ مجھے دو ہونڈ دیے - اس رقم سے ہم نے امن تابوت کا انتظام کیا جس میں ہماری پاری بھی ابدی نیزد سورہی ہے - جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کے لیے ہمیں گھووارہ نہ مل سکا تھا اور اب اس کے تابوت کے لیے کیا کچھ نہ کرنا پڑا - لوگ اس کی نعش لیے کر قبرستان چلے تو ہمارے دلوں پر کیا کیا عالم گزر گئے -

جنی اپنے شوہر کی طرح پوجوش انقلابی تھی اور اپنے باتھ سے مارکس کے مسودے صاف کیا کرق تھی - امن نے نامساعد حالات کا دلیری سے مقابلہ کیا البتہ اس بات سے وہ کڑھتی تھی کہ مالی پریشانیوں سے اس کے شوہر کو تکلیف ہوئی تھی - جوزف ویندیر کو لکھتی ہے :

"یہ مت خیال کرنا کہ میں ان پریشانیوں کے سامنے جھک جاؤں گی - میں جانتی ہوں کہ ہماری کشمکش کچھ ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے - مجھے اس بات سے دلی خوشی ہے کہ میرا پارا شوہر میری زندگی کا سہارا بھی میرے ساتھ ہے - اس بات سے البتہ مجھے دکھ پوتا ہے کہ اسے معمولی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی امداد کا کچھ انتظام نہ پوسکا - وہ جو دوسروں کی مدد کرنے میں دلی خوشی محسوس کرتا رہا ہے اب خود محتاج ہے -"

ان حالات میں جینی اپنے قیمتی کپڑے 'زیور' برتن گرو رکھ کر یا بیچ کر ان انقلابیوں کے لیے نان نفقہ کا انتظام کرکی رہی جو یورپ سے بھاگ کر لندن میں پناہ لے رہے تھے - اس کی کھانے کی میز پر صبح و شام ان تباہ حال غریب الوطنوں کا پجوم رہتا تھا - وہ نہایت شفت اور بخنہ پیشانی سے ان کی پذیرانی کرکی توی - یہ لوگ جینی کے لبوب پر ہمدردی کی مسکرابٹ دیکھ کر اپنے آلام و مصائب بھول جاتے تھے - جینی کو جہیز میں جو ہماری چاندی کے برلن ملے ان پر آرکل خانوادے کا نشان کھدا ہوا تھا - آرکل خان وسٹ فالن کے قربت دار تھے - ایک دن کارل مارکس یہ برتن گرو رکھنے کے لیے بازار گیا - دکان دار نے آرکل کا نشان دیکھا اور پھر تعجب سے مارکس کی ہیئت کذائی برنظر کی - اس کا ماتھا ٹھنکا اور چین بھیں ہو کر پوچھنے لگا تمہارے پاس یہ برلن کیسے آئے - مارکس نے بڑی مشکل سے اس کی تشقی کی اور اپنی جان چھڑائی - کچھ عرصے تک مارکس نیوبارک ہیرنڈ ٹریبیون کی نامہ نگاری سے اپنا اور اپنے بھوں کا پیٹ پالتا رہا - کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس نے کئی کئی دن گھر سے باہر قدم نہیں رکھا کیونکہ اس کے پاس کہیزے نہیں تھے - معمول

فروبریات کے لیے اسے اپنے تن کے کھڑے بھی گرو رکھنے پڑے۔

ان نامساعد حالات میں بھی مارکس نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب وہ مطالعے اور تصنیف و تالیف سے فارغ ہوتا تو انقلابی سرگرمیوں میں منہمک ہو جاتا۔ ۱۸۶۴ع میں اس نے پہلی بین الاقوامی مجلس لندن میں قائم کی۔ اس میں مازنی 'پر دوم' باکونن اور لاسال کے اشتہال خیالات و افکار کا تنقیدی جائزہ لی کر اس نے محنت کشون کے لیے واضح طریق کار وضع کیا۔ اس کے بعد اس کے گھر میں دنیا بھر کے انقلابی بدایات لئے کے لیے آنے لگے۔ وہ باکونن کی انوار کیت کا مخالف تھا اور محنت کشون کی تنظیم کو اہم سمجھتا تھا۔ اس کی تعریک پر باکونن' کو پارٹی سے نکل دیا گیا۔

مارکس رات کرنے تک مطالعے میں غرق رہتا۔ صبح سویرے برٹش میوزیم چلا جاتا اور ویس بیٹھا کتابیں دیکھا کرتا۔ دس سال کے مسلسل مطالعے کے بعد اس نے اپنی مشہور کتاب "سرمایہ" لکھی جسے "محنت کشون کی انجیل" کہا جاتا ہے۔ ارباب نظر نے ڈارون کی "اصل انواع" کی طرح اسے بھی دور جدید کی انقلاب پرور کتاب مانا ہے۔ اس کی دوسری اور تیسرا جلدیں مارکس کی موت کے بعد انجلیس نے مرتب کر کے شائع کیں۔ "سرمایہ" کا ترجمہ دنیا بھر کی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ مارکس کے علمی تبصر اور جودت فکر کا اعتراف اس کے مخالفین نے بھی کیا ہے۔ وہ لفظ، اقصادیات اور سیاسیات پر گھبڑی نظر رکھتا تھا اور اپنے دوست اخیas کی ملک ہفت زبان تھا۔ اسے لاطینی، یونانی، فرانسیسی، انگریزی، پہنچانی اور رومانوی زبانوں پر ہوری پوری دسترس حاصل تھی۔ ایک دفعہ بیمار پڑ گیا مرض نے طول ہکڑا تو مارکس دل بھلانے کے لیے روسی زبان سیکھنے لگا۔ خسی صحت کیا تو وہ اسے بولنے اور لکھنے پر ہوری طرح قادر تھا۔ مارکس کے گھر میں مغربی ممالک کے انقلابی پناہ گزین جمع ہوتے تھے تو مارکس پر ایک کے ماتھا اس کی اپنی زبان میں کتاب کرتا جس سے ان غریب الوطنوں کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا۔ مارکس کو دنیا بھر کے ادب سے دلچسپی تھی۔ گوئٹھے، اسکیلیس، بالزاک، سروانثیز امن کے بیوب تھے۔ وہ الف لیلہ اور مقامات حیری کا بھی شیدائی تھا اور ان کے ترجمے مزے لی لے کر پڑھتا تھا۔ اوآخر عمر میں ان کتابوں کو اصل زبان میں پڑھنے کے لیے اس نے عربی میکھنے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ ۱۸۸۱ع میں مارکس کی جانشیر یوی بھی اسے داغ منارت دے گئی۔ انجلیس نے جیونی کی قبر پر خطبہ دوئی پوئے کہا: "یہ خاتون دوسروں کو مسرت بہم پہنچا کر خود دل مسرت میسوس کیا کر رکی تھی۔"

(۱) باکونن اور اس کا ہیرو کروپانکن روی نژاد انار کسٹ تھے۔ ان کے خیال میں ریاست تمام ارائیوں کی جڑ ہے اس لئے سب سے پہلے اس کا خامہ خود رہی ہے۔ ان کے نظر میں کو انار کسٹ اشتالیت کہا جاتا ہے۔

کچھ عرصے کے بعد مارکس کی بڑی بیٹی جو اس کی چھتی تھی عالم جاوداں کو سدھا رکھنی۔ مارکس ان صدھات کی تاب نہ لاسکا۔ ایک دن مجلس امن کی مزاج برسی کو آیا۔ مارکس کی خادمہ بیلن نے اسے بتایا کہ وہ آرام کر سی پر دراز ہیں اور آرام کر رہے ہیں الجماں قریب آیا تو معلوم ہوا کہ امن کا دوست پھیشہ کی نیند سو چکا تھا۔ اس کا کوٹ اتارا گیا تو اندر کی جیب سے اس کے باپ، بیٹی اور بیوی کی عکسی تصویریں ملی جنہیں وہ پھیشہ سینے سے لکائے رہتا تھا۔ الجماں نے مارکس کی قبر پر کہا

"ام کا نام اور اس کا کام پھیشہ زندہ رہیں گے۔"

مارکس کے بعد انقلابی تحریک کی قیادت مجلس کے ہاتھوں میں آگئی۔ اس نے بڑی آن دھی سے مارکس کا مختیقی اور انقلابی کام جاری رکھا۔ اس کا کھر بر انقلابی کے لیے بر و ت کھلا رہتا تھا۔ اس نے مغربی مالک کی تحریکوں کو منظم کرنے کے ساتھ اپنے افکار کی تبلیغ کے لیے متعدد کتابیں لکھیں آخر پیغمبر پرس کی عمر میں فوت ہوا۔ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اس کی نعش جلا دی جانے اور خاکستر ایسٹ بورن کے مقام پر سمندر میں ڈال دی جانے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ اوقات فراغت میں سیر و تفریج کے لیے جایا کرتا تھا۔ مارکس اور مجلس کی جدی مادیت اشتہارت کا سنگ بنیاد ہے۔ مارکس نے فوٹر باخ کی مادیت ہی پر قناعت نہیں کی بلکہ پیگل کی جدلیات کو مادیت میں منتقل کر کے جدی مادیت کی تاسیس کی۔ مارکس نے سب سے پہلے نظریہ اور عمل کی تفرقی کو ختم کیا اور کہا کہ نظریہ اور عمل میں کامل اختاد ہے کیونکہ جدی مادیت بدیک وقت ایک نظریہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ جو شخص اس کا قائل ہوتا ہے وہ اس کی عملی ترجیح کے لیے بھی کوشش رہتا ہے۔ اس کی رو سے فلسفی اس شخص کو نہیں کہیں گے جو گوشہ۔ تنهائی میں سرنگوں بیٹھا خیالات میں غرق رہتا ہے بلکہ فلسفی وہ ہے جو اپنے نظریے کی عمل تعبیر کے لیے کشمکش کرتا ہے۔ مارکس کا قول ہے کہ فلسفی کا کلم دنیا کی ترجیح کرنا نہیں ہے بلکہ اسے بدل دینا ہے۔

جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں مارکس اور مجلس نے مادیت سے مابعدالطبعیات کو خارج کر کے آسے جدلیات بنیاد پر از سرتو مرتب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آن کے زمانے سے پہلے کی مادیت نیوٹن اور کلیلیو کی سائنس کے زیر اثر تھی اس لیے نظریاتی۔ سکونی اور مابعدالطبعیاتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ مادیت آن تضادات سے خائف تھی جو نیجر میں حرکت و تغیر پیدا کرتے ہیں اس لیے اس کا تعاق انسان کی عملی زندگی سے منقطع ہو چکا تھا۔ مارکس نے کہا کہ جدید سائنس کی رو سے نیجر کا عمل جدلیاتی ہے اور بقول مجلس:

"دنیا بنی بنائی گوناگون اشیاء کا ملفوہ نہیں ہے بلکہ گوناگون اعمال کا مجموعہ ہے جس سے اشیاء جو ہمیں بظاہر جامد دکھانی دیتی ہیں اور آن کے عکس جو ہمارے ذہن پر بڑتے ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ کئھی وہ معرض وجود

میں آتے ہیں اور کبھی مٹ جاتے ہیں۔"

قدیم سکونی مابعد الطبيعیات کا ذکر کرنے ہوئے مارکس نے کہا کہ انلاطون کا نظریہ امثال اس کی معروف مثال ہے۔ اس کی رو سے دنیا چند ساکن و جامد اشیاء کا مجموعہ دکھائی دیتی ہے جو ایک دوسرے سے الگ آہاگ موجود ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ فطری مظاہر کا دقت نکاہ سے مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ برشے حرکت میں ہے اور ہر کہیں تغیر و تدبیر کی کارفرمانی ہے۔ بقول مارکس:

"جدلیات حرکت کے عمومی قوانین کی سائنس ہے خواہ یہ حرکت خارجی عالم میں ہو خواہ انسانی میں ہو۔"

مارکس نے کلاسیکی مادیت کو میکانیکی مادیت کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ آنسوؤں صدی میں مادیت جدلیات کے قریب تر آگئی کیوں کہ جدید سائنس کی روح جدلیاتی ہے جو مابعد الطبيعیات نظرے کے منافی ہے۔ جب تک سائنس پر مابعد الطبيعیات کے اثرات غالب رہے وہ مابعد الطبيعیاتی مادیت کی ترجیحی کریں۔ جدید سائنس نے جدلیات کو جنم دیا ہے۔ مابعد الطبيعیاتی مادیت سے جدلیاتی مادیت کا ارتقاء مندرجہ ذیل خطوط پر ہوا:

(۱) مابعد الطبيعیاتی مادیت قدماء یونان و روم اور انہارہوں صدی کے فرانسیسی قاموں نے پیش کی۔ قاموں نے کائنات کو ایک عظیم کل قرار دیا اور اس کے حرکی پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ مزید براں انہوں نے عمل تاریخ سے اعتنا نہیں کیا۔ وہ قدماء کی طرح نظریے کو عمل سے جدا کر کے دیکھتے رہے۔ چنانچہ انہارہوں صدی کی مادیت جسے لامتی۔ ہولیاخ وغیرہ نے مرتب کیا تھا روایاتی مابعد الطبيعیات کے تصرف میں رہی۔ مارکس اور انجلس کہتے ہیں کہ اس فرد کی کذاشت کا ازالہ جدلی مادیت میں کیا کیا ہے۔

(۲) جدید سائنس کے انکشافتات نے مابعد الطبيعیاتی اور میکانیکی مادیت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ مارکس نے جدید سائنس کی روشنی میں مابعد الطبيعیاتی کو مادیت سے علیحدہ کیا اور پھر مادیت میں جدلیات کو شامل کر دیا۔

(۳) مارکس اور انجلس نے کہا کہ جو قوانین عالم مادی میں کارفرما ہیں وہی انسانی معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تاریخی مادیت کا تصور پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ جو تضادات مادی عالم کے ارتقاء کا باعث ہو رہے ہیں وہی معاشرہ انسانی کے ارتقاء کا باعث بھی ہیں۔

(۴) مارکس اور انجلس نے پیگل کے تصورات کی پیکار کو طبقات معاشرہ کی کشمکش میں منتقل کر دیا۔ انہوں نے کہا پیگل سچ کہنا ہے کہ کائنات اور فکر انسانی پر لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کا یہ خیال غلط ہے کہ ذین میں جو تغیرات ہوتے ہیں وہی عالم مادی میں بھی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ تصورات اشیاء کی

بیدا و ایں اور اشیاء کے تغیر کے ساتھ تصورات میں بھی تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ”ہیکل کی جدلیات کو جو سر کے بل کھڑی تھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔“ مارکس کہتا ہے: ”جرمن فلسفہ آسمان سے زمین کی طرف آنا ہے۔ ہمارا فلسفہ زمین سے آہن کی طرف جاتا ہے۔“

جدلیاتی مادیت پسندی کی رو سے کائنات میں صرف دو اشیاء یہیں مادہ (اسے وجود بھی کہا جاتا ہے) اور فکر و خیال۔ فکر وہ ہے جو ہم مادی اشیاء سے جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں اخذ کرتے ہیں۔ وجود یا مادہ وہ ہے جس کا ادراک ہم اپنی حیات سے کرتے ہیں مثلاً کاغذ کو مادہ کہا جائے گا لیکن اس کے سفید ہونے کا خیال ادراک سے پیدا ہوگا۔ اس نظریے کی رو سے فکر و خیال سے پہلے مادے کا وجود تھا۔ مادے کی دو خاصیتیں ہیں (۱) وہ مکان و زمان میں موجود ہے (۲) وہ حرکت کرتا ہے۔ مارکس ایسی اشیاء کے وجود کا قائل نہیں ہے جو زمان یا مکان سے علیحدہ، یا ماوراء ہوں یا کسی مادی شے سے علاقہ نہ رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ خدا کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ زمان کے باہر خدا کا وجود تسلیم کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ خدا کسی لمحے میں موجود نہیں ہے۔ مکان سے باہر آس کے وجود کو تسلیم کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔

جدلیاتی مادیت پسندی کے اساسی قوانین درج ذیل ہیں:

(۱) کوئی شے قطعی۔ حکمی اور مطلق نہیں ہے۔ سب اشیاء پیدا وقت حرکت و تغیر میں ہیں۔ انجیس کہتا ہے: ”مادے کا بغیر حرکت کے تصور کرنا اتنا ہی محال ہے جتنا کہ حرکت کے بغیر مادے کے تصور کرنا۔“

بھی جدلیاتی مادیت پسندی کا پہلا قانون ہے۔ اس کی رو سے کوئی شے اپنے جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ ہر شے ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ ہر شے کا ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس عمل تغیر نے محفوظ نہیں ہے۔

(۲) کائنات میں اشیاء ایک دوسرے سے الگ تھلک موجود نہیں ہیں بلکہ ہر شے دوسری پر اثر انداز ہو کر اس میں تغیر پیدا کر رہی ہے۔

اس قانون کا اطلاق انسانی معاشرے اور علوم پر کیا جائے تو مفہوم ہو گا کہ سیاست، معاشیات، ادبیات، فنون لطیفہ وغیرہ کا آپس میں گھبرا تعلق ہے اور ان کے عوامل و موثرات ایک دوسرے میں نفوذ کرے گئے ہوئے ہیں۔ جدلی مادیت پسند کہتے ہیں کہ بورڈوا اپل علم ادب و علم کے مختلف شعبوں کو ایک دوسروں سے الگ الگ کر کے ان کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے انتشار فکر کے شکار ہو جاتے ہیں۔

(۲) تیسرا قانون اخداد وہی ہے جو پیگٹ کی جدلیات کا بھی اصل اصول ہے یعنی برشے کے بطون میں اس کی ضد موجود ہے جو بالآخر اس کی نفی کا باشت ہوتی ہے۔ یہی تضاد نیجر اور معاشرے میں عمل ارتقاء کا محرك ہے۔ اسیہ ہر کمیں اپنی اخداد میں بنتی جاری رہی ہیں۔ مشتبہ اور منفی میں بر وفت کشمکش جاری رہتی ہے۔ تمام تغیر و تبدل اسی کشمکش کی نتیجہ ہے۔ اشیاء متغیر ہوتی ہیں کیونکہ ان میں مشتبہ اور منفی کا تضاد موجود ہے۔

(۳) چوتوا قانون یہ ہے کہ پر اثبات میں اس کی نفی موجود ہوتی ہے اور پر نفی کی نفی ہو جاتی ہے۔ جس سے اثبات کا عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ جنہی مادیت پسندوں نے اس عمل کی معاشرتی ترجیحی یوں کی ہے کہ زرعی انقلاب کے بعد جاگیردارانہ نظام معاشرہ قائم ہوا۔ جاگیرداروں کو اپنا کام چلانے کے لئے روپے کی ضرورت تھی جو تاجر فراہم کرتے تھے۔ محنت و مشقت کا کام مزارعوں اور غلاموں کے سپرد تھا۔ یہ اس معاشرے کا اثبات پہلو ہے لیکن اسی میں اس کی نفی بھی مضمعر تھی۔ مرور زمانہ سے تجارت پیش طبقے نے اتنی قوت حاصل کرلی کہ انہوں نے جاگیرداروں کو کجول دیا۔ اب طاقت تاجریوں یا بورڑوا^۱ کے ہاتھوں میں آگئی صنعتی انقلاب کے بعد جاگجا کارخانے کھول گئے جن میں کام کرنے کے لئے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ مزدور اپنی وجہ معاشر کے لئے سرمایہ دار کا محتاج تھا کیونکہ جب تک وہ اپنی قوت بازو اس کے ہاتھ نہ پہنچتا اسے فاقع کرنا ہڑتے تھے چنانچہ مزدور کا مقام سرمایہ دارانہ نظام میں وہی ہے جو جاگیردارانہ نظام میں مزارعوں یا غلاموں کا تھا۔ جاگیرداروں کی نفی بورڑوا نے کی تھی۔ بورڑوا کی نفی مزدور کریں گے۔ اس طرح نفی کی نفی ہو جائے گی اور معاشرہ انسانی ترقی کے راستے پر ایک قدم اور آگئے بڑھائے گا۔

ہم نے دیکھا کہ جدلیاتی مادیت پسندی کی رو سے کائنات دو اشیاء پر مشتمل ہے وجود جو اصل ہے اور فکر و خیال جو اس کی فرع ہے۔ اس نظریے کا اطلاق معاشرہ انسان پر کیا جائے تو معاشرے کے مادی احوال یا وسائل پیداوار کو وجود یا اصل سمعھا جائے گا اور سیاسیات، مذہب، اخلاق اور علوم و فنون اس کے فروع ہوں گے جو قدرتاً اپنے اصل سے وابستہ ہوں گے۔ اس بات کی تشرع کے لئے جدی مادیت پسند جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کی مثال دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں پیداوار کے وسائل نے مختلف طبقات کے درمیان علانق خلق کیے ہیں جو شخصی املاک اور استحصال پر مبنی ہیں۔ چنانچہ اس کا سیاسی نظام ان ہی علانق سے صورت پذیر ہوا ہے۔ بورڑوا

(۱) لفظ Bourg سے نکلا ہے جس کا معنی ہے منڈی۔ بورڑوا یعنی تجارت ہشے۔

وسائل پیداوار کے مالک ہیں اس لیے ریاست پر انہی کا قبضہ ہے۔ ریاست کو انہوں نے انہی مفادات کے تحفظ کا وسیلہ بنا لیا ہے۔ سیاسیات کی طرح سرمایہ دارانہ معاشرے کے قانون، مذہب، اخلاق، فلسفہ اور آرٹ کی تشكیل اس انداز سے ہوئی ہے کہ وہ بورڑوا کے مفادات کی تقویت کے اسباب ان گئے ہیں۔ اور ان کی مدد سے بورڑوا محنت کشیوں پر اپنا تصرف و تغلب برقرار رکھتے ہیں۔

مارکس اور مجلس تاریخی مادیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح تاریخ کے انسان قبائل کی صورت میں مل جل کر رہنے لگے تو معاشرہ انسان کی بنیاد پڑی اس زمانے میں وہ شکار سے اپنا پیٹ پالتے توئے۔ شکار پتھر کے کھاڑے، چاقو اور برقچھے سے کھیلا جاتا تھا کہ اس عہد کے محنت کے اوزار ہی تھے۔ اس دور کو قدیم اشتالیت کا زمانہ کہا گیا ہے جس میں محنت کے اوزاروں کے ساتھ خوراک اور عورت کا اشتراک ہی تھا۔ بر شخص اپنی قوت کے مطابق کام کر کے خوراک کا حق دار بتتا تھا۔ پیداوار کے وسائل کے بدلتے سے زرعی انقلاب برپا ہوا۔ بل اور ہماوڑے ایجاد کر کے گئے اور شخصی املاک کا آغاز ہوا جس نے قدیم معاشرے کا خاتم کر دیا۔ نئے زرعی معاشرے میں طاقت ور جنگجو سرداروں نے اراضی کے وسیع اور شاداب قطعوں پر قبضہ کر لیا اور کمزوروں کو غلام بنا کر ان سے کھیتی باری کا کام لینے لگے۔ پیداوار کے نئے وسائل نے نئے نئے پیداوار کے علاقے قائم کئے اور معاشرہ آقا اور غلام کے طبقات میں منقسم ہو گیا۔ غلاموں کو ان کی محنت کے نمرے سے اتنا ہی حصہ دیا جاتا تھا جس سے کہ وہ اپنا اور انہی بچوں کا پیٹ پال سکیں باق حصہ آفون کی جیب میں جاتا تھا۔ مرور زمانہ سے جب غلاموں نے بغاوتیں کرنا شروع کیں اور محنت سے جی چرانے لگے تو جاگیرداری اور ملوکی معاشرے نے جنم لیا۔ اس معاشرے میں جو سیاسی ادارے قوانین اور مذہب و اخلاق صورت پذیر ہوئے ان کی بنیاد وسائل پیداوار اور علاقی پیداوار ہی بر اٹھائی گئی تھی۔ چنانچہ وہ جاگیرداروں اور بادشاہوں کے خصوصی حقوق کا تحفظ کرتے تھے۔ انہارہوں اور انسیوین صدیوں میں سائنس کی ترقی نے ایک بار پھر پیداوار کے وسائل کو بدلت کر رکھ دیا۔ دخانی الجن اور کپڑا بننے کی کاون کی ایجادات سے نئے نئے علاقے پیداوار کا ظہور ہوا اور معاشرہ بورڑوا اور برونوئی طبقات میں بٹ گیا۔ آج کل کے سیاسی ادارے، نظام کلیسا، اخلاق قدریں اور علمی و فنی تخلیقات سرمایہ دارانہ معاشرے کی تقویت کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد وسائل پیداوار کے بدلتے سے زرعی معاشرہ ختم ہو رہا ہے جیسے زرعی انقلاب نے شکار کے زمانے کا معاشرہ ختم کر دیا تھا۔

تاریخی مادیت کا ایک اہم تصور یہ ہے کہ جب وسائل پیداوار میں ترقی ہوئی ہے تو برس اقتدار طبقہ جو وسائل پیداوار کا مالک ہوتا ہے معاشرے کے زیر دست طبقات کو اس ترقی سے فیض یاب ہونے سے ہے جب و اکبر، عروم رکھتا ہے نتیجہ معاشرے میں تضادات پیدا ہو جاتے ہیں اور طبقاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے

جو بالآخر غاصب طبیعت کا خاکہ کر دیتی ہے۔

تاریخی مادیت اور عمل تاریخ ہر بحث کرتے ہوئے جرجیس پولٹنر نے اپنی کتاب "میادیات فلسفہ" میں اس طرح استدلال کیا ہے:

(۱) تاریخ انسان کا عمل ہے۔

(۲) عمل جو تاریخ بناتا ہے اسے انسان ارادہ معین کرتا ہے۔

(۳) یہ ارادہ انسان ہی کے خیالات کا اظہار ہے۔

(۴) یہ خیالات عمرانی احوال کے عکس یعنی جن میں انسان زندگی گزارتا ہے۔

(۵) عمرانی احوال طبقات اور ان کی باہمی کشمکش کو معین کرتے ہیں۔

(۶) طبقات عمرانی احوال سے جنم لیتے ہیں۔

کویا طبقات کشمکش عمل تاریخ کی توجیہ ہے کرق ہے لیکن معاشی احوال طبقات کو جنم دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نیلا کہ معاشی احوال ہی عمل تاریخ کا اصل محرك ہیں۔ ول ڈیورنٹ نے تاریخی مادیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے۔

"تاریخ کا بنیادی عامل شروع سے معاشی رہا ہے۔ پیداوار، تقسیم اور صرف، مالک اور مزدور کا تعلق، امراء اور غرباء کے درمیان طبقات کشمکش، یہی چیزوں بالآخر زندگی کے دوسرے شعبوں کو خواہ وہ منہجی ہوں یا اخلاق، فلسفیانہ ہوں یا سائنسی، ادبی ہوں یا فنی۔ متاثر کرق ہیں۔ پیداوار اور اس کے علاقوں معاشرے کی اتصادی بنیادیں استوار کرتے ہیں جن پر قانون اور میاسیات کی عارت الہائی جاتی ہے اور جو عمرانی شعور کو صورت شکل عطا کرتے ہیں۔ مادی اشیاء کی پیداوار کا طریقہ عمرانی، سیاسی اور روحانی اعمال کی تشكیل کرتا ہے۔ انسان کے وجود کا تعین اس کے شعور سے ہیں ہوتا بلکہ عمرانی احوال امن کے شعور کا تعین کرتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے خیالات، فلسفہ کے مدارس فکر، اخلاقی اصول، مذہبی عقاید، جماعتی تعصبات اور فنی ذوق کو منطقی اور غیر جانبدارانہ استدلال سے یہ ارتقاء بخشنا ہے۔ یہ اس کی بھول ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ بنیادی معاشی عوامل اس کے خیالات کا رخ و رجحان معین کرتے ہیں۔"

مارکس اور انجلیس کے معتبرین نے کہا کہ عمل تاریخ میں صرف معاشی احوال ہی کو عنصر فعال قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ان کے جواب میں انجلیس ایک خط میں جو اس نے ہے بلاک کو لکھا کہتا ہے۔

"تاریخ کے مادی نظریے کی رو سے ہایاں کار جو عنصر تاریخ ہر اثر انداز ہوتا ہے وہ حقیقی زندگی کی پیداوار ہے۔ اس سے زادہ نہ کسی مارکسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ میں نے کیا ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص یہاں کو توثیق مژوڑ

کر دی کہ معاشری عنصر واحد عنصر فعال ہے تو وہ اس مسئلے کو بے معنی لفاظی میں مصور کر دے گا۔ معاشری احوال اساسی درجہ رکھتے ہیں لیکن ان بر جو نظام تعمیر کیا جاتا ہے اس کے "متعدد عناصر" تاریخی کشمکش پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض حالات میں اس کی پہش معین کرنے میں بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ ان تمام عناصر کے درمیان باہمی تاثیر و تاثیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بہرحال جو نتائج یہی مرتب ہوتے ہیں ان میں انجام کار معاشری حرکت ہی کو لازمی سمجھا جا سکتا ہے۔^(۱)

ایک دوسرے خط میں جو مثار کن برگ کو لکھا گیا ہے معلوم ہوتا ہے۔^(۲) الجلس متعدد عناصر سے سو اسی "قانونی، فلسفیانہ، منہبی اور ادبی و فقی عناصر مراہ لیتا ہے۔ تاریخی مادیت کے نظریے کا حاصل یہ ہے کہ انسان چلے کھاتا پڑتا ہے نہ کافانا تلاش کرتا ہے ستر پوشی کرتا ہے اور بعد میں فکر کرتا ہے ادبی تخلیق کرتا ہے یا مذہبی عقیدہ رکھتا ہے۔ برٹنرنسل مارکس کے فلسفی پر محاکمہ کرنے ہونے کہتے ہیں:

"بھیت ایک مفکر کے مارکس راستی پر ہے۔ اس نے یہ اصول مکمل کیا کہ تاریخ میں سیاسی، مذہبی اور تاریخی ارتقا معاشری ارتقا کا سبب نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک عظیم ثمر آور خیال ہے جو کلی طور پر مارکس کی ایجاد بھی نہیں ہے کہ اس کا اظہار جزوی طور پر دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ بہ صورت یہ اعزاز مارکس ہی کا ہے کہ اس نے اس اصول کو مضبوط استدلال سے ثابت کیا اور اسے اپنے تمام معاشری نظام کا سنگ بنیاد قرار دیا۔"

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں آسٹریا کے عالم طبیعتیں اور فلسفی ارتضا ماخ اور جرمی کے فلسفی رچرڈ ایونیریمن نے جدید طبیعتیں اور انسکشافت کی روشنی میں ہو ایم کے تجزیے سے تعلق رکھتے ہیں "عربی انتقاد" کے نظریہ پیش کیا اور کہا کہ ان انسکشافت کی رو سے مادہ غائب ہو گیا ہے۔ جس عالم میں ہم رہتے ہیں وہ موضوعی ہے اور جو قوانین نیجر اور معاشرے پر متصرف ہیں وہ معروضی نہیں ہیں کیوں کہ عالم بذات خود معروضی نہیں ہے۔ لہذا جدی مادیت کے نظریہ جو مادے کی معروضیت پر مبنی ہے فرسودہ ہو چکا ہے۔ لینن نے اس اعتراض کا جواب لکھتے ہوئے کہا کہ ماخ کا نظریہ تجربی انتقاد بسپ بارکلے کی موضوعی مثالیت ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کی تردید بارہا کی جا چکی ہے۔ لینن مادے کی مابیت پر بحث کرتے ہوئے اس مسئلے کی دو شقیں قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔^(۳) سوال یہ ہے کہ مادہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مادہ خارج حقیقت ہے جو ذہن یا موضوع سے اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اور جو اپنے وجود نے کسی ذہن کی محتاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے:

"مادے سے مراد ہے ہے کہ وہ ایک معروضی حقیقت ہے جس کا ادراک ہم حسیات سے کرنے پر۔"

دوسرा سوال ہے ہے کہ مادہ کیسا ہے۔ لین کہتا ہے کہ اس کا فصلہ کرنا سائنس کا کام ہے ہمارا نہیں ہے۔ پہلے سوال کا جواب قدیم زمانے سے آج تک وہی ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوئی رہی ہیں۔ دونوں سوالات الگ الگ ہیں۔ مثالیت پسند ان میں فرق نہیں کرتے اور خلط بحث کا باعث ہوتے ہیں۔ لین کہتا ہے۔

"مادے کی واحد خاصیت جس کے تسلیم کرنے کے ساتھ فلسفیانہ مادیت وابستہ ہے یہ ہے کہ مادہ خارجی حیثیت میں موجود ہے اور اپنے وجود کے لئے کسی ذہن کا محتاج نہیں ہے۔"

گویا مادہ خواہ الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون کی صورت میں موجود ہو ایک معروضی حقیقت ہے جو اپنے وجود کے لئے ذہن کی محتاج نہیں ہے۔

ماخ اور اس کے پیروؤں نے کہا کہ عالم 'نیجر' انسان اور تمام اشیاء صرف ہماری حسیات میں موجود ہیں۔ لین ان سے پوچھتا ہے۔ "کیا نیجر انسان کے ظہور سے پہلے موجود نہ تھی؟ اگر موجود تھی جیسا کہ سائنس تسلیم کر رکھے تو کسی کی حسیات یا شعور میں موجود تھی؟ ان سے لین یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ مادہ شعور و حسیات سے مقدم ہے۔ اسی بحث کے سلسلے میں لین کہتا ہے کہ ذہن انسانی میں مادے ہی کا عکس پڑتا ہے اور یہ عکس حقیقی ہوتا ہے۔ حسیات کی یہ حقیقت ہی معروضی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ماخ اور اس کے پیرو صداقت کو موضوعی اور اضافی مانتے ہیں اور مارکس کی صداقت مطلق کے قائل نہیں ہیں۔ لین ان کے جواب میں کہتا ہے کہ ہمارا علم اضافی صداقت کے راستے ہی سے صداقت مطلق تک پہنچتا ہے۔ نیز صداقت کا معیار عمل ہے جب کوئی نظریاتی تصور عمل نا ثابت ہو جاتا ہے تو وہ معروضی صداقت بن جاتا ہے۔ مارکسیت سائنس کی نظریے اور انقلابی عمل کے اتحاد کا نام ہے۔ لین کے خیال میں موضوعیت پسند ماخ کے پیرو سائنس میں دوبارہ مثالیت اور منصب کو مخلوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جدید سائنس جدلیاتی مادیت پسندی کا ابطال نہیں کر رکھ بلکہ اس کی توثیق کر رکھے۔ اس لئے سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ مارکسیت کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اشتہائی حلقوں میں جدید سائنس کی روشنی میں جدلیاتی مادیت پسندی کی اس ترجیحی اور توثیق کو لین کی نہایاں دین سمجھا جاتا ہے۔

مارکسیوں کے سیاسی نظریے میں ریاست کا تصور بڑا اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اس وقت معرض وجود میں آئی تھی جب معاشرہ انسانی دو طبقات

میں منقسم ہوا۔ آقا اور خلام یا خالب طبقہ اور مغلوب طبقہ۔ خالب طبقے نے مغلوب طبقے پر اپنا تسلط و تغلب قائم رکھنے کے لئے ریاست قائم کی۔ انجلمن لکھتا ہے :

”قدیم زمانے کی ریاست پرده فروشوں اور آفاؤن کی ریاست تھی جس کا مقصد غلاموں کو حکوم رکھنا تھا۔ جاگیرداروں کی ریاست کسانوں اور مزارعوں کو دبائے رکھنے کے لیے اللہ کار ثابت ہوئی۔ جدید نمائندہ ریاست سرمایہ داروں کا ایک وسیلہ ہے جس کی مدد سے وہ محنت کشوں کو لوٹ رہے ہیں“

مارکسی کہتے ہیں کہ مغربی مالک میں جس جمهوری طرز حکومت کا رواج ہے اس میں جمهوریت کا شاندی تک نہیں ہے۔ اس نام نہاد جمهوریت میں حکومت کی باگ ڈور چند بڑے بڑے سرمایہ داروں، مسافروں اور کارخانہ داروں کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے جمهوریت کے نام پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے۔ اہل مغرب کا دعویٰ ہے کہ جمهوری طرز حکومت نے عوام کو آزادی عطا کی ہے۔ مارکسی کہتے ہیں کہ یہ آزادی بعض دکھاوے کی ہے۔ اس کے پس پرده استھصال اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ سرمایہ داروں کو محنت کشوں کی گاڑھی پہننے کی کافی کوئی لوثیٰ کی آزادی ضرور حاصل ہے۔ مارکسیوں کے خیال میں سرمایہ داروں نے عوام کو دو قسم کی زنجیریں پہنا دکھی ہیں۔ ایک وہ جو دکھانی دیتی ہیں دوسرا وہ جو دکھانی نہیں دیتیں۔ پہلی قسم کی زنجیریں ریاست اور اس کے لوازم فوج، ہولیں، زندان و احتساب کی ہیں۔ دوسرا قسم کی زنجیریں مذوب، قانون اور اخلاقی قدروں کی صورت میں ڈھالی کئی ہیں۔ مارکسی کہتے ہیں کہ جب تک ریاست رہے گی آزادی میسر نہیں آ سکتی لیکن عبوری دور کے لیے وہ اشتراکی نظام معاشرہ میں بھی ریاست کے وجود کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اشتراکیت ارتقائے معاشرہ کا پہلا مرحلہ ہے۔ اشتراکیت میں محنت کشوں کی آمریت قائم پوکی جو طبقاتی تفریق کا خامہ کر دے گی اور استھصال کو متعددے گی۔ اس میں تمام پیداوار عوام کی مشترک اصلاح بن جائے گی اور انفرادی سرمایہ کاری کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملک کا نظام نو کر شاہی کے ہاتھوں میں نہیں ہو گا بلکہ اس کام کو محنت کشوں کے نمائندے مستھالیں گے۔ دوسرا ارتقائی مرحلہ اشتراکیت کا ہو گا جس میں ریاست کے وجود کی ضرورت باق نہیں رہے گی۔ اشتراکی نظام معاشرہ میں ریاست کو متباہ نہیں جائے گا بلکہ وہ خود بغود مٹ جائے گی۔ آن کے خیال میں ریاست اور نالنصاف لازم منزوم ہیں۔ جب معاشری عدل و انصاف کا قیام مکمل ہو گا ریاست بھی دم توڑ دے گی اور بہ اصول عملی صورت اختیار کر جائے گا۔

”بر ایک سے اس کی قابلیت کے مطابق اور بر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق۔“

اقتصادیات میں مارکس کا اجتہاد یہ ہے کہ اس نے سرمائی کے اکٹھا بونے کے

عمل کا تجزیہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ "فالتو قدر" ۱ کس طرح سرماں میں تبدیل ہو جاتے ہے۔ اپنی مشہور کتاب "سرماں" میں وہ اس بحث کا آغاز جس کی تعریف سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس وہ شے ہے جو کسی انسانی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے نیز آس کا تبادلہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے جس ایک خاص قدر رکھتی ہے۔ مختلف اجناس کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ وہ انسانی محنت کی پیداوار ہوئی ہیں۔ یہ محنت انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی حیثیت رکھتی ہے۔ اجناس کی قیمت کو اس محنت سے معین کیا جائے کا جو عجیب مجموعی ان بر صرف کی جاتی ہے گویا قدروں کی حیثیت میں تمام اجناس منجمد اوقات محنت ہیں جو ان بر صرف کے گئے ہیں۔ گذشتہ زمانوں میں مال برائے مال کے تبادلے میں قاعدہ یہ تھا کہ پہلے جس ہوئی پھر اس کی قیمت لکھی جاتی جس کے بدلتے میں دوسری جس لی جاتی تھی۔ سرمایہ داروں کا معاشی قانون یہ ہے کہ پہلے روپیہ پوتا ہے بھر وہ جس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس جس کو بیچ کر روپے میں تبدیل کیا جاتا ہے جو پہلی رقم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ روپے کی اصلی قدر بر جو اضافہ ہوتا ہے آسے مارکس نے "فالتو قدر" کا نام دیا ہے۔ یہی اضافہ روپے کو سرماں میں تبدیل کرتا ہے۔ فالتو قدر اس وقت بتتی ہے جب محنت جس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی۔ فرض کیجیے ایک مزدور روزانہ آٹھ گھنٹے کارخانے میں کام کرتا ہے۔ جتنی اجرت اسے ملے گی اس کی قیمت کام والہ تین گھنٹوں میں تیار کر لیتا ہے۔ باق کے پانچ گھنٹوں میں اس کی محنت سے جو مال تیار ہوتا ہے اس کی قیمت کارخانہ دار کی جیب میں جاتی ہے۔ جو کچھ بھی مزدور تیار کرتا ہے اگر اس کی اصل قیمت اسے مل جائے تو ظاہر ہے کہ کارخانہ دار کو کوئی نفع نہیں ہوا۔ پانچ گھنٹے یا فالتو وقت کی محنت کا مزدور کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ اس طرح مزدور نہ صرف اپنی اجرت کی قیمت کام تیار کرتا ہے بلکہ ایک "فالتو قدر" بھی تیار کرتا ہے جو جس کی صورت میں تبدیل ہو کر کارخانہ دار کے قبضے میں چلی جاتی ہے جیکہ کارخانہ دار اپنے باتھ سے کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ گویا اس دور کا کارخانہ دار اپنے مزدوروں سے اسی طرح استفادہ کرتا ہے جس طرح قدیم زمانے میں آتا اپنے غلاموں سے کرتا تھا۔ کئی چہلوں سے مزدور کی حالت غلام سے بھی بدتر ہوئے ہے۔ اکثر اوقات مزدور یک فنی سہارت رکھتا ہے مثلاً بلب بلب بنانا ہو تو سالم بلب ایک ہی مزدور نہیں بناتا۔ شیشہ کوئی مزدور تیار کرتا ہے تاریں کوئی اور بناتا ہے اور جوڑتا کوئی اور ہے۔ چنانچہ مزدور کے لئے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنا مخصوص کام کرے ورنہ بھوکون مر جانے گا۔

مارکس نے "سرماں" میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فالتو قدر سرماں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سرماں سے کارخانہ دار نئی نئی کالیں خربدلتا ہے نئے نئے

کارخانے لگا کر صنعت و حرفت کو مزید وسعت دھتا ہے۔ روپے یا سرمائی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پہ چینہ 'بے چین' رہتا ہے اور پر ابر بڑھتا رہتا ہے۔ ایک کارخانہ دار ایک ہی کارخانے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ اور کارخانے نصب کرتا رہتا ہے بڑے کارخانہ دار چھوٹے کارخانے داروں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور پھر بڑے کارخانہ دار مل کر اور بڑے کارخانے نصب کرتے ہیں اور صنعت و حرفت پر چند گزی کے خاندانوں کی اجراہ داری ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود سرمایہ دار محنت کشون کا محتاج رہتا ہے جب محنت کش طبقے میں انہی حقوق کا شعور پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کارخانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور "غاصبوں کی دولت غصب کر لی جاتی ہے۔" ۱۰ مارکسی روایتی مذہب کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں آغاز تاریخ ہی سے مقندر اور غالب طبقہ مذہب کو عوام پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے بطور ایک وسیلے کے استعمال کرتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانوں میں بادشاہ ملک کا حاکم ہونے کے ساتھ بڑے پروپت کا عہدہ بھی رکھتا تھا۔ مصر کے فراعین، چین کے خاقان، ایران کے کسری روم کے قیصر زمین پر خداوند خدا کے نائب ہونے کے مدعی تھے۔ ان کے خلاف بغاوت کو خداوند خدا کے خلاف بغاوت قرار دیا جاتا تھا اس طرح مذہب کے طفیل سلاطین نے اپنا استبداد قائم کیا۔ معبد اور ریاست کا بد اتحاد شاہیت کے خاتمے تک باقی و برقرار رہا۔

سلطان اور جاگیرداروں کے خاتمے پر بورڑوا نے زمام اقتدار سنبھالی تو انہوں نے بھی مذہب سے بھی کام لیا اور اس کی جی کھوں کر سربستی کی۔ مغرب کے سامراجیوں نے مشنریوں کی مدد سے ایشیا اور افریقہ کے مالک پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشنریوں میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی ہزاروں مشنری مذہب کے پردے میں انہی انہی ملک کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے ہیں۔

مارکس کا قول ہے "مذہب عوام کے ایسے افیون ہے۔" اس کے خیال میں مذہب کے باعث عوام فردوس بوریں کے تصور میں مست اور مکن رہتے ہیں اور اس زندگی کو عارضی اور حتیر جان کر اپنے حقوق کی پاسی سے غافل ہو جاتے ہیں، اس طرح مذہب آن کے لیے ذہنی فرار کا سامان بن گیا ہے۔ روزمرہ کے آلام و معاصیب محرومی اور افلام کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے اور اپنے حقوق کے حصوں کے لیے عمل کشمکش کرنے کے عجائے وہ آسی تخیلاتی دنیا میں پناہ لیتے ہیں جو مذہب نے آن کے لیے با رکھی ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ جب عوام کو اسی دنیا میں حقیقی سرست میسر آجائے گی تو وہ اس خیالی سرست کی تلاش نہیں کریں گے جو مذہب آن کے لیے فرایم کرتا ہے نتیجہ مذہب خود بخود مٹ جائے گا۔ مارکسی مذہب کو زبانہ قدیم کے ایک عبوری دور کی یادگار سمجھتے ہیں۔ اور خدا، روح اور حیات بعد ممات اور حشر و نشر کے منکر ہیں۔ روح کی توجیہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ غاروں

کے انسان کے خیالات بھکانہ تھے۔ اپنی کم سوادی کے باعث جب وہ حالت خواب میں اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو چلتے ہوئے دیکھتا تو خیال کرتا کہ شاید اُس کے جسم کے اندر کوئی ایسی شے بھی موجود ہے جو حالت خواب میں گھومتی ہوئی ہے جب کہ اُس کا جسم خار میں دراز ہوتا ہے۔ اسی شے کو اُس نے روح فرار دیا اور یہ تصور پیدا ہوا کہ روح جسم یا مادے سے الگ بھی رہ سکتی ہے اور غیر فانی بھی ہو سکتی ہے۔ صور زمانہ سے انسان نے آفتاب، چاند، ناروں وغیرہ کو بھی ارواح منسوب کر دیں اور انہیں زندہ پستیان سمجھ کر ان کی پوجا کرنے لگا۔ یہ کثرت پرستی کا دور تھا، بعد میں اپنے قبائلی سرداروں کی طرح ان دیوتاؤں کا بھی ایک سردار تسلیم کر لیا گیا جسے خداوند خدا کہنے لگے۔ اس کے ساتھ یہ تصور بھی وابستہ تھا کہ دوسرا ارواح کی طرح خداوند خدا بھی مجرد و منزہ ہے اور اپنے وجود کے لیے مادے کا محتاج نہیں ہے۔ جدلیاتی مادیت پسندوں کا کہنا ہے کہ ارواح اور خدا کے تصورات انسانی ذہن کی تخلیقات تھیں جنہیں بعد میں ماقوم الفطرت پستیان تسلیم کر لیا گیا اور یہ عقیدہ روئما ہوا کہ وہ مادے سے ماوراء ہیں۔

مارکسی اخلاقیات کے سمجھنے کے لیے مثالیت پسندی کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے:

(۱) ما بعد الطبیعیات: مادہ ذہن کی تخلیق ہے۔

(۲) اخلاق: دنیا میں چند نصب العین یہیں جن کے حصول کی بر باشمور شخص کوشش کرتا ہے۔

جدلیاتی مادیت پسند مثالیت کی ما بعد الطبیعیات کو رد کر دیتے ہیں لیکن نصب العینوں کے منکر نہیں ہیں۔ خود آن کا سب سے بڑا نصب العین یہ ہے کہ انسان معاشرے سے معاشی نا انصاف اور استھصال کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس نصب العین کے حصول کے لیے لا کھوئی اشتہلیوں نے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں۔ البته وہ اخلاق کو منہب سے وابستہ نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ فلاں کام کرنا چاہیے کیوں کہ کسی ماقوم الفطرت پستی نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کے معاوضے میں بہشت کی بشارت دی ہے وہ کسی کام کو اس لیے کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشی و معاشرتی عدل و انصاف کے قیام میں مدد ملتی ہے۔ وہ اچھے کاموں کا معاوضہ جنت میں لینے کے قائل نہیں ہیں بلکہ اسی دنیا میں جنت بسانے کے آرزو مند ہیں۔ آن کے باوجود اینے کام کا معیار معاشی انصاف کا قیام اور استھصال بالجبر کا انسداد ہے۔ جس کام سے اس قیام یا انسداد میں مدد ملتی ہے وہ اچھا ہے اور جو اس کوشش میں مزاحم ہوتا ہے وہ برا ہے۔

مارکس ازیٰ و ابتدی اخلاقیات کا قائل نہیں ہے۔ اُس کے خیال میں معاشی ماحول کے بدلت جانے سے اخلاق قدریں بھی بدلت جانی ہیں، وہ کہتا ہے کہ جاگیرداری نظام میں ایسی قدریں صورت پذیر ہوئی تھیں جو جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کرتی تھیں۔ مارکسی شریعت موسوی کے احکام عشرہ کی مثال دیتے ہیں جن میں

شخصی املاک کے تحفظ کی تلقین کی کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح صنعتی انقلاب کے بعد جاگیر دارانہ نظام معاشرہ کی اخلاق قدریں بدل گئی تھیں اسی طرح اشتہلی انقلاب نے اخلاق کو جنم دے گا جو معاشی استعمال اور شخصی املاک کا خاتمہ کر دے گا اور محنت کش طبیعی کے حقوق کا ضامن ہو گا۔ آن کے خیال میں روایتی اخلاق نظریات اور ماورائی ہے اور ایک ایسے معاشرے سے بادگار ہے جس کی بنیاد نا انصاف اور طبقاتی تفریق پر آٹھائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی اخلاق اس نا انصاف اور طبقاتی تفریق کا جواز پیش کر کے ذاتی املاک کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ مزید بران مارکسی روایتی اخلاق کو فردیت پر مبنی سمجھتے ہیں جو چند افراد کے لیے تو نیک زندگی گزارنے کا باعث بن سکتا تھا لیکن اجتماعی عدل و انصاف کے قائم کرنے میں ناکام ثابت ہوا۔ چند افراد کے نیکی کی زندگی گزارنے سے اجتماعی نا انصاف کو دور نہیں کیا جا سکتا۔

مارکسی معاشی انصاف کو سب سے بڑا اخلاقی نصب العین مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہر شخص کی ضروریات بوجہ احسن پوری ہوئی رہیں۔ اپنے اور یوی یجھوں کے مستقبل سے متعلق کوئی خدشہ نہ ہو، آس میں اجتماعی احسان تحفظ پیدا ہو جاتا ہے جو بدی کے عمر کات کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اس معاشرے کے افراد کو وعظ و نصیحت کی احتیاج نہیں رہتی۔ دوسرا طرف جو شخص افلام و مسکن کا شکار ہو جس کی ابتدائی ضروریات پوری نہ ہوئی ہوں، جسے اپنی یوی یجھوں کے مستقبل کا غم کہائے جا رہا ہو آسے وعظ و نصیحت یا توکل و قناعت کا درس بدی کے ارتکاب سے باز نہیں رکھے سکتا۔ گویا مارکسی اخلاقیات میں معاشی اور اخلاقیاتی مسائل یا معاشی اور اخلاقی مہمان آسی صورت میں پہنچ سکتے ہیں جب معاشی انصاف عملًا قائم کر دیا جائے۔

مارکسی کہتے ہیں کہ روایتی اخلاق کی بنیاد شخصی حظ و مسرت پر رکھی گئی ہے جب کہ اخلاقیات کا نصب العین افراد کا حظ نہیں ہے بلکہ معاشی انصاف کا قیام ہے جس سے تمام لوگ حظ و مسرت سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ مارکسی کہتے ہیں کہ اشتہلی معاشرے کا اخلاق قدیم اخلاق کی طرح مابعد الطبيعیاتی ماورائی یا مثالیاتی نہیں ہو گا بلکہ عملی اور معروضی ہو گا۔

مارکسیوں کا عقیدہ ہے کہ مثالی فرد مثالی معاشرے کو قائم نہیں کر سکتا بلکہ مثالی معاشرہ مثالی افراد کو جنم دینا ہے۔ آئنس بکسلی^۱ نے مارکسیوں پر اعتراض کیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے بر قسم کے وسائل کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے جواب میں مارکسی کہتے ہیں کہ نظرے اور عمل کی تفریق کی طرح مقاصد اور وسیلے کی تفریق بھی ہے معنی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں بلکہ

مل کر اکافی بنائے ہیں۔

جهان تک آرٹ اور ادبیات کا تعلق ہے مارکسیوں کے خیال میں پیداوار کے علاقوں سیاسی، عمرانی اور عقلیاتی اعمال کی طرح جالیاتی فعلیت کو بھی معین کرتے ہیں اور صداقت اور خیر کی طرح جال کی قدر کو بھی اضافی مانتے ہیں۔ آن کا ادعا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ آرٹ زندگی کے لیے ہے تو اس کا مطلب جیسا کہ ان کے معتبرین کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آرٹ مقصودی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ زندگی کے معروضی احوال کی پیداوار ہے۔ معروضی زندگی آرٹ کو جنم دیتی ہے اس لیے آرٹ بھی زندگی کو تقویت بخشتا ہے۔ فن کار پر یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شعوری سطح پر چند واضح مقاصد ذہن میں رکھ کر کوئی نظم کریں یا ناول لکھیں۔ جب اس کی نظم یا ناول کی جڑیں حقیقتاً ”بھوری زمین“ میں بیوست ہوں گی تو وہ زندگی کا ایک شکفتہ نہونہ بن کر نمودار ہو گا جس طرح پہلو زمین سے اپنا رنگ روپ لے کر کھلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاک سے ہے رنگ اگتا ہے اور بعد میں اس کی پتیوں پر گلکاری کی جاتی ہے۔ مجلس نے کہا ہے:

”مصنف کے ذاتی نقطہ نظر کا اظہار جتنا خفی ہو گا ادب و فن کے لیے اتنا ہی مفید ہو گا۔“

مارکسی ناقدين ادب فرانسیسی جالیین کے نعرے ”آرٹ برائے آرٹ“ کے قائل نہیں ہیں اور اسے مریضانہ جال برسی کا کرشمد سمجھتے ہیں جو موضوعیت اور فردیت کے دامن میں پرورش پاچی ہے۔ ان کے خیال میں آرٹ زندگی کے لیے ہے کیونکہ اس کی اسامی زندگی ہے۔ بقول فرانز سہرنگ مارکس آرٹ برائے آرٹ کا مخالف تھا اور ادب و فن میں حقیقت نگاری کو اہم سمجھتا تھا۔ اسے مروانیز اور بالذکر جیسے حقیقت نگار پسند تھے۔

مارکسی ناقدين فن کہتے ہیں کہ ذاتی املاک کے سلبی تصور نے جمن قابوچیانہ خود غرضی کو فروع دیا اس نے ادب و فن میں موضوعیت اور داخلیت کا روپ دھار لیا۔ جس طرح ایک سرمایہ دار ذاتی منفعت پر معاشرے کی بہبود کو قربان کر دینا ہے اسی طرح ایک موضوعیت پسند فن کار اپنی فرگیت اور دروں بینی کے باعث زندگی کے جاندار تقاضوں اور انسان دوستی کی قدروں سے قطع نظر کر لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ماحول میں معلمین اخلاق، فلاسفہ اور سیاست زانوں کے انکار و نظریات کی طرح فن کار اور ادیب کا نقطہ نظر بھی مسخ ہو جاتا ہے۔ اس کے احساس مربض اور اس کی نگاہ کچھ بوجاتی ہے اس لیے زندگی سے براء راست موضوع لینے کی بجائے وہ اپنے دل میں غوطہ زنی کرتا ہے۔ اس کے الجھے ہونے خیالات اور مریضانہ احساسات کو سادہ اور سلیمانی اساؤپ بیان میسر نہیں آسکتا اس لیے اس کے طرز بیان بھی گنجائک ہو جاتا ہے اور وہ اسے رمزیت یا تجربیدی آرٹ کہہ کر اپنی کوتاہیوں کا جواز بیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مارکسی کہتے ہیں کہ فن کار کی تخلیقات اسی صورت میں صحت مند ہو سکتی

پس جب وہ ایک صحت مند معاشرے میں زندگی بسر کر دیا ہو اور اس کے احساسات میں وہی فطری شکفتگ اور تازگی ہو جو بہار کی کلیوں میں ہوتی ہے۔ صحت مند معاشرے ہی میں انسان دوستی کی قدریں پہنچتی ہیں۔ طالسطانی کی طرح مارکھیوں کے خیال میں آرٹ کا منصب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسروت کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ ہمیں سبب ہے کہ اشتہلی مالک میں لوک گیتوں اور لوک ناقچوں کو روز افزون مقبولیت حاصل پوری ہے۔

مارکسی ناقدین سے کہا جائے کہ جاگیرداروں کے نظام معاشرت نے جو معاشی نا انصاف ہر مبنی تھا دنیا کے بعض عظیم ترین فن کار اور ادیب پیدا کر کر تھے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ان زمانوں کا عظیم آرٹ زوال پذیر معاشرے میں تضادات کی پیداوار ہے جیسا کہ ایسوں صدی کے زوال پذیر معاشرے نے گونئے اور شرکوں پیدا کیا جن کا آرٹ معاصر زوال پذیر قدریوں کے خلاف بغاوت کی نشان دہی کرتا ہے۔ مارکسی جدلیاتی مادیت کو ایک انقلابی جذبہ سمجھتے ہیں۔ لینین کا قول ہے:

”انقلابی نظریے کے بغیر کوئی انقلابی تحریک پارو رہیں ہو سکی“

طباقی کشمکش جدلیاتی مادیت کی ایک صورت ہے جس کے تین کہایاں ہہلو ہیں۔ ۱۔ اقتصادی کشمکش۔ ۲۔ سیاسی کشمکش۔ ۳۔ نظریاتی کشمکش۔ ان سب کا آئس میں گھرا تعلق ہے اور ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

جدلیاتی مادیت پسندوں کے خیال میں افراد کی اصلاح کی کوششیں بیکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے کی اصلاح نہیں جائے۔ دوسرے الفاظ میں فرد کو بدلتے کے لیے اس اقتصادی ماحول کو بدلتا ضروری ہے جس کے ساتھ میں وہ ڈھلتا ہے۔ انجیل کا قول ہے:

”خُل میں رہنے والا اور جھوپڑتے میں رہنے والا مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں۔“

کویا جب تک جھوپڑتے میں رہنے والے کو عمل میں یا محل میں رہنے والے کو جھوپڑتے میں نہیں رکھا جائے کا اس کے سوجنے کے انداز اور طرز احساس کو بدلا ہو جا سکتا۔ جن ارباب فکر نے جدلیاتی مادیت کی تشرع و توضیح کی یا نئی حالات میں اس کی نئی سرے سے ترجیح کی آن میں سے این کا ذکر ہو چکا ہے جس نے جدید طبیعت کے اکشافات کی روشنی میں جدلیاتی مادیت کے اصولوں کی صداقت واضح کی۔ اس کے علاوہ اس نے سامراجی دور میں تحریک انقلاب کی نئی نئی راہیں متعین کیں۔ پاہ رہے کہ مارکس کے زمانے میں تجارتی اور اقتصادی سامراج کے نقش ہوئی صبح نہیں ابھرے تھے۔ وہ تجارتی آزادہ روی کا دور تھا اس لیے قدرتاً مارکس سامراجی معاشرے کے قوانین کا تشخض نہ کر سکا۔ چنانچہ اس کا نظریہ تھا کہ اشتہلی انقلاب دنیا بھر کے ترقی یافتہ بورزوں مالک میں ہے یک وقت پرہا پوگا۔ مارکس کی موت کے بعد جب سرمایہ داری نظام نے تنزل پذیر جارحانہ سامراج کی صورت اختیار کی تو ہم نے ہونے احوال کی روشنی میں این اور مثالیں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اشتہلی

انقلاب کسی ایک ملک میں بھی بارور ہو سکتا ہے۔ لین کی پہ دین ٹرالسک اور دوسرے قدامت پسند اشتالیوں کے نظریات پر قابل قدر فتح کا درجہ رکھتی ہے۔ چین میں ماوزے تنگ نے وہی کام کیا جو سوویٹ روس میں لین نے انجام دیا تھا۔ اس نے چین کے سیاسی و اقتصادی احوال کا معروضی انداز نظر سے جائزہ لئے کر ایسے عملی اقدامات کئے کہ ایک طرف جاپانی حملہ آور پسما ہو گئے اور دوسری طرف چینگ کیشک کوشکست کھا کر ملک چھوڑنا پڑا۔ ان فتوحات کے علاوہ ماوزے تنگ نے جدیلیات مادیت کے نظریے کی نئے سرے سے ترجیحی کی جو بعض پہلوؤں سے تعمیری اور تخلیقی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے دو مقالے 'عمل' اور 'تضاد' نہایت پر مغز میں جن سے ماوزے تنگ کی فطانت اور ژرف بینی کا ثبوت ملتا ہے۔

'عمل' میں ماڈ نظریہ علم سے بحث کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علم کو کسی صورت میں بھی عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عمل ہر صورت علم سے مقدم ہے کہ عمل کے بغیر علم ممکن الحصول نہیں ہے لہذا ماورائی علم یا ماورائی صداقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نظریہ عمل پر مبنی ہوتا ہے اس لیے عمل ہی علمی صداقت کا واحد معیار ہے۔ دوسرے الفاظ میں معمولات کبھی بھی محسوسات و مدرکات سے علیحدہ یا ماورا نہیں ہوتے بلکہ محسوسات و مدرکات ہی سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ انسان محسوسات و مدرکات ہی سے نتائج کا استخراج کر کے منطقی علم یا معمولات نک پہنچتا ہے۔ محسوسات علم کا ابتدائی درجہ ہیں جب کہ منطقی نتائج علم کا بلند ترین مقام ہیں۔ ماڈ کہتا ہے کہ حقائق کے براء راست مشاہدے اور تجربے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس نے علم کی دو قسمیں گنانی ہیں۔ کسی شے کا بالواسطہ علم اور کسی شے کا بلا واسطہ علم۔ وہ کہتا ہے کہ فی الحقيقة بالواسطہ علم بھی بلا واسطہ علم ہی ہوتا ہے کیون کہ وہ کسی نہ کسی نے اپنے مشاہدے سے ہی حاصل کیا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے افرید کے جنکلوں کے چنگ دید حالات لکھنے ہیں جنہیں پڑھ کر پہیں ان جنکلوں کا بالواسطہ علم ہوتا ہے لیکن اس سیاح کے مشاہدے کی روایت سے یہ بھی بلا واسطہ علم سمجھا جائے گا۔ ماوزے تنگ کے خیال میں علم معروضی عالم کے اس ادراک سے حاصل ہوتا ہے جو ہم اپنی حیات کے واسطے سے کرتے ہیں گویا علم کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی حیات سے خارجی عالم کا ادراک کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مدرکات کو نئے سرے سے ترتیب دیتا ہے اور ان سے منطقی نتائج کا استخراج کرتا ہے۔ یہ معمولات کا درجہ ہے۔ ماڈ کہتا ہے کہ صحیح مدرکات ہی صحیح معمولات کی بنیاد بن سکتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ معمولات کا ادراک بغیر حیات کے واسطے کے ممکن ہے وہ مثالیت پسند ہے اور جس کا ادعای ہے کہ صرف عقل استدلالی سے ہی حقیقت کا علم ہو سکتا ہے جب کہ مدرکات اس میں ناکام رہتے ہیں وہ

عقلیت پرست ہے۔ یہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ محسوسات ہر صورت معمولات سے مقدم ہوتے ہیں اور معمولات کا استخراج محسوسات کے واسطے ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔

ماوزے تنگ کا عقیدہ ہے کہ ایک جدلیانی مادیت پسند کا حصول علم کا عمل معمولات کے استخراج پر ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ جدلیانی مادیت کا کام یہی نہیں ہے کہ معروضی عالم کے قوانین کو سمجھو کر اس کی تشرع کی جائے بلکہ ان قوانین کی عملی تعبیر سے عالم کو تبدیل کرنا بھی ہے۔ یہ خیال ظاہرا مارکس سے ماخوذ ہے۔

ماوزے کے مقالے "تضاد"^۱ کا آغاز بورژوا معاشرے کے نظریہ ارتقا کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ماوزے کہتا ہے کہ ایک عالم مابعد الطبیعیات کی طرح ایک ارتقائیت پسند بھی دنیا کو جامد اور منبوط اشیاء کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ امن کے خیال میں اشیاء روز ازل سے اپنی اصل شکل و صورت میں موجود ہیں۔ آن میں تبدیلی صرف کمیت ہی کی ہوئی ہے یعنی وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ امن تبدیلی کا سبب اشیا کے اندر میں نہیں ہوتا بلکہ خارج میں ہوتا ہے نیز کوئی شے کسی دوسری شے میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آقا اور خلام یا سرمایہ دار اور محنت کش کی تفریق بھی ازل سے موجود ہے اور اب تک رہے گی۔ معاشرے کی تبدیلیوں کو وہ جغرافیائی ماحول یا خارجی اسباب ہی سے منسوب کرتے ہیں۔ ملائے ارتقاء اشیاء میں کیفیت کا سبب نہیں بتا سکتے نہ یہ بناتے ہیں کہ فطرت کے ہال تبدیل ہو کر اپنی اصل صورت سے مختلف صورت کیسے اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بر عکس جدلیانی مادیت کا ادعا یہ ہے کہ اشیا کی تبدیلی کا راز ان کے اندر میں ہے جہاں اضداد کی پیکار جاری رہتی ہے۔ یہی پیکار حرکت کا سبب بھی ہے نباتات حیوانات یا انسان کے اندر میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کمیت کی ہو یا کیفیت کی ہوئی صورت داخلی تضاد کے باعث ہی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں داخلی تضاد کے باعث ہوئی ہے اور یہی تضاد مختلف طبقات کے تصادم کا باعث ہوتا ہے۔ جدلیانی مادیت پسند خارجی اسباب و محركات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خارجی اسباب تبدیلی کی شرائط میں جب کہ داخلی اسباب کو تبدیلی کی بنیاد سمجھا جا سکتا ہے۔

ماوزے تنگ کے خیال میں پر شے میں آفاقی و انفرادی تضاد کا اجتماع ہوتا ہے اس لیے کسی شے کا مطالعہ کرتے وقت ضروری ہے کہ امن کے داخل میں جو آفاقی و انفرادی تضاد عمل میں آیا ہے۔ اس کا مطالعہ دونوں کے باہمی عمل و رد عمل سے کیا جائے۔ تضاد کی آفاقیت اور انفرادیت کے مابین جو رابطہ ہے وہی تضاد کے عوامی و خصوصی پہلوؤں کے مابین بھی ہے۔ اول الذکر سے امن کا مطلب یہ ہے

کہ تمام فطری اعمال میں تضاد موجود ہے۔ حرکت۔ اشیا۔ اعمال۔ فکر تمام تضادات یعنی۔ تضاد کا انکار ہر شے کا انکار ہے۔ ماڈکا کہنا ہے کہ ارتقاء کے پر سر جلے ہر صرف ایک ہی نتایاں تضاد ہوتا ہے جو موثر و کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے تضادات ٹانوی درجہ رکھتے ہیں۔ پہلے امن نتایاں اور بڑے تضاد کا کھوج لکانا ضروری ہے۔ مثلاً مار کس کے زمانے میں بھی پیشہ کی طرح آفاق و انفرادی تضادات موجود تھے لیکن مار کس نے معاشرے میں بورزوں اور پرولتاری کے نتایاں تضاد کا کھوج لگایا جس سے طبقائی کشمکش کے خد و خال واضح ہو گئے اور عمل ارتقاء کو تقویت بھم پہنچی۔

لین سالین اور ماوزے تنگ کے علاوہ جرجیس اولٹز - باخوت - ہڈو شینک - ایڈو رائلک - کا ڈول وغیرہ نے بھی جدلیاق مادیت کی تحریک و ترجمائی کی۔ اب اشتہائی ممالک میں جدلیاق مادیت کو مخفی انقلابی فلسفہ ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے باقاعدہ مائننس کا درجہ دیا گیا ہے۔

* موجودیت پسندی

ہیگل کے لظاظ فکر میں جرمتوں کی مثالیت نقطہ عروج کو پہنچ گئی تو اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا جس کے ترجانوں میں ہر بارٹ - ولیم جیمز - فونٹر باخ - کارل مارکس اور کیرک گرد نے مستقل مکاتب فکر کی بنیادیں رکھیں۔ کیرک گرد کو عام طور سے موجودیت کا بانی سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے بعض افکار کی پیش قیاسی پاسکل نے کی تھی جو رومن کیتھولک تھا۔

پاسکل (۱۶۷۳ - ۱۶۶۲ع) بچپن ہی سے نہایت ذہین و ذکر تھا۔ اس نے کسی مکتب میں باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی لیکن طبیعتیات اور ریاضی میں سائنس دان بھی اس کی غیر معمولی قابلیت کے معرفت تھے۔ جسمانی لحاظ سے وہ نحیف و نزار تھا اور ساری عمر گونان گوں اسرار کا شکار رہا۔ اس کے ساتھ عشق ناکام کی تلحیخوں نے اسے عذاب ناک جذباتی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ آخر اس نے سائنس کو ترک کر کے منصب کے دامن میں پناہ لی اور باقی مانندہ عمر علم کلام کی نذر کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ انسان خدا سے علیحدہ ہو کر روحانی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے خدا سے براہ راست رابطہ پیدا کرنے ہی سے سکون میسر آ سکتا ہے۔ وہ آگسٹائن ولی کے اس نظریے کا قائل تھا کہ آدم کے گناہ نے پیشہ کے لیے انسان قدر و اختیار کا خاتمہ کر دیا ہے اور بخات صرف جانب مسیح کی شفاقت ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ پاسکل عشق مسیح میں نتا ہو کر رہ گیا اور ترک علاقہ کر کے زاویہ نہیں ہو گیا۔ اس زمانے میں وہ لوہے کا ایک خاردار لنگوٹھ پہنا کرتا تھا۔ جب کبھی اس کی طبیعت پہاڑ پہاڑ کی طرف مائل ہوتی تو وہ اس کے خاروں کو اپنے بدن میں چھپو چھپو کر اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتا۔ وہ خصوصیات جن کی بناء پر اسے موجودیت پسندوں کا پیش رو کہا جاتا ہے مندرجہ ذیل یہی:

(۱) عقل و خرد حقیقت کو نہیں پا سکتی کیوں کہ عقل و خرد جذبہ و تخیل کے رحم و کرم ہر ہوتی ہے۔

Existentialism کا ترجمہ بعض لوگوں نے وجودیت سے کیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ وجود Being کا ترجمہ ہے۔ Existence کا ترجمہ "موجود" ہے۔ مزید برائے وجودیت سے ہمارے ہمان وحدت الوجود یا پسند اوسٹ مراد ہے۔ جو صوفیہ اس نظریے کے قائل ہوئے یہی انہیں وجودی یا وجودیہ کہا گیا ہے۔

(۲) انسان ذہنی کرب میں مبتلا ہے۔ اسی کرب کی حالت میں وہ صداقت کو پا سکتا ہے۔

(۳) انسان اور فطرت میں کسی قسم کی ہم آپنگی نہیں پائی جاتی۔ سورین کیرک گرد ۵۔ منی ۱۸۱۳ع کو ڈنارک کے شہر کوبن باگن میں بیدا ہوا۔ اس کا باپ مائیکل کیرک گرد (۱۸۴۷ع - ۱۸۳۸ع) جٹ لینڈ کے ایک کوورڈہ کا رہنے والا کسان تھا جس کا لڑکپن نہایت تنگ دستی میں گزرا تھا۔ کئی برسوں تک وہ ڈھور ڈنگر چرا کر اپنا پیٹ پالا رہا اور جائزے کے برقبار طوفانوں کی کٹیاں جھیلتا رہا۔ بارہ سال کی عمر میں وہ اپنے ایک ماموں کے یہاں کوبن باگن چلا گیا جہاں اس نے محنت کر کے علم کی تعلیمیں تھیں۔ نا مساعد حالات کے خلاف طویل اور صبر آزمائش کے بعد اس نے کپڑے کے کاروبار میں روپیہ کیا۔ چالیس برس کی عمر میں وہ کاروبار سے دست کش ہو گیا اور باقیمانہ عمر فارغ البالی میں بسر کی۔ سورین کیرک گرد کی ماں اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی جو اس کی پہلی بیوی کی ملازمت تھی۔ بیوی کی موت پر مائیکل کیرک گرد نے نو عمر ملازمت سے بھی خلاطہ کیا اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس سے نکاح کر لیا۔ سورین نے ماں باپ کی یہ لغتش ساری عمر معاف نہیں کی اس کی تعریفوں اور روزنامیوں میں کہیں بھی اس کی ماں کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا بھت تھا۔ جب اس کے بڑے بھائی عین عالم شباب میں یکرے بعد دیگرے سر گئے تو سورین کا یہ عقیدہ اور بھی بجتہ، ہو گیا کہ اس کے والدین کے گناہ کی پاداش میں سارا کتبہ تباہ ہو جائے کا اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو گیا کہ وہ بھی جوان ہی سر جائے گا۔ اور باپ کی موت سے ہمیں سر جائے گا۔ وہ جا بجا لکھتا ہے کہ میں چوتھیں برس کی عمر ہا کر مر جاؤں گا۔

مانکل کیرک گرد کو مردہ دل اور افسرده خاطری کے دورے پڑتے تھے۔ اسے اپنے گناہ کا شدید احساس تھا اور وہ خوف زدہ رہتا تھا کہ یوم محشر کو آس کی بغشش نہیں ہوگی۔ سورین اپنے روز نامی میں لکھتا ہے۔

"میں شروع ہی سے اپنے باپ کے زیر اثر رہا۔ میرا باپ افسرده خاطر رہتا تھا۔ جب کبھی وہ مجھے غم زدہ دیکھتا تو کہا کرتا یہ میوں مسیح سے محبت کرنے رہتا۔"

وہ اپنے بیٹے کو جناب مسیح کے مصائب کی یاد دلاتا رہتا۔ بستر مرک یہ آس نے بیٹے کے سامنے اپنے آس جرم کا اعتراف کیا جس کی بھانس عمر بھر آس کے دل و جگر میں چھٹی زیسی تھی اور جس کے باعث وہ مراق مالیخولیا کا شکار ہو گیا تھا۔ آس نے سورین کو بنایا کہ ابک دن لڑکپن میں ڈھور چراتے ہونے اس نے ایک نیلے ہر کھڑکے ہوئے اور آسمان کی طرف آنکلی آنہا آنہا کر خدا پر اعن طعن کی تھی اور آسے اپنے مصائب کا ذیسے دار نہہ رہا تھا۔ باپ کے اس اعتراف سے سورین کو اپنا جذباتی صدمہ پہنچا کر، وہ اسے 'بہ و خجال' سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کا خطاب آس نے

بہ لیا کہ خدا کی لعنت سارے کئیں کا پیچھا کر رہی ہے اور خود اُس کے سر پر بھی اُس لعنت کا سایہ مندلا رہا ہے۔ روز نامجھے میں کہتا ہے۔

”وہ شخص جس کا بھپن جٹ لیند کے گھاں کے میدانوں میں ڈھور چراتے گزرا تھا اور جس نے بھوک اور انفلام کے مصائب جھیلے تھے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر خدا پر لعن طعن کی تھی بیاسی بوس کی عمر کا ہو کر بھی اُس بات کو فراموش نہ کر سکا۔“

بھر کہتا ہے۔

”میرے خاندان بہ جرم کی بوجھائیں پڑ رہی ہے۔ خدا نے اسے ملعون قرار دے دیا ہے اور وہ اپنے قوی ہاتھوں سے اسے ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے۔“

بہ دبشت آسے باپ سے ورنے میں ملی تھی۔ اپنی مردہ دل اور افسرده خاطری کو چھپانے کے لیے وہ طنز و تعریض کے کشیلے نشتروں سے کام لیتا تھا۔ وہ کسی محفل میں شریک ہوتا تو حاضرین پر ایسے چھتے ہوئے فترے کستا تھا کہ وہ بلیا آنھنے تھے۔ اُس کا ظاہر ہر سکون تھا لیکن دل میں جذبات کا طوفان برپا رہتا تھا۔ اپنے روز نامجھے میں لکھتا ہے۔

”میں ابھی ابھی ایک ضیافت سے آرہا ہوں جس کی روح و روان میں خود ہی تھا۔ میرے ہر مذاق پر لوگ قہقہے لکاتے تھے اور مجھے تمسم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں گھر لوٹا تو میرا جی چاہا کہ میں اپنے آپ کو گولی مار دوں۔“

پس اینڈرمن نے اپنی ایک کہانی میں ایک شیخی خور طوطے کے کردار میں کبرک گرد کا خاکہ آڑا ہے اور اُس کی ساعت کو مخروح کر دینے والی درشت آواز، زبردیلی طنز، فخریہ قہقہے اور بُر خود غلط شیخی خوری کا نقشہ کھینچا ہے۔

ابتدائی تعامیں سے فارغ ہو کر کبرک گرد دینیات کا اختصاصی مطالعہ کرنے لگا۔ اُسے سروع ہی سے جرمنوں کی دینیات، مثالیت پسندی اور جماليات میں گھرا شغف تھا۔ جرمنوں کی تہذیب نے اُسے روح کی گھرائیوں تک متاثر کیا تھا۔ ڈاکٹریٹ کے لیے اُس نے سтрат پر تحقیقی مقالہ لکھا۔ وہ سтрат کا اُس لیے مداح تھا کہ ”اُس نے فرد کے حق اور اُس کی شخصیت کو معاشرے اور ریاست میں اولین اہمیت دی تھی۔“

کبرک گرد کی آشنا خاطری اور ریاست کی ایک وجہ یہ بھی تو تھی کہ وہ ایک بد صورت، لاغر انعام کبڑا تھا۔ آونٹ کی طرح اُس کے جسم کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں تھی۔ بے نور آنکھیں، طوطے جیسی ناک، پتلی گردن، سر پر بڑھے ہوئے جھاڑ سے بال، سوکھی اور لرزق ہوئی ثانگیں، بے ڈھب چال۔ جب کوئی شخص پہلی بار اسے چلتا ہوا دیکھ پاتا تو بے اختیار پس دبتا تھا۔ قدرت نے اُس کی بد وضعی اور بد صورتی کی تلاف غیر معمولی ذہانت سے کر دی تھی لیکن ہی ذہانت اُس کے لیے بلاۓ جان بھی بن گئی، اور وہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے مختلف سمجھونے لگا۔ مربضانہ حساسیت کے باعث اُس کی

حالت گونئے کے الفاظ میں اُس شخص جیسی تھی جس نے نکرے بدن زرہ بکتر پہن رکھا ہو اور اُس کی کٹریاں اُس کے بدن میں پیوست ہو گئی ہوں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا ”میں آدھا آدمی ہوں“۔ باپ کی موت کے بعد آسے وہم ہو گیا کہ میں ابھی چند ہی روز کا سہان ہوں چنانچہ زندگی سے حظ اندوڑ ہونے کے لیے اُس نے فرق و فجور کی راہ اختیار کی۔ شراب میں دھت رہنے لگا اور ہے دریغ روپیہ خرچ کرنے لگا۔ ۱۸۳۴ء میں وہ ایک خوب صورت دوشیزہ ریجینا اولسن سے محبت کا دم بھرنے دوںوں کی منگنی ہو گئی لیکن یہ تعلق ایک ہی برس قائم رہ سکا۔ منگنی کے دوسرے ہی دن وہ سوچنے لگا کہ میں نے غلط قدم آٹھا ہا ہے۔ اُس کے منطقی ذہن کے لیے قطع تعلق کا جواز تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ چنانچہ اُس نے دو دلائل سے اپنا ضمیر مطمئن کر لیا۔ ایک تو یہ کہ اُس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کے سامنے اپنے فرق و فجور کا اعتراف کرے اور آسے تمام حالات پرست کرنے بتا دے ”لیکن میں نے اسے سب کچھ بتانا چاہا تو مجھے اپنے ماں باپ سے اپنے تعلق کے بارے میں چند خوفناک حقائق بھی بتانا ہوں گے اور اس انتهاء تاریکی کا ذکر بھی کرنا ہو گا جو میری روح کی گھرائیوں میں اتر گئی ہے۔“ پھر کہتا ہے۔ ”میرے اندروں سے آواز آئی کہ اس لڑکی سے دست کش ہو جاؤ بھی تمہاری سزا ہے۔“ اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ”شہید کی الجہون“ میں مبتلا تھا یعنی اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسے کسی قربانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ دبتا ہے کہ ایک دن اس کا لڑکی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو لڑکی نے کہا میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے کیوں کہ مجھے تم پر رحم آتا ہے۔“ کیرک گرد لکھتا ہے:

”ایک شریف اور غیور آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ایک بات ناقابل برداشت ہے اور وہ ہے — رحم“

چنانچہ ۱۸۳۴ء میں اس نے ریجینا سے قطع تعلق کر لیا اس کی دی ہوئی انگشتی لوٹا دی اور اسے لکھا۔

”اس شخص کو بھول جاؤ جو ایک لڑکی کو بھی خوش نہ کر سکا۔“ قطع تعلق سے پہلے ریجینا نے کیرک گرد سے کہا تھا ”نم مجھے چھوڑ جاؤ گے تو میں شرم سے مرا جاؤں گی“ کیرک گرد لکھتا ہے۔

”یہ کہہ کر ریجینا نے میرے ضمیر پر قتل کا بوجہ رکھ دیا تھا۔“

بعد میں وہ اپنے ”ایثار“ کو حضرت اسحق کی قربانی کے مثال خیال کرنے لگا۔ ایک کتاب ”خوف اور لرزش“ میں کہتا ہے کہ جناب ابراہیم کا اپنے ایثار کی قربانی دینے پر آمادہ ہو جانا انسان پھاوسے موجود قانون و اخلاق کے منافق نہا لیکن حکم

(۱) یہودی اور مسیحی روایات میں جناب ابراہیم نے جناب اسحق کی قربانی کا ارادہ کیا تھا نہ کہ جناب اسماعیل کی قربانی کا۔

خداوندی کی تعديل کا فرض ان سب ہر خالب ا کیا۔ جناب ابراہیم کی عظمت یہ تھی کہ آپ نے حکم خداوندی کے آگے تمام مروجہ قوانین کو خیر باد کہا دی۔ کیرک گرد کہتا ہے کہ اس نے اپنے اندر وہ میں خدا کی آواز سنی تھی جس نے کہا تھا ”ابنی منسوہ کو چھوڑ دو“

وہیں سے قطعی تعلق کے بعد کیرک گرد برلن چلا گیا اور مشہور مثالیت پسند فلسفی شیلنگ کے لیکھر ستارا بیلکن وہ اس سے چندان متاثر نہ ہوا۔ پہلک کے مطالعے نے بھی اسے مایوس کیا اور وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں اپنا مستقل فلسفہ پیش کروں۔ اس کے فلسفے کا آغاز یوں ہوا کہ ایک دن سہ پہر کو وہ کوئی ہاگن کے فریڈرک باغ کے کیفی میں بیٹھا سکا رہا اور سوچ رہا تھا کہ میرے تمام دوستوں نے اپنی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر لی ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے اور کوئی تالیف و تصنیف میں مصروف ہے۔ سکار ختم ہو گیا تو میں نے دوسرا سلگا لیا اور مجھے یہ بات سوچھی کہ دوسرے لوگ کاموں کو سهل اور آسان بنارہے ہیں ایک ایسے آدمی کی بھی ضرورت ہے جو کاموں کو مشکل بنائے جسسا کہ مقراط نے کیا تھا۔ ان مشکلات کی تلاش میں مجھے کہیں دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ میں کیوں نہ اپنی موجودگی کو اس کے تمام پر جوش جذبات، تلح انتخابات اور دردناک بے نفسی کے ساتھ اپنا مقدار بنا لوں۔ اس طرح کیرک گرد نے اپنا فلسفہ پالیا۔ مقراط ایتھرزاں والوں کے لیے ”بڑے کھنی“ تھا اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتا رہتا تھا۔ کیرک گرد عیسائیوں کے لیے ”بڑے مکھنی“ کا کام کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ۱۸۳۴ع میں اس کی پہلی ضخیم کتاب ”یا / یا“ شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ اس نے دو سال میں آٹھ کتابیں لکھیں۔ ان ایام میں اس پر لکھنے کا بہوت اس بڑی طرح سوار رہا کہ وہ کھانا بینا آرام تنفس سب کچھ بہول گیا۔ ایک بیمار اور نیف آدمی کے لیے اس طرح بے تحاشا لکھنے کی وجہ سے جانا پلاشبہ حیرت کا باعث ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس تیزی سے سوچتا ہوں اور لکھتا ہوں کہ میرا کمزور جسم میرے طاقت ور ذہن کا ساتھ نہیں دے سکتا۔

”ان دنوں میں اس قدر لاغر تھا کہ کوئی بلند آواز سے میرا نام لئے کر بکارتا تو میں مر کر گر پڑتا۔ میری تانگیں کانپنے لگیں اور میرے گھٹنوں کے پٹھنے کھج گئے۔“

ان کتابوں میں جو فرضی ناموں سے شائع ہوئی تھیں الشیات، فلسفہ، اخلاقیات، جالیات اور نفسيات کے مہماں مسائل پر سبز حاصل بخشی کی گئی ہیں۔ کیرک گرد نے مروجہ عیسائیت پر نقد لکھا تو پادری اس کے مخالف بوکھنے اور اس سے مناظرے اور بجادے کا بازار گرم کر دیا۔ بسپ منشور نے اس کی چشم نہانی کی کہ تم مذہبی شعائر کا ادب نہیں کرتے۔ پادریوں نے رسائل اور اخبارات میں کیرک گرد کے خلاف محااذ

فائدہ کر لیا اور اس کے خلاف معاندانہ مضامین چھپنے لگے۔ کیرک گرد نے تن تباہ سب کا لٹ کر مقابلہ کیا۔ چو مکہمی لڑائی لڑنا رہا۔ اس نے کلیسا اور پادریوں کے اعمال پر سخت گرفت کی اور کہا کہ پادریوں نے مذہب کو وجہ معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ انہیں ”مردم خور“ کہنے لگا۔ ایک پرچے ”کارسیر“ کے ایڈیٹر پر۔ اب۔ ملر نے کیرک گیرد کی بھی زندگی پر سخت تنقید کی اور اس کے خیالات و اعمال کے تضاد کی طرف توجہ دلاتی۔ ملر کی طنزیہ تحریروں کا اثر بہ پوا کہ شہر کے عوام کیرک گرد کو سوڑی سوداگی سمجھنے لگے۔ ”کارسیر“ میں اس کے مضامک خیز کارٹون شائع ہونے لگے جن میں اس کے کوب اور چال ڈھال کا اس نے رحمی سے مذاق اڑایا گیا کہ کیرک گرد کے ائے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ وہ گوشہ تباہ میں کھس کر بیٹھ گیا لیکن قلم سے ترکی بہ ترکی جواب دیتا رہا۔ اس زمانے میں وہ کہا کرتا تھا۔

”میں ایک ایسا شہید ہوں جسے طعن و طنز سے قتل کیا گیا۔“

ملر نے کیرک گرد کی تالیف ”گناہ گار کہ بے گناہ؟“ کو خاص طور سے لعن طعن کا نشانہ بنایا۔ اس کتاب میں کیرک گرد نے رجیسترا سے اپنی منگنی توڑنے کی منطقیانہ عندر خواہی کی تھی کہا اسے اس بات کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی کے جذبات سے کھلیتے کے بعد بغیر کسی معقول وجہ کے اسے دھتا بتا دیتا اور بہر اپنے قبیح فعل کے جواز میں منطق بکھارنے لگتا۔ اسی بحث و جدل کے دوران ایک دن وہ گلی میں جاتا ہوا دھڑام سے گر پڑا۔ اس پر فالج گر گیا تھا۔ کیرک گرد نے ۱۱ نومبر ۱۸۵۵ع کو پسپتال میں دم توڑ دیا۔ اس وقت اس کی عمر بیالیس برس تھی۔ مرٹن سے پہلے اس نے کہا۔

”لوگ ایک زندہ آدمی کی بہ نسبت ایک مردے کی باتیں زیادہ غور سے سنیں گے۔“

بستر مرگ پر اس سے کہا گیا کہ آخری مذہبی رسوم کے ادا کرنے کے لئے کسی پادری کو بلا لیا جائے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا۔

”ان سرکاری نوکروں کو عیسائیت سے واسطہ؟“

لوگوں کا خیال تھا کہ کیرک گرد کے گھر میں اس کے باپ کا چھوڑا ہوا اٹاٹہ محفوظ ہو گا لیکن وہاں بھوپی کوڑی بھی نہیں ملی۔ اس کے بھیبھیز و تکفین کا خرج بھی بہ مشکل ہوا ہوا۔

کیرک گرد کی تصانیف فلسفیانہ، مذہبی، جہالتی کل تین تالیس ہیں۔ اس کی پہلی اہم تالیف یا/یا ہے جس میں اس نے زندگی کے تین مرحلے گناہ بیس جہالتی۔ اخلاقیاتی اور مذہبیاتی۔ وہ پاسکل کا بڑا شیدائی تھا۔ یہ مرحلہ پاسکل کے بیان کردہ مرحلہ ایقوری۔ رواق اور مسیحی سے مانخوذ ہیں۔ ان کی شرح وہ تین کرداروں کے حوالی سے کوتا ہے۔ اس کے خیال میں جہالتی نقطہ نظر کی ترجیحی وہ عیش ہرست نوجوان کرتے ہیں جنہیں ڈان بوان کہا جاتا ہے۔ بہ لوگ پر وقت حظ و مسرت کی

تلash میں بھاگتے ہیں اور زندگی کے ہر لمحے سے لذت باب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خدن میں کیرک گرد نے عورتوں کو گمراہ کرنے والے کا ایک کردار نیش کیا ہے جس کا نام جوبنی ہے۔ جوبنی ایک نوجوان لڑکی کو بازار میں سے گزتے ہونے دیکھتا ہے اور اس پر فریقت ہو جاتا ہے۔ بڑی تک و دو کے بعد وہ آس سے متعارف ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا نام کارڈبیلیا ہے جو ایک نوجوان ایڈورڈ نامی کی منسوب ہے۔ جوبنی کارڈبیلیا کے سامنے ایڈورڈ کا اس بڑی طرح مذاق آڑاتا ہے کہ وہ اپنی منسوبہ کی نظرؤں سے گر جاتا ہے۔ کارڈبیلیا جوبنی کی طرف مائل ہو جاتے ہے اور دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ جوبنی روایتی ڈان بوان کی طرح فوری طور پر اس سے مستفیض نہیں ہوتا بلکہ یہ نسبت توڑ دینا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اس کے بعد وہ عجیب و غریب حیاونہ سے آسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی تفصیل ”عورتوں کو گمراہ کرنے والے کا روز نامہ“ میں ملنی ہے۔ اس میں جو خطوط جوبنی نے کارڈبیلیا کو لکھے تھے وہ نہایت نفس ہرود ہیں۔ کارڈبیلیا اس کے بھکانے میں آجائی ہے۔ کارڈبیلیا کے ساتھ شب وصال گزارنے کے بعد جوبنی اپنے روز نامچے میں لکھتا ہے۔

”قصہ ختم ہوا۔ اب میں آس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب عورت اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اپنا سب کچھ کھو یٹھتی ہے۔ معمومیت مرد میں ایک منفی عمل ہے لیکن عورت کا تو جو بہر ہی بھی ہے۔ اس کے لئے جانے کے بعد عورت یہ بس پو جاتی ہے اور بہر مقاومت نہیں کر سکتی جب تک مقاومت باقی رہے محبت دلاغریب ہوتی ہے جب یہ ختم ہو جانے تو باقی کیا رہ گیا؟ کمزوری اور عادت! میں نہیں چاہتا کہ اب میرے سامنے اس کا نام بھی لیا جائے۔ آس کی خوشبو خانع ہو چکی۔۔۔ اب میرے دل میں آس کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی۔۔۔ اخلاقی نقطہ نظر کا ترجیح جج ولہلم ہے جو ڈان بوان کو راه راست پر لانے کے لئے آسے خطوط لکھتا رہتا ہے۔ ولہلم کی تعلیم کا اساسی اصول یہ ہے کہ زندگی میں معنویت آس وقت پیدا ہوئی ہے جب فرد اپنے افعال کی ذمے داری پورے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اخلاقیات شخصیت نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ جالیاتی اور اخلاقیاتی عمل میں توازن نہ پیدا کر لے۔ اس مقام پر آس نے فنون نصیحت و واضح کی ہے۔ مذہبی مرحلے کا نمائندہ جوبنی کلامی مکس ہے جو خدا سے براء راست قلبی و روحانی رابطہ پیدا کرنے کے لئے پہلے دو مراحل یعنی جالیاتی اور اخلاقیاتی سے دست کش ہو جاتا ہے۔ ایک اور کتاب ”زندگی کے مراحل“ میں بھی آس نے امن موضوع پر اظہار رائے کیا ہے۔ اس میں کیرک گرد نے رجبنی اولسن سے اپنی نسبت کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ تحریر لفظ بالفظ موجود ہے جو قطع تعلق کے وقت کیرک گرد نے اپنی منسوبہ کو بھیجی تھی۔ اس میں عنصر خواہی کرنے ہونے وہ کہتا ہے کہ میں اس قدر غمزدہ تھا کہ رجبنی

سے شادی کر کے آئے بھی خوشی سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی علم زدگی کا سبب اُس نے ”پھلو میں چھپے ہوئے کائٹے“ کو قرار دیا ہے۔ کیرک گرد کے سوانح نگار اج تک اس ”پھلو میں چھپے ہوئے کائٹے“ کی نشان دہی نہیں کر سکے۔ بعض کا قیاس ہے کہ اُس سے کوئی بھی انک جنسیات بے راہ روی سرزد ہوئی تھی۔ دوسرے کہتے ہیں کسیوں کے ہاں جانے سے آئے آتشک کا مرض لک گیا تھا۔

کیرک گرد کی ایک اور اہم کتاب ”دہشت کا تصور“ ہے جس میں اُس نے دہشت“ کا نفسيات اور مذہبیات تجزیہ کیا ہے۔ وہ دہشت اور خوف میں فرق کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ خوف تو کسی نہ کسی شے با فرد کا ہوتا ہے لیکن دہشت کسی خاص شے یا شخص سے وابستہ نہیں ہو۔ بلکہ آزادی عمل کی پیداوار ہے یعنی جو انسان آزادانہ عمل کرنے کا تھیہ کر لیتا ہے وہ دہشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دہشت شروع ہی سے قدر واخیار کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر گناہ کے ارتکاب سے قبل دہشت لازماً موجود ہو۔ موروٹی گناہ اور دہشت کے تعلق ہر بحث کرنے ہوئے اس نے جناب آدم کی مثال دی ہے اور کہا ہے کہ جب آدم سے کہا گیا کہ یہ پہلی مت کھائیو تو اس امتناع سے آدم کے جی میں اس کو توڑنے اور کھانے کی دہشت پیدا ہو گئی اور دہشت زدگی کے عالم میں انہوں نے پہل کہا لیا۔ یہ موروٹی گناہ اور دہشت نوع انسان کے مقدار میں شامل ہیں اور انسان اسی دہشت کے تحت بار بار گناہ کرتا ہے اور گناہ کے ارتکاب کے ساتھ آزادی عمل سے بیکنار ہوتا ہے۔ چنانچہ دہشت میں آزادی کا اسکان پمیشہ موجود ہوتا ہے۔ کیرک گرد دہشت کو دو گونہ قرار دیتا ہے۔ ۱۔ شخصی دہشت۔ ۲۔ موروٹی گناہ کی دہشت۔ موخر الذکر میں اُس نے جنسیات کا آغاز بھی ہوا تھا۔ اس طرح گناہ اور جنسیت لازم ملزم بن گئے ہیں۔ جنسیت بذات خود گناہ آسود نہیں تھی لیکن آدم کی لغزش کے ساتھ گناہ آسود ہو گئی۔ حکم خداوندی کے عدول کے خیال سے آدم کے دل میں جو دہشت پیدا ہوئی تھی وہی بیوٹ آدم کا پس منظر بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ این آدم میں بھی جنسیت کے ساتھ دہشت وابستہ ہو۔ انسان دہشت کے سامنے ہے جس ہو جاتا ہے اور اُس کی قوت ارادی سلب ہو جاتی ہے۔ ایسی ہے بسی کی حالت میں وہ یہ اختیار گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جیسے بروانہ شمع کے شعلے میں گھس جاتا ہے۔ کیرک گرد کے خیال میں مرد کی بد نسبت عورت میں دہشت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اُس کا جنسی جذبہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اسی کتاب میں کہتا ہے۔

Kierkegaard by Theodor Haeker. - ۱

The Concept of Dread. - ۲

- ۳۔ جرمن زبان میں Angst ڈینش میں Angest انگریزی میں Anguish۔ اس کا نرجمہ اذیت اور تشویش سے بھی کیا گیا ہے۔

"فرض کرو ایک معصوم دوشیزہ ہے جسے کوئی مرد ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے وہ داشت زدہ ہو جاتی ہے۔ وہ غصہ بھی محسوس کر سکتی ہے لیکن پہلا احساس داشت ہی کا ہو گا۔ فرض کرو ایک عورت کسی نوجوان کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وہ نوجوان داشت محسوس نہیں کرے گا۔ اس کے جذبات زیادہ سے زیادہ نفرت اور شرم کے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ مرد زیادہ روحانی ہوتا ہے۔"

یہ وہی مرد کا تاریخی تعصب ہے۔ مرد شروع ہی سے اپنی پوستاک ہر پرده ڈالنے کے لیے عورت کو اپنے سے زیادہ پوستاک ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ کیرک گرد کی بعض کتابوں کے عنوان آس کی شخصی نفسیات کی علمائی کرنے میں مثلاً "خوف اور لرزش۔" "مرض الموت" وغیرہ۔ ان میں کچھ اس قسم کے فقرے دکھائی دیتے ہیں۔

"میں کبھی بھی بچہ نہیں تھا۔ میں کبھی بھی جوان نہیں ہوا۔ میں کبھی بھی زندہ نہیں رہا۔ میں کبھی کسی انسان سے محبت نہیں کر سکا۔" "زندگی کس قدر کھو کھلی اور لغو ہے۔ کوئی کسی کو دن کرتا ہے۔ کوئی میت کے ساتھ جاتا ہے۔ کوئی قبر میں تین یا چھ منی کے پہنکتا ہے۔ آخر ستر برس کی عمر کب تک ساتھ دے گی۔ کیوں نہ اس زندگی کا فوری طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ کیوں نہ آدمی قبرستان ہی میں ڈبرا ڈال دے۔ کیوں نہ قبر میں گھس جائے۔"

"میری روح کیسی بوجہل ہے۔ کوئی خجال اسے سہارا نہیں دے سکتا۔ پروں کی بھڑکیاٹ اسے فضا سے آوبہ نہیں آڑا سکتی۔ اگر میری روح حرکت بھی کرے تو بھی یہ آس پرندے کی مانند بھڑکیاٹی رہتی ہے جو طوفان سے خوفزدہ ہو۔ میرے اندر وہ میں مردہ دلی اور اندیشوں کا غلبہ ہے۔ لکنا ہے جیسے بھوپال آنے والا ہے۔"

اس نوع کی بحیروں سے بعض ناقدین نے تشخیص کی ہے کہ کیرک گرد "اپریمردی" کے جنون" کا مرض تھا۔

۱۸۳۶ع میں آس نے ایک ضخیم کتاب لکھی جس کے ناموں عنوان میں آس نے "موجودیاتی عطا" کا ذکر کیا ہے۔ یہ فلسفے کی کتاب ہے جس سے بعد میں موجودت کی تحریک نے فیضان حاصل کیا تھا۔ اس کتاب میں کیرک گرد نے لفظ "موجودی" کو نیا فلسفیانہ مفہوم عطا کیا اور بار بار "موجودیاتی" کی ترکیب استعمال کی کیرک گرد نے موجودت کی کوئی جامع و مانع تعریف نہیں کی۔ بعد کے موجودت ہسند بھی اس کی کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ جتنے موجودت ہسند فلاسفہ ہیں اتنے ہی مفہوم اس ترکیب کو پہنانے گئے ہیں۔ سارے نے جھela کر

کہہ دیا ہے کہ ”موجودت“ کی ترکیب ہی لغو ہے۔ بہر حال کیرک درد موجودگی کے معروف معنی سے قطع نظر کر کے ”خالص انسان موجودگی“ سے بحث کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہے کہ بعیشت انسان ہونے کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور جواب میں کہتا ہے کہ موجودگی سے آس کی مراد مجرد و محض موجودگی نہیں ہے بلکہ ”انسانی موجودگی“ ہے۔

یہ کہنے سے آس کا مطلب بنی نوع انسان کی موجودگی بھی نہیں ہے بلکہ فرد کی موجودگی ہے۔ موضوع کی موجودگی ہے۔ فرد کی یہ موجودگی ادبیت میں نہیں ہے بلکہ زمان میں ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے۔ چند سال جیتا رہتا ہے اور بھروس جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتا۔ آسے چند روزہ فرست مستعار ملتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ”موجودگی“ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ ایک موجودت پسند کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض عقلیاتی نقطہ نظر سے اس مسئلے کا مطالعہ نہ کرے بلکہ، یہ دیکھئے کہ انسان کس جذبہ سے آس پیش موجودگی میں زندہ رہتا ہے جس کا انتخاب خود آس نے اپنے لیے کیا ہے۔ پروجوش جذبائی نقطہ نظر ہی موجودت پسند فلسفی کو عقليت پسند سے ممتاز کرے گا۔ کیرک گرد کہتا ہے کہ عقليت پسند محض ایک معروضی مفکر ہے جو تمام احساسات و جذبات سے قطع نظر کر لیتا ہے جب کہ موجودت پسند موجودگی کے جذبائی پھلوؤں میں اپنے آب کو کھو دینا ہے جی وجد ہے کہ موجودت پسند کو موضوعی مفکر کہا جاتا ہے جب کہ سائنس دان اور عقليت پسندوں کی بڑی تضیییک کی ہے۔ کیرک گرد نے سائنس دانوں اور عقليت پسندوں کی بڑی صرف دور ہی سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس ضمن میں آس نے بیگل اور آس کے پیروؤں پر سخت نقد لکھا ہے۔ ڈیکارٹ کے فلسفے کا آغاز اس قدر سے ہوا تھا۔

”میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں“۔
کیرک گرد کہتا ہے۔

”میں ہوں کیوں کہ میں موجود ہوں“۔

اس بات کی تشریع کے لیے اس نے ایک غائب دماغ آدمی کی کہانی لکھی ہے۔ اس آدمی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن صبح سویرے وہ جاگا تو آس پر اپنی موجودگی کا انکشاف پوا اور آسی روز وہ مر گیا۔ کیرک گرد نے بیگل کے افکار پر تنقید کرتے ہوئے کہ آس کا نظریہ بے مصرف اور بے ثمر ہے۔ کبیوں کہ بیگل نے کہیں بھی انسانی سطح پر ان افکار کی ذمے داری قبول نہیں کی۔ آس کی مثال وہ ایک ایسے عیسائی سے دبنا ہے جو عیسائیت کے متعلق بحثیں کرتا ہے۔ وضع کہتا ہے نیکن خوب عیسائیوں کی طرح اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ بیگل پر آس کا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ آس کے ”آفاقِ ذہن“ میں فرد اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے ایک چھاتی ہوئی لہر سمندر کی گھرانیوں میں غائب

ہو جاتی ہے۔ مذہبیات مفہوم میں انسان موجودگی سے کیرک گرد کی مراد ہے ”فرد کی موجودگی“۔ بیشیت ایک ذمہ دار، گناہ کار اور محیبت زدہ انسان ہونے کے جو بسیط افکار میں الجھنے کے بجائے اپنی نجات کی لکر کرتا ہے اور یکدی و تنہا اپنے خدا کے حضور میں سر جھکاتے کھڑا ہے۔ آس کی رحمت اور بخشش کا طالب ہے۔

کیرک گرد کی ایک اور اہم کتاب ہے ”غیر سائنسی ہم نوشت کا تکملہ“ جس میں آس نے ”مسیحی موجودیت“ کو شرح و بسط سے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالب کی تلخیص درج ذیل ہے۔

۱- تمام اساسی علم کا تعلق موجود ہے۔

۲- جس علم کا تعلق موجود ہے نہیں ہے وہ علم اساسی نہیں ہے۔

۳- معروضی علم میں موضوع یا موجود سے قطع نظر کر لی جاتی ہے۔

۴- ایک موجود متفس صرف اپنی موجودگی ہی کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ موضوع اپنی موضوعیت ہی میں کھو جائے۔

۵- صرف مذہبی اور اخلاق علم ہی حقیقی علم ہے کیون کہ اس کا تعلق براہ راست موضوع سے ہوتا ہے۔

۶- موضوعیت ہی صداقت ہے۔

کیرک گرد کہتا ہے کہ موضوعی صداقت کا معیار جذباتی اور ارادی ہے عقلیاتی نہیں ہے جب کہ معروضی صداقت کا معیار محض عقلیاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص ”جو موجود“ ہے اور اپنے کسی خیال کو صحیح سمجھتا ہے اور آس کی صحت پر پرچوش عقیدہ بھی رکھتا ہے تو آس کا وہ خیال صحیح ہوگا۔ یہی بات کیرک گرد کے فلسفے کو مغربی فلسفے کے وجہان غالب سے جدا کرنے ہے کہ اس نے استدلال کی نہج کو معروض سے بدل کر موضوع کی جانب موڑ دیا ہے۔ یعنی بسیط و مجرد افکار کے بجائے آس موضوع کو مرکز فکر بنایا جس کے ذہن میں وہ افکار پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے یہاں موضوع نہیں شخصیت ہے۔ وہ پیگل کی طرح خدا کو معروض محض نہیں مانتا بلکہ موضوع محض شخصیت سمجھتا ہے۔ اس طرح آس نے مغربی مثالیت کی ترتیب کو بدل دیا ہے۔ مغرب کا فلسفہ اور سائنس اشیاء کے مشابدے اور مطالعے سے اپنی جستجو کا آغاز کرتے ہیں جب کہ کیرک گرد کا نقطہ آغاز شخصیت ہے فرد ہے۔ عقلیت پسندی اور سائنس کی جستجو کا آغاز اشیاء سے ہو کر اشیاء ہی پر منتهی ہوتا ہے جب کہ کیرک گرد شخصیت یا فرد سے شروع ہو کر دوبارہ شخصیت اور فرد کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ جو لوں کچھ یوں بنی گی۔

عقلیت پسندی اور سائنس :

اشیاء سے شخصیت سے اشیاء

کیرک گرد کی مسیحی موجودیت :

شخصیت ہے اشیاء ہے شخصیت

کیرک گرد کے خدا کو موضوع محض قرار دینے پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس سے خدا کے وجود ہی کی نئی ہو جاتی ہے۔ پہ استدلال کچھ ہو گا۔ موضوعیت صداقت ہے۔

خدا لا انتہا موضوعیت ہے
لہذا خدا صداقت ہے۔

کیرک گرد کا خدا اپنے وجود کے لیے انسانی موضوع یا موجودگی کا محتاج ہے جس کے معاوراء آس کا وجود تصور میں نہیں آ سکتا۔ مذہب کا خدا یہ یہ وقت موضوع بھی ہے اور معروض بھی۔ اگر خدا کو معروض محض سمجھا جائے جیسا کہ ہیگل کے یہاں ہے یا موضوع محض مانا جائے جیسا کہ کیرک گرد کہتا ہے تو وہ مذہب کا خدا نہیں رہے گا مثالیت بستدی یا موجودیت بستدی کا خدا ان کر رہ جائے گا۔ ہیگل پر تقدیم کرتے ہوئے کیرک گرد نے آس کے معروضی روح کے تصور کو رد کر دیا اور کہا۔

"موضوع ہی حقیقت ہے اور حقیقت پیشہ، موضوع ہی میں پوچھ ہے"۔

کیرک گرد کہتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کسی قسم کا رابطہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کو موضوع نہ مانا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ زندہ اور حرکی قسم کا تعلق صرف ایک موضوع اور دوسرے موضوع ہی میں قائم ہو سکتا ہے۔ موضوع اور معروض کے درمیان پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہیگل کے نظام تکر میں فرد حبیر و صغیر ہے کیون کہ کائنات عین مطلق کے تدریجی اکشاف کا نام ہے جس میں فرد ہے مایہ اور بجبور ہے۔ کیرک گرد کہتا ہے کہ فرد کوئی ترشی ترشائی ہوئی ہے نہیں ہے بلکہ فاعل مختار ہے اور قوت انتخاب و فیصلہ رکھتا ہے۔ کیرک گرد انسان کے قدر و اختیار اور شخصی انتخاب کو بڑا اہم سمجھتا ہے۔ کہتا ہے۔

"میرا انتخاب اور فیصلہ شخصی ہے۔ کوئی ذات مطلق میرے لیے کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں خود اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کرتا ہوں"۔

کیرک گرد آس فردیت کو بھی قبول کر لیتا ہے جو موضوعیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ فردیت پر زور دینے ہوئے کہتا ہے۔

"اگر میں نے اپنی قبر کے لیے کوئی کتبہ بجویز کیا وہ ہو گا۔ وہ فرد"۔

کیرک گرد انسان ذہن کی ترقی کے لیے قدر و اختیار کو ضروری سمجھتا ہے۔ ایک مذہبی آدمی ہونے کی حیثیت سے آس کا خیال تھا کہ انسان صرف خدا کے

حضور ہی میں موجود رہ سکتا ہے لیکن اس حضوری کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کار تصور کرے کیونکہ انسان کے خیال میں گناہ کار ہونے کا احساس ہی انسان کے دل میں جذبہ مذہبیت کو پیدا کرتا ہے۔
کیرک گرد کے انکار جن کی تشریع و ترجیح بعد کے موجودیت پسندوں نے کی درج ذیل ہیں۔

۱- معروضی استدلال جس سے سائنس کام لیتی ہے غلط ہے کیونکہ صرف موضوعی انداز فکر سے انسان مسائل اور عقدوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے یکتا اور یہ مثال ہے اس لیے اس کا نقطہ نظر بھی منفرد اور یکتا ہونا چاہیے۔ اس کے خیال میں اخلاق فیصلہ آمن وقت صحیح ہوتا ہے جب وہ آفاق نہ ہو بلکہ انفرادی ہو۔

۲- اس نے ذہنی کرب اور تشویش کے تصورات پیش کیے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے جس کے باعث وہ خواہش بد اور گناہ کو اپنے اندر میں پیدا ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ اسی قدر و اختیار کے باعث انسان جذباتی خلفشار اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کشمکش سے صرف مسیح منجی ہی انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔

۳- انسان پر قدر و اختیار کے باعث ہی ذمی داری کا بار پڑا ہے۔

۴- موضوع ہر وقت کسی کوشش میں لکارہتا ہے۔ علم بغیر عالم کے کوئی وجود نہیں رکھتا۔ کسی شے کا ادراک آسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی صاحب ادراک بھی موجود ہو۔ دنیا میں اگر کوئی شے حقیقی ہے تو وہ اپنے "موجود" ہونے کا احساس ہے۔

۵- زندگی کی بے ثباتی کا احساس انسان کے دل میں کائنات بن کر چھتا رہتا ہے۔ جب وہ بقائے دوام کا آرزو مند ہوتا ہے تو صورت حالات العناک ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو موضوع سمجھنے کے بجائے محض ایک شے سمجھنے لگتا ہے۔

۶- انسانی زندگی حقیقتاً ہے معنی اور مہمل ہے اور بر شخص خود حصب مقدور اس میں معنی پیدا کرتا ہے۔

۷- معروضی انداز فکر انسانی شخصیت کو نظر انداز کر دینا ہے۔ شخصیت محض عقل و خرد پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں احساسات و جذبات۔ قدر و اختیار اور قوت فیصلہ کے عناصر بھی موجود ہیں۔ سائنس سابقہ معلومات کی بنا پر ادراک حق کی کوشش کرنی ہے حالانکہ حق کا معیار پہیشہ موضوع ہی معین کرتا ہے حق وہی ہے جو موضوع کے لیے حق ہے۔

۸- گنہکار ابدی مسروت سے دور رہتا ہے لیکن جب خدا آس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو احساس گناہ کی تلخی دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص گناہ سے نا آئتا ہو

وہ خدا سے دور رہتا ہے کیوں کہ وہ خود اپنے آپ سے دور ہوتا ہے۔ گناہ کا احساس انسان شعور کی گھرائیوں کو کھنکانا ہے اور آسے اپنے آپ کے قریب لے آتا ہے۔ اپنی کتاب ”مرض اور موت“ میں وہ کہتا ہے کہ انسان کے دکھ اور درد کا سچشمہ خود آس کے باطن میں ہے۔ اس دکھ درد کے لیے خارجی ماحول آدو ذمے دار نہیں گردانا جا سکتا۔ اذیت پیشہ داخلی ہوئی ہے اور اس میں تشویش، احساس گناہ اور مایوسی کو دخل ہے۔

کیرک گرد مذہب اور فلسفے دونوں میں یونانی روایات کا مقابلہ تھا اور عقل استدلالی سے قطع نظر کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ لوٹھر کے زیادہ قریب ہے اور آس کے اس نوع کے اقوال پر صاد کرتا ہے۔

”—جو شخص عیسائی بننا چاہتا ہے آسے چاہیے کہ وہ عقل کی آنکھ نکال دے۔“

”—تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عقل سے کنارہ کش ہو جاؤ بلکہ اسے جان سے مار دو۔ جب تک تم یہ نہیں کرو گے تم آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔“

”عقل ایک کسی ہے۔“

کیرک گرد کہتا ہے۔

”—صرف پرچوش جذبات کا اخذ کیا ہوا نتیجہ ہی قابلِ وثوق ہو سکتا ہے۔“

”—بہارے زمانے میں جس شے کی کمی ہے وہ تفکر نہیں پرچوش جذبہ ہے۔“

کیرک گرد کی یہ خرد دشمنی بھی موجودیت کی ایک اہم روایت بن چکی ہے۔ دوسرے خرد دشمنوں کی طرح وہ بھی اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ محض اس بنا پر عقل استدلالی سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی کہ وہ زندگی کے تمام عقدوں کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ پرچوش جذبات بھی تو زندگی کے تمام عقدے حل کرنے سے معدور ہیں بلکہ انسانی زندگی کے اکثر عقدے پرچوش جذبات بھی کے پیدا کر دیں۔ کیرک گرد کی خرد دشمنی نے آس کے اسلوب بیان کو بھی متاثر کیا ہے۔ وہ بڑی الجھی ہوئی تتر لکھتا ہے اور اس کی تالیفات میں ربط و تسلیل کا فordan ہے۔

کیرک گرد کے انکار پر حاکم کرنے وقت اس حقیقت کا پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر وہ ایک مذہبی مفکر اور مصلح ہے۔ بانی ڈگر نے کہا ہے کہ وہ ایک مسکن ہے فلسفی نہیں ہے۔ اپنی ایک کتاب ”بیشیت ایک مصنف کے میری کتاب کا نقطہ نظر“ میں جو ۱۸۳۸ء میں چھپی تھی آس نے دعویٰ کیا کہ میں ”امامور من اللہ“ ہوں اور ایک الہامی آواز میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اسیات کا ذکر خالی از ناجیسی نہ ہوگا کہ اس کے محبوب فلسفی سقراط کو بھی ”اندر کی آواز“ برے کہوں سے منع کیا کرتی تھی۔ کیرک گرد کے خیال میں آسے موجودہ عیسائیت کی صلاح کا کام سونپا گیا تھا۔ وہ معاصر عیسائیت سے اس ایسے ٹیکے زار تھا کہ کلیسا ہر یادربوں کے سلطنت ہے اور وہ مذہب کے اجارہ دار بن گئے ہیں۔ اُن کی

تقدیم فروشی اور دکان آرائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کیرک گرد نے کہا کہ خدا اور بندے کے مابین بلاواسطہ قلبی و روحانی ربط و تعلق سچی عیسائیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس مقصد کے لیے خدا کو ایک شخصیت مانا پڑے گا جو بذات خود جذبات و احساسات سے متصف ہے۔ اپنے بندوں کے روحانی کرب سے منافر ہوئے ہے اور گناہ گاروں کی نہیں اپنے کو نظر استھان سے دیکھتی ہے۔ کیرک گرد کے خیال میں ” موجودیات کرب ناک ” اُس دبشت سے بیدا ہوئے ہے جو موروثی گناہ کے ساتھ شروع سے وابستہ ہے۔

کیرک گرد نے کہا کہ موضوعیت ہی صداقت ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے یہ دعویٰ محل نظر ہے۔ موضوعیت اور فردیت باہم دگر وابستہ ہیں۔ جب موضوعیت ہی کو صداقت مانا جائے گا تو پر فرد کا صداقت کا تصور اُس کے ساتھ خاص ہو گا۔ اس صورت میں پر فرد پر اُس خیال کو مبنی بر صداقت سمجھئے گا جو اس کی ذاتی رائے کی تصدیق کرنے کا۔ چنانچہ صداقت کے اتنے ہی تصورات ہوں گے جتنے کہ افراد۔ گویا صداقت کا تصور ہی باطل ہو جائے گا۔ یہی حال اخلاق قدرؤں کا بھی ہو گا۔ جب پر فرد با پر موضوع حسن و قبح یا خیر و شر کا معیار اپنی شخصی پسند۔ ارادے یا جذبے کو بنا لے گا جیسا کہ کیرک گرد کی دعوت ہے تو خیر و شر کا کوئی معیار ہی باق نہیں رہے کا۔ جو شخص جس بات کو خیر سمجھئے گا وہی اُس کے لیے خیر ہوگی۔ دنیا نے فلسفہ میں انتہا پسندانہ موضوعیت و فردیت کی یہ روایت کیرک گرد سے شروع نہیں ہوئی۔ اُن کا آغاز قدیم یونان کے سوفسطائیوں ہرولاغورس وغیرہ سے ہوا تھا۔ سوفسطائی بھی معروضی صداقت کے منکر تھے۔ آن کا اصول تھا۔

” خیر وہ ہے جسے میں خیر جانتا ہوں۔ سچ وہ ہے جسے میں سچ مانتا ہوں۔“ افلاطون نے سوفسطائیوں کی ژولیدگئی فکر اور ذہنی ہر انکتدی کا پرده چاک کیا تھا۔ کیرک گرد نے سفسطہ کی اُن روایت کا احیاء کیا تھا جب اُس نے کہا کہ موضوعیت ہی صداقت ہے۔

معاشری پہلو سے کیرک گرد کی موضوعیت اور فردیت ترق پرور اجتماعی تفاوضوں کے مناقب ہے۔ جس معاشرے میں پر فرد موضوعیت اور فردیت کے تحت اپنے ہی شخصی مفاد کے حصول میں پمہ وقت کوشان رہے گا اُس کے دل میں انسانی پسندیدی اور دلسوی کے سوتے خشک ہو جائیں گے۔ جب نظریات سطح پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے کہ موضوعیت ہی صداقت ہے تو عملی دنیا میں پر فرد ذاتی مفاد کی بروزش میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھئے گا خواہ اس کے حصول کے لیے آسے دوسروں کے حقوق و مفادات کو ہمال ہی کرنا پڑے۔ کیرک گرد نے موضوعیت اور فردیت کا پر نتیجہ قبول کر لیا۔ ۱۸۶۴ء میں اس نے ایک ناول پر تبصرہ لکھا جو بعد میں ” دور حاضر ” کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس تبصرے میں اُس نے اشتراکیت کی جو آن دنوں شائع ہو رہی تھی سخت مخالفت کی اور نہا

”اجتہادی ملکیت کا دباؤ فرد کی انفرادیت کو ختم کر رہا ہے۔“
اشتراکیت کا ذکر کرتے ہوئے کہنا ہے۔

”اس کی اشاعت کے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ فرد اپنی تنهائی میں وہ
شجاعت پیدا کرے جو اُس آدمی کے حصر میں آتی ہے جو صرف خدا کے
سامنے جواب دے ہوتا ہے۔“

اسی مقالے میں اُس نے ”عوام کے خلاف تشدد کے خلاف - سطحیت - کینگی - یہودی
اور حیوانیت کے خلاف“ کشمکش کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ”پسوار
کر دینے والے اس عمل کو صرف اہل مذہب ہی روک سکتے ہیں۔“
کیرک گرد کے ان خیالات کے پیش نظر اُن بات سے چندان حیرت نہیں ہوتی
کہ یورپ اور امریکہ میں اُس کی موجودیت کا نہایت گرم جوشی سے خیر مقدم کیا
گیا ہے اور اُس کی اشاعت بڑے جوش و خروش کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اصلاح یافتہ
کلیسا کے ہادری - کلیساٹ روم کے زماء اور ہودی اخبار سب مل کر ”پسوار کر
دینے والے عمل“ کو روکنے میں کوشش ہیں۔
کیرک گرد دو دبستانوں کا باقی ہے :

۱- موجودیت پسندی - ۲- جدلیاتی الثبات -

مذہبی موجودیت پسندوں میں جبریل، مارسل اور کارل جا سپرزاں اُسی کے خوشہ چیز
ہیں۔ سارتر نے اپنی موجودیت کی تعبیر کیرک گرد کی طرح فرد ہی کے حوالے سے کی
ہے۔ دنیاۓ ادب میں کیرک گرد نے اُپنے - آرٹھر سٹرنگ برگ - سارتر - کامیو
وغیرہ کے فن و ادب پر گھرے اثرات ثبت کیے ہیں۔ ایمیل بروونر کی جدلی الثبات کا
پیرایہ استدلال وہی ہے جو کیرک گرد کا مابہ الامتیاز تھا۔ یہودیوں میں مارٹن یوبر
اور اُس کے تلامذہ اپنے مذہب کی تجدید کیرک گرد کے موجودیاتی انکار کی روشنی میں
کر رہے ہیں۔ مارٹن یوبر کی کتاب ”میں اور تم“ کو مذہبی حلقوں میں قدری نکاح
سے دیکھا جاتا ہے۔ عیسائی مسکاہیں کیرک گرد کی خرد دشمنی کے باعث اُس کی تعریف
میں رطب الاسان ہیں۔ کیرک گرد سے پہلے چرمن فلاسفہ ہامان اور شیلنگ نے
عقل و خرد کی مخالفت کرتے ہوئے جبلت، وجдан اور اشراق کو اُس پر فوقیت دینے
کی کوشش کی تھی۔ کیرک گرد اپنے روز نامی میں لکھتا ہے۔

”مقصد تو یہ تھا کہ عقل اور صرف عقل ہی کی مخالفت کی جائے۔ مجھے اُس کام
کے لیے مأمور کیا گیا تھا اسی لیے مجھے عقل کے تیز پتھیار سے مُسلح
کیا گیا۔“

کیرک گرد جیسا زیرک منطقی یہاں ٹھوکر کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ جب ایک
خرد دشمن عقل کی تنتیص کی کوشش میں عقل ہی کے پتھیار سے کام لئے کام تو گویا وہ
خود اپنے نتائج فکر کو باطل ثابت کر رہا ہوگا۔ عقل کو ناقص سمجھنے والے کا عقل
استدلال کیسے حکم ہو سکتا ہے۔ وہ کیرک گرد ہی کا نہیں تمام خرد دشمنوں کا احیہ
ہے کہ وہ عقلی دلائل سے عقل کی تنتیص کر کے خود اپنے ہی نظریات کی نفی کرنے پر

محبوب ہو جاتے ہیں۔

کیرک گرد کے منتشر افکار کو کارل جاسپرز نے ایک باقاعدہ مکتب تکری کی صورت میں مرتب کیا اور فلسفہ موجودیت کی تشکیل عمل میں آئی۔ کارل جاسپرز اولین بُرگ (جرمنی) میں ۱۸۸۳ع میں پیدا ہوا۔ اس نے اولیٰ عمر میں قانون اور طب کا مطالعہ کیا اور پھر نفسیات کی طرف رجوع کیا۔ کئی سال تک وہ پانڈل بُرگ کے شناخانے میں نفسیاتی معالج کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ ۱۹۲۱ع میں وہ فلسفے کا درس دینے لگا اور اس نے کیرک گرد کے افکار سے اہل علم کو روشناس کرایا۔

جاسپرز کہتا ہے کہ ما بعد الطبيعیات افکار اور اذلی وابدی صفاتوں کے تصورات محض اوہام باطل ہیں۔ ہر فرد ایک خاص لمحے میں ایک خاص حالت میں موجود ہے اور خاص قسم کے واردات و تجربات سے دو چار ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کسی وجود مطلق کے متعلق نہیں سوچتا بلکہ اپنے موجودہ واردات ہی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ جاسپرز کے خیال میں دور حاضر کے صرف دو فلسفی جید الفکر ہیں۔ وہ ہیں نیشنی اور کیرک گرد۔ ان کے نظریات مکتبی اور روایتی فلسفے کے خلاف بغاوت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نیشنی اور کیرک گرد میں فلسفہ یونان کی مخالفت کا عنصر مشترک ہے۔ نیشنی عیسائیت کا مخالف تھا۔ کیرک گرد نے بھی مروجه عیسائیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ کیرک گرد کی طرح جاسپرز بھی سائنس کا مخالف ہے اور کہتا ہے کہ سائنس کے احاطہ کار کو محدود سمجھنے ہی سے ہم موجودی فلسفے کے قبول کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس کے خیال میں فلسفہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل ناکام اور درمانہ ہوئے ہے یا بالنظر جاسپرز "غرقاب" ہو جاتی ہے۔ جاسپرز قدماء یونان کا اس لیے مخالف ہے کہ اس کے خیال میں (۱) قدماء یونان نظریاتی تجزیے میں آل جھے رہے اور انہوں نے حیات انسانی کو بدلتے کے لیے کوئی بلاواسطہ دعوت نہیں دی۔ (۲) وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم مفکر اور تجزیہ پسند بن جائیں۔ جاسپرز نیشنی سے خاصاً متاثر ہے۔ فلسفیانہ عقاید میں اسے لا ادری کہا جاتا ہے۔

جبیرل مارسل کیرک گرد کا مسئلہ ہے اور اسی کی طرح مسیحی موجودیت کی ترجمتی کرتا ہے۔ ۱۸۸۹ع میں ایک رومن کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوا لیکن بعد میں لا ادری ہو گیا۔ فلسفے میں وہ پیگل، برینڈ لے اور رائیس سے متاثر ہوا اگرچہ اس کے خیال میں ان فلاسفہ نے فرد کے موجود ہوئے کی حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے اور منطقی موشکافیوں میں آل جھے کر رہے گئے ہیں۔ جنگ عالمگیر نے اس کے ذمہ میں یہ بات اثرات کی جھلک اپنی شکھانی دیتی ہے جس سے اس نے وجود ان اور خرد دشمنی کے تصورات اخذ کرے ہیں۔ جبیرل مارسل ما بعد افسیات کی طرف بھی مائل تھا اور حاضرات ارواح میں دلچسپی لیتا تھا۔ آسے ایک قابل اعتماد نئیل زکار اور موسیقار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی کمیاں میں وہ افراد کو آن کے خصوص ماحول سے واپس

کر کے دیکھتا ہے اور موسیقی کے زیر اثر وہ آن معانی سے بھی اعتنا کرتا ہے جو حقائق سے ماوراء ہوتے ہیں۔ اس کی تمثیلوں کے کردار شدید محرومی اور تنهائی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ ۱۹۲۸ع میں اس نے بتپسہ لیا اور کاپسائے روم سے دوبارہ واپسی پوگیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان یاس کے باعث داخلی خلا اور احساس تنهائی کا شکار ہو جاتا ہے جس سے نجات پانے کے لیے انسان کو عالم ماوراء سے رجوع لانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔

جن فلاسفہ نے کبرک گرد اور جبریل مارسل کے مذہبی افکار سے قطع نظر کر کے موجودیت کو خالصتاً محققانہ علمی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی ان میں ہائی ڈگر اور ٹان پال سارتر ممتاز مقام کے مالک ہیں۔

مارٹن ہائی ڈگر ۱۸۸۹ع میں پیدا ہوا۔ اوائل شباب میں آمن کا ارادہ کاپسائے روم سے واپسی ہوئے کا تھا لیکن بعد میں العاد کی طرف مائل ہو گیا۔ جب وہ مار برک میں فلسفی کا استاد تھا تو آس نے کانٹ اور انفلاطون کے افکار پر قابل قدر کتابیں لکھیں۔ وہ نشیئر اور پسرل سے بہت متاثر ہوا۔ وہ کبرک گرد کو بعض ایک مذہبی اپل قلم سمجھتا ہے اور نشیئر کی طرف مائل ہے جسے وہ عظیم فلاسفہ میں شمار کرتا ہے۔ گنستہ جنگ عظیم میں آس نے ناتسیوں کی ہمتوانی کی تھی اس لیے جنگ کے خاتمے پر آسے درس گاہ سے پشا دیا گیا۔ آج کل وہ گوشہ نشینی کی زندگی پر سر کر رہا ہے۔

بعض اپل الرائے ہائی ڈگر کے فلسفے کو موجودیت کا نام نہیں دیتے کیونکہ اونچر عمر میں اس نے بہ تکرار کہا ہے کہ آس نے شروع ہی سے اپنی توجہ وجود پر سر کوز رکھی ہے اور موجود کو پیشہ ثانوی حیثیت دی ہے۔ وہ خود بھی اپنے موجودی ہونے سے انکار کرتا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب "وجود اور زمان" میں آس نے انسان یا فرد کو موضوع بحث نہیں بنایا جیسا کہ موجودیوں کا شعار ہے بلکہ وجود ہی پر سیر حاصل بھیں کی ہیں۔ جہاں کہیں آس نے فرد کے وجود ہونے پر بحث کی ہے وہاں بھی آس کا مقصد یہی رہا ہے کہ موجود کے واسطے سے وجود کی کہنے کو پانے کی کوشش کی جائے۔ پھر صورت سارتر کے افکار پر آس نے گھرے اثرات نہیں کرے ہیں۔ اس کے اہم موجودی انکار درج ذیل ہیں۔

۱۔ انسان ایک ہے نہیں ہے بلکہ ایسا وجود ہے جو صاحب اختیار ہے اور قوت فیصلہ رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے فلسفے کو انسان پسندی کا فلاسفہ کہتا ہے۔ وہ انسان کو صداقت کا موجود بھی سمجھتا ہے اور انسان کے مقابلے میں خدا کا بھی قائل نہیں ہے۔

۲۔ انسان آزاد ہے فاعل اختیار ہے۔ بھی اختیار آس کے لیے تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ وہ تشویش اور دبشت میں فرق کرنا ہے۔ دبشت کسی خارجی شے سے واپسی ہوئی ہے جب کہ تشویش انسان کے اندروں سے آہرنی ہے۔

۳۔ اذیت موت اور فنا کے تlux احساس سے پیدا ہوئی ہے۔ موت کو آس نے

نیستی کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے اس عالم آب و گل میں وارد ہوا نہ آسے اپنی منزل کا کچھ علم ہے۔ انسان چاروں طرف سے فنا اور نیستی میں گھرا ہوا ہے جس کا احساس اُس کے لیے کرب ناک اذیت کا باعث ہوا ہے۔ یہ اذیت ہمارے دل و دماغ کی گھرائیوں میں سرایت کر چکی ہے اور ہم اس خرابیہ آباد تما میں اپنے آپ کو یکسر تنہا اور یہ بس ہاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نوع انسان سمجھتے رہیں پھر یعنی تحفظ کا احسان ہوتا ہے لیکن جب پھر اپنے فرد ہونے کا احسان ہوتا ہے تو ہم تحفظ کے احسان سے معروف ہو جاتے ہیں اور نیستی اور فنا کی دیشت ہم ہر غلبہ پا لیتی ہے۔ موت اور فنا ایک ٹھوس حقیقت ہے اور بر موجود کا عنصر لازم ہے۔

۲۲۔ عقل و خرد کا احاطہ کار محدود ہے اور سائنس انسانی فطرت سے متعلق پھر کچھ نہیں بنا سکتی۔

۵۔ صرف انسان ہی موجود ہے۔ چنانی یہی لیکن وہ "موجود" نہیں۔ درخت یہی لیکن "موجود" نہیں۔ گھوڑے یہی لیکن وہ "موجود" نہیں۔ پائی ڈگر کے فلسفے کے دو بنیادی افکار نیستی اور قدر و اختیار کو سارتر نے شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ پائی ڈگر کی اخلاقیات بھی اپنی تصورات سے متفرع ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاق کے کوئی بندھے نہ کرے اصول نہیں یہی نہ ازلی وابدی اخلاق قدرؤں کا کوئی وجود ہی ہے۔ ہم جس لمحے میں موجود ہیں آسی گریز پا لمحے میں ہماری گریزان اخلاق قدرؤں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس لمحے میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہم مختار مطلق ہیں۔ اس وقت جو کچھ بھی ہم کریں وہی ہمارا اخلاق ہے۔ گویا ہم لمحہ بہ لمحہ اپنی اخلاقی قدرؤں کی تخلیق کرتے رہتے ہیں۔ ازلی وابدی قدرؤں محض واہیں ہیں۔

زان پال سارتر ۱۹۰۵ع میں پیدا ہوا۔ ابھی وہ دودھ پینا بچہ تھا کہ اُس کا باپ فوت ہو گیا۔ اُس کے نانا نے بڑے لاڈ اور چاؤ سے اُس کی پرورش کی اُس کی غیر معمولی ذکاوت کے آثار بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگے تھے۔ وہ ایک دبلا، پتلا، بھینگتا، بیمار بچہ تھا لیکن جیسا کہ اُس کی خود نوشت سواعن "الفاظ" سے مفہوم ہوتا ہے بلا کا ذینہ تھا۔ کہتا ہے۔

"میری ماں کہتی ہے کہ میں دس ماہ بچہ تھا اور تنور میں زیادہ مدت تک پک کر دوسرے بیووں کی بہ نسبت زیادہ خستہ اور چمکیلا ہو گیا تھا۔"

اگر بہت چھوٹی عمر ہی میں ایسے مابعد الطبیعتی اور نفسیاتی مسائل ہر خور کرنے لگا جو اکثر بالغوں کو ساری عمر پر بیشان نہیں کرنے۔ مثلاً وہ گیارہ برس کا تھا جب اُس نے خدا کے وجود سے انکر کر دیا۔ یہ محض اتفاق ہی نہیں ہے کہ اسی سال اُس کی ماں نے دوبارہ ایک بعری الخنیث سے نکاح کر لیا تھا۔ سارتر چیزے ذکی الاحسان لڑکے کو اس نکاح سے اتنا ہیں شدید صدمہ ہوا۔ وہ کہتا ہے شیکسپیر کے مشہور العینہ کردار بیملٹ کو بوا تھا۔ یہ بات اُس کے لیے سویان روح سے کم نہ تھی۔

کہ ایک اجنبی آس کی ناں کی محبت میں برابر کا شرپک ہو گیا تھا اور اس کی بیاری مان ہر وقت اپنے لائلے بیچے کی ناز برداری کرنے کے بجائے اس تو وارد کی تالیف قلب میں لگی رہتی تھی۔ نمکن ہو سکتا ہے کہ اسی محرومی نے آس کے مذہبی عقاید کو بخوبی کیا ہو اور آسے عورت سے بھی منتفر کر دیا ہو۔

سارتر کو شروع ہی سے فلسفے میں گھرا شغف تھا۔ وہ بہ روایتی عقیدے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہ مسئلے میں ذاتی رائے رکھتا تھا۔ ۱۹۲۶ع میں آس نے فلسفے کی ڈگری لی۔ اس کے بعد دو سال تک آسے لازمی فوجی تربیت حاصل کرنا پڑی۔ کچھ عرصے تک وہ ایک قصبائی مدرسے میں پڑھاتا بھی رہا۔ اس زمانے میں وہ معنی و بصری' واپسون کا شکار تھا اور اس وہم میں مبتلا تھا۔ کہ ایک مچھلی آس کا پیچھا کرکے رہتی ہے۔ ایک رات اپنی روسی محبوبہ اولگا کے ساتھ شب کشت کرتے ہوئے آس نے محسوس کیا کہ ایک مچھلی آس کا تعاقب کر رہی ہے۔ بعد میں یہ بات آس نے اپنی ذوست سموں دی بوواٹر کو بھی بتائی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو سارتر کو فوجی خدمات کے لیے طلب کر لیا گیا۔ جنگ کے پہلے ہی برس وہ جرمنز کے ہاتھ قید ہو گیا۔ ایک برس کی نظر بندی کے بعد آسے طبی وجہو کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ ۱۹۳۰ع میں فرانسیسیوں کو شکست فاش ہوئی اور فرانس پر جرمنوں کا تسلط ہو گیا۔ ان ایام میں جیالے فرانسیسیوں نے فاتحین کے خلاف تحریک مقاومت شروع کی جس میں سارتر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جرمنوں کے استبداد اور تسلط سے سارتر نے جو عذاب ناک تعلیمی محسوس کی اور انفرادی حیثیت سے آس نے مقاومت کا جو بیڑا آٹھا یا آسے عمومی حیثیت دے کر ہی آس نے اپنا فلسفہ موجودیت مرتب کیا ہے۔ چونکہ افراد ہی جرمنوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور بد رضا و رغبت اپنی عزیز جانی قربان کر رہے تھے اور انفرادی طور ہی پر ذاتی وابستگی سے انہیں اپنی راہ عمل کا انتخاب کرنا پڑتا تھا اس لیے موضوعیت اور فردیت فلسفہ موجودیت کے اساسی تصورات قرار پائے۔ مقاومت کے دوران سارتر آزادی کے ایک نئے مفہوم سے آشنا ہوا۔ "جمہوریہ" سکوت" میں آس نے اپنے تجربے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے۔

"ہم کبھی بھی اتنے آزاد نہیں تھے جتنا کہ جرمنوں کے تسلط کے دوران میں تھے۔ پہیں تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ پہیں بات کرنے کا حق بھی میسر نہیں تھا۔ بہ روز ہماری توبین کی جاتی تھی اور ہمیں یہ سب کچھ چھپ چاپ سہنا پڑتا تھا۔ ہمارے گروہ کے گروہ مزدوری بہودیت یا سیاسی قید کے نام پر جلا وطن کر دیے گئے۔ انتہاروں، اخباروں کے اعلانات میں سنتا کے پردازے بہاری جو ہے رنگ اور کھناؤنی تصویر دکھانی جاتی تھی۔ ہمارے ستم گرے بہ توقع رکھتے تھے کہ ہم آسے قبول کر لیں۔ ہمیں وجہ ہے کہ

ان حالات میں ہم آزاد تھے۔ ہمارے افکار میں ناتسی زبر مراجعت کر چکا تھا اس لیے ہم اپنے صحیح خیال ہی کو اپنی فتح مندی سے تعبیر کرتے تھے۔ طاقت ور پولیس بھی زبان بندی پر مجبور کر کر توہی۔ اس لیے ہزاری زبانوں سے نکلا ہوا ہر لفظ اصولوں کے اعلان کا درجہ رکھتا تھا۔ ہمارا ہر وقت شکر کھویلا جاتا تھا اس لیے ہمارا ہر اشارہ منجیدہ ذمے دارانہ وابستگی سے بہرہ ور تھا۔ ان صبر آزم حادثات ہی نے ہمارے لیے یہ ممکن بنا دیا کہ ہم اس پر جوش اور محل قسم کی موجودگی سے دو چار ہوں جو انسان کا مقدر بن چکی ہے۔

جلاؤطنی، قید اور خاص طور پر موت جس سے ہم اپنے پر مسرت ایام میں خوف زدہ رہتے تھے ہمارے لیے ایسے غربات کی صورت اختیار کر گئی جو عادتاً اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہم نے مان لیا کہ وہ ناگزیر حادثات نہیں ہیں اور نہ متواتر خطرات ہیں لیکن ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم انہیں بطور انہی مقدار کے قبول کر لیں اور انہیں اپنی انسانی حقیقت کا گمبھیر مبدأ تصور کریں۔ ہر لمحے بخیر پور مفہوم میں ہمیں اس چھوٹے سے فترے کا احساس ہوتا رہا کہ ”انسان فانی ہے“ اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی سے متعلق جو انتخاب بھی کیا وہ حقیقی تھا۔ کیونکہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا گیا تھا اور کچھ اس طرح کا تھا کہ ”پیسی میں جانا منظور ہے لیکن---“ جہاں میں آن لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو چیدہ و ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے چار سال تک دن رات کے ہر لمحے میں کہا ”نہیں!“ دشمن کے ظلم و تشدد نے ان غیر معمولی حالات میں ہمیں ایسے سوالات پوچھنے پر مجبور کر دیا جو آدمی کو عام حالات میں نہیں سوچتا کرتے۔ ہم میں سے وہ تمام لوگ جو مقاومت کی تفصیل جانتے تھے تشویش کی حالت میں اپنے آپ سے ہوچھتے تھے ”آنہوں نے مجھے جسمی اذیت دی تو کیا میں چہ رہ سکوں کا۔“ اس طرح آزادی کا بنیادی سوال آٹھایا گیا اور ہم آس کھرے علم سے ہڑہ ور ہوئے جو کہ کسی آدمی کو اپنی ذات سے متعلق ارزاق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کا راز نہ ”اللہ الجہن“ میں ہے نہ کہتری کی الجہن میں۔ یہ اس کی اپنی آزادی کی حدود ہیں۔ اس کی موت اور جسمی اذیت کا سامنا کرنے کی اہلیت۔ وہ لوگ جو زبر زمین کام کر رہے تھے ان کی کشمکش کے احوال نے ہمیں ایک نئی قسم کا مجرمہ عطا کیا۔ وہ فوجیوں کی طرح کھلماں کھلا نہیں لڑتے تھے اور ہمیشہ تنهائی سے دو چار رہتے تھے۔

تنهائی ہی کے عالم میں آن کا پیچھا کر کے آنہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہ بسی اور کس مدرسی کے عالم میں انہوں نے جسمی اذیت کی کڑیاں جھوپیں

تن تنہا اور بہنہ، ظالموں کے سامنے دکھ آئھا جب کہ کوئی بھی بہت افزائی کرنے والا موجود نہیں تھا۔ لیکن اپنی تنہائی کی کھرائیوں میں وہ آن لوگوں کے لیے سینہ سپر تھے جو مقاومت میں ان کے ساتھی تھے۔ تنہائی کے عالم میں کامل ذمہ داری۔ کیا بھی آزادی کی تعریف نہیں؟“

جن خاص حالات کا سارتر نے ذکر کیا ہے آن میں بے شک آزادی کی ہی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن کیا یہ ایسی تعریف ہے جو ہر نوع کے حالات میں سچی ہو سکتی ہے؟ ہائی منے مان نے اس پر تبصرہ کرنے ہوئے کہا ہے کہ سارتر جس تجربے کا یہاں ذکر کرتا ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے کہ ایک سیاسی گروہ کا تجربہ ہے۔ اخلاقیاتی تجربہ ہے کہ اس میں اخلاق انتخاب مشمول ہے۔ اس پہلو سے مابعد الطبعیاتی بھی ہے کہ بد ایک خاص صورت احوال میں فرد کا تجربہ ہے جو تنہائی کے عالم میں اپنی جماعت سے اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے جس کے سامنے وہ جواب دے ہے۔ آزادی کے تجربے کے طور وہ بیجا طور پر آزادی کے دو پہلوؤں پر زور دیتا ہے۔ منفی طور پر ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کی سکت اور مثبت طور پر انتخاب کی ذمہ داری۔ البتہ یہاں ایک غیر معمولی شدید نوع کی صورت حالات کو غلط طور پر عمومی رنگ دے دیا گیا ہے چنانچہ سارتر نے آزادی کی جو تعریف مندرجہ بالا اقتباس کے اوآخر میں کی ہے وہ مقاومت کے دوران میں تو درست ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانی احوال و ظروف میں بھی سچی ہو سکے۔ آزادی کا یہ تصور بڑی حد تک منفی ہے یعنی مقاومت کے دوران اپنے ستم کر کے سامنے ”نہیں“ کہنے پر ہی مقاومت کرنے والوں کو اپنی آزادی کا احساس ہو سکتا ہے۔ آزادی کے اس منفی تصور نے سارتر کے سارے نظام فکر کو منفی رنگ دے دیا ہے۔ اسی بنا پر سارتر کو منقبت کا فلسفی بھی کہا گیا ہے۔

۱۹۴۸ع میں سارتر نے درس و تدریس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور نخلیقی کام میں منہمک ہو گیا۔ آسے شروع ہی سے بورڈوا سے نفرت تھی اور اسی بنا پر وہ اشتالیوں کی چم توائی کا دم بھرتا رہا لیکن نظریاتی اختلاف کے باعث ۱۹۴۹ع میں آسے اپنی علیحدہ جماعت قائم کی جس کا نام اس نے ”جمهوری انقلابی جماعت“ رکھا۔ اس جماعت کو فروغ نہ ہو سکا اور آس نے ہر اشتالیت کی پر جوش حیات کرنا شروع کیا۔ آج کل وہ روس، چین، سینیا اور دوسرے اشتالی ممالک کی تعریف میں رطب اللسان ہے اور سرمایہ دار مغرب اور اصلاح متعدد امریکہ کی مذمت میں پیش پیش ہے۔ جب اصلاح متعدد امریکہ کی سازش سے کیوبا پر حملہ ہوا تو سارتر نے اصلاح متعدد امریکہ کے خلاف تلمی مخاذ کھوئی دیا۔ اسی طرح اس نے شدید مخالفت کے باوجود الجزائر کے حریت پسندوں کی دینبرانہ حیات کی جس پر اس کے مکان کو ہم سے آزادی کی کوشش بھی کی گئی۔ وہ وہ بت نام کے حریت پسندوں کی حیات میں خاصی سرگرمی سے کام کر رہا ہے۔ آسے ادبیات کا نوبل انعام پیش کیا گیا تو اس نے پہ کہہ کر آسے نہ کرا دیا۔

"میں زان پال سارتر کے بجائے یہ دستخط کرنا پسند نہیں کرتا" زان پال سارتر نوبل انعام کا بانے والا۔

سارتر کی زندگی بڑی سادگی میں گزر رہی ہے۔ اسے لڑکپن سے پڑھنے لکھنے کا جنون رہا ہے غالباً اسی لیے اس نے اپنی خود نوشت سوانح عمری کا نام "الفاظ" رکھا ہے۔ الفاظ ہی اس کا اور اُنہا بجهوں پیں۔ اس کا محبوب مشغله ہے کہ وہ برس کے کسی ہوٹل کے کسی گوشے میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لینے ہوئے اپنے ناولوں۔ تئیلوں اور فلسفیانہ کتابوں کے لیے اشارات قلم بند کرتا رہتا ہے۔ اس کی تمثیلیں دنیا ہر کے شہروں میں کھیلی جاتی ہیں اور لوگ جوک در جوک آنہیں دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے قلم سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو عقیدت سے پڑھا جاتا ہے۔ سارتر نے مصر، یونان، اطالیہ، روس اور اضلاع متعددہ امریکہ، کی سیاحت بھی کی ہے۔ آج سے تیس چالیس برس پہلے اس نے اپنی ایک ہم جماعت اور دوست سموں دی بوائز سے بد معاہدہ کیا تھا کہ وہ بغیر نکاح کرے میان یوی کی طرح زندگی کرائیں گے۔ وہ اس معاہدے پر قائم ہے اس معاہدے میں طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے شاید اسی لیے یہ تعاق مسکوحہ رشتے سے زیادہ پائدار ثابت ہوا ہے۔ سموں خود بھی ایک بلند پایہ، ابل قلم ہے۔ وہ سارتر کی "سلحدانہ موجودیت" کی پر جوش حامل ہے۔ اس نے اپنی مشہور کتاب "دوسری جنس" میں عورت کی نفسیات سے جو بحث کی ہے اس پر سارتر کے انکار کی چھاپ صاف دکھانی دیتی ہے۔ دوسری جنگ کے عظم کے خاتمے پر سارتر اور کاسیو نے فلسفہ موجودیت کا رخ خلائق فن و ادب کی طرف موڑ دیا۔ سارتر کا عقیدہ تھا کہ ادب و فنی خلائق ہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ دوبارہ فلسفے سے رجوع لا رہا ہے۔ کبھی کبھی جدید دور کے نوجوانوں کو دیکھ کر آئے انہے "خوب شہر" بونے کا احسان ستانے لکھتا ہے لیکن وہ جدید نسل سے مایوس نہیں ہے۔ کہتا ہے۔

"مجھے اپنی اور سموں دی بیواؤڑی نسل اور موجودہ نسل میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم آج کل کے یعنی سالہ نوجوان سے مختلف تھے۔ کمزور تھے۔ قوت فیصلہ سے محروم۔ نرم خوار بے خبر تھے۔ آج کل کے نوجوان ہماری بہ نسبت زندگی کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ مستعد اور تیار ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ صاف گو ہیں اور ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں تھیں۔"

سارتر بڑا جامع حیثیات ہے۔ ایک نامور فلسفی ہونے کے علاوہ وہ ایک بلند پایہ تمثیل نگار۔ ناول نویس۔ نقاد اور سیاسی مُبصر بھی ہے۔ اس کے فلسفے اور ادب میں گھبرا تعلق ہے اور اس کی تئیلوں اور ناولوں میں جا بجا اس کے فلسفیانہ انکاری جھلکیاں دکھانی ہیں۔ ذیل میں ہم اس کی بعض معروف تصانیف کا ذکر کر کریں گے۔

سارتر کا بہلا ناول "ناسیا" ۱۹۳۸ع میں شائع ہوا تھا۔ انگریزی میں اس کا

ترجمہ انثوں روکونٹن کا روزنامچہ کے عنوان سے کھا گیا۔ اس ناول کا مرکزی کردار روکونٹن ایک اپل قلم ہے جو دنیا کی لغویت میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں چاروں طرف سے جن اشیاء اور اشخاص میں گھرا ہوں وہ سراسر لغو ہیں۔ ایک نگارخانے میں وہ بورڑوا چہروں کا مشاپدہ کرتا ہے تو لغویت کا یہ احساس اور بھی گھرا ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس لغویت میں معنی کیسے پیدا کیا جائے آخر وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تخلیق کرے مثلاً ایک ناول لکھئے۔ اس تخلیق سے وہ مکلف ہو جائے گا جس کا مطلب وابستگی ہوگی۔ یہی وابستگی آس کی ذاتی نجات کا باعث بن جائے گی۔ ایک دن آس کا گزر ایک باغ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ ایک درخت کی جڑ میں گھورتا ہے تو یہ احساس دوبارہ آس سے سنا نہ لگتا ہے کہ تمام ہے جان اور ذی حیات آس کی اپنی ذات سمیت محض لغو اور یہ مصرف ہیں۔ اس سے وہ امتلا محسوم کرتا ہے۔ "لغویت نہ آواز تھی اور نہ خیال جو میرے ذہن میں آبھرتا۔ یہ ایک لمبا چوبی مردہ سانپ تھا جو میرے پاؤں میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ سانپ یا پنجد یا جڑ۔ بات ایک ہی تھی۔ میں جان گیا کہ مجھے اپنی موجودگی کا اپنے امتلا کا سراغ اپنی ہی زندگی میں مل گیا تھا اور اس وقت سے جو بات بھی میں سمجھ پایا ہوں آس کی جڑ ہی لغویت ہے۔

ظاہر ہے کہ روکونٹن کے پردے میں خود سارتر ہی کی ذات دکھانی دیتی ہے اور وہ فن و ادب کے وسائل سے لغویت میں معنی پیدا کر کے اپنی ذہنی و قلبی نجات کا طالب ہے۔ یاد رہے کہ لغویت کا یہ احساس فرانسیسی ملحدانہ موجودیت کی ایک نہیں بیان خصوصیت ہے۔ کہ یہ میں فیس کے اسطورہ میں کھتا ہے۔

"اوراق آئندہ میں اس لغویت کا ذکر آئے گا جو بھاری دنیا پر مسلط ہے۔" "آزادی کی رایں" کو سارتر کا شاپکار سمجھا جاتا ہے یہ ناول کئی جلدیوں میں مختلف عنوانات کے تحت شائع ہوا ہے۔ اس کا مرکزی کردار پروفیسر میتیو ہے جس کی داشتہ مارسیل حاملہ ہو گئی ہے۔ میتیو استطاعت حمل کے لیے روپہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ روپہ اسے اپنے ایک مداد بورس سے مل جاتا ہے جو یہ رقم اپنی داشتہ سے چڑھتا ہے۔ میتیو کا ایک دوست ڈینیل جو مددوی ہے مارسیل سے شادی کر کے اس کے حرامی بھی کا باب بننے کی پیشکش کرتا ہے۔ ناول کا ایک اور کردار برونٹ نامی ایک کمیونٹسٹ ہے جو طبقاً انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے آخر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ قیدیوں کی زیوں حالی کا سارتر نے استادانہ جاپک دستی سے نقشہ کھینچا ہے اور ان کی مفلومیت کو اجاگر کیا ہے۔ ناول کا آغاز اس زمانے سے ہوتا ہے جب یورپ پر ناتسی حملے کا خوف مسلط تھا۔ اس میں جنگ اور مقاومت کے حالات بھی بیان کئے ہیں۔ آخر مستو جمن

سپاہیوں کے خلاف لڑنے والے ایک دستے میں شامل ہو جاتا ہے اور لڑتا ہوا مارا جاتا ہے۔

سارتر کے مختصر افسانوں میں 'دبور' اس کی بہترین کہانی ہے۔ اس کا موضوع بھی تحریک مقاومت سے لیا گیا ہے۔ جو من فوجی فرانسیسی عباد وطن کے ایک قائد کی جستجو میں سرگردان ہیں۔ اس دستے کے کچھ افراد پکڑے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قیدی سے کہا جاتا ہے کہ تم انہی قائد کی پناہ گاہ کا پہنہ بتا دو ورنہ صبح سویرے تکھیں گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ اس رات اس شخص کے ذہن و قلب پر عجیب عالم گزر جاتے ہیں جن کی تفصیل نکاری میں سارتر کا فن عروج پر دکھانی دیتا ہے۔ صبح سویرے جب اس قیدی کو جو من افسر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ جھوٹ موث کہہ دیتا ہے کہ ہمارا قائد فلاں جگہ چھہا یہیش ہے۔ سپاہیوں کی دوڑ جاتی ہے تو قائد واقعتاً اسی جگہ ملتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔

سارتر کی تکھیلوں میں تو اگرث "فلانٹ اور آلتونا" خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تو اگرث میں تین برائیوں بزدلی، عورتوں کی ہم جنسی محبت اور بعد گشی کی طرف توجہ دلفی گئی ہے اور اس ربط و تعلق کو موضوع بنایا گیا ہے جو ایک شخص اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں سے پیدا کرتا ہے۔ اس کے تین کرداروں پر جو دوزخ میں مقید ہیں یہ اکٹھاف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اور ان کی صحبت ہی اصل دوزخ ہے۔ فلسفیانہ پہلو سے اس میں سارتر نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ایک شخص کسی بھی دوسرے شخص سے ذہنی و قلبی رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں "موجودیاتی موضوع" لازماً تنهائی کا شکار ہو جاتا ہے اور تنهائی ہی کی حالت میں اسے اپنے لیے راہ عمل منتخب کرنا پڑتے ہے اور پھر اس عمل کے نتائج کو پوری ذمہ داری کے ساتھ قبول کرنا پڑتا ہے۔ فلانٹ کا مرکزی خیال یہی اس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تمثیل ۱۹۲۳ع میں کھیلی گئی تھی جب فرانس پر جرمتوں کا تسلط تھا۔ اس میں ایک قدیم یونانی موضوع کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ آگامینوں اس فوج کا سالار تھا جسے ہیلن کی بازیابی کے لیے ٹرانٹی یہیجا گیا تھا۔ آگامینوں کی عدم موجودگی میں اس کی ملکہ کلیم نسٹرا نے ایک شخص ایجستھوس سے تعلق استوار کر لیا۔ جب آگامینوں جنگ سے لوٹا تو دونوں نے سازش کر کے اسے قتل کر دیا اور ایجستھوس بادشاہ بن یہیش۔ آگامینوں کی یہی الیکٹرا کو باب کے قتل کا بڑا غم تھا اور وہ ماں سے پدر لیتے کا منصوبہ بنانے لگی۔ سارتر نے اس قصے کو موجودیاتی رنگ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آگامینوں کے قتل عام سے عام سہری اجتماعی احساس جرم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آگامینوں کا لڑکا اور شیش آبا اور اس نے اپنی ماں اور اس کے عاشق دونوں کو قتل کر دیا۔ خداوند خدا جبوپیر نمودار ہوا۔ الیکٹرا خوف اور پشیمانی سے کانپنے لگی اور خداوند کے قدموں

میں گر کر عفو کی طالب ہوئی - سارتر کی الکٹرا یونانی قصے کی بے باک اور نذر لڑکی نہیں ہے - اور سٹیشن نے دلیرانہ اپنی ذمے داری تسلیم کر لی اور سارتر کے مفہوم میں کامل آزادی سے ہم کنار ہو گیا ۔

جو پیٹر : "میں نے تمہیں آزادی اس لیے دی تھی کہ تم میری عبادت کرو" اور سٹیشن : "ایسا ہی بوگا لیکن یہ آزادی تیرے ہی خلاف ہو گئی"

جب اور سٹیشن نے کہا کہ میں نے قتل کر کے کوئی برا کام نہیں کیا تو جیو پیٹر خنا بو گیا ۔

جیو پیٹر : "کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا؟"

اور سٹیشن : "یہ ٹھیک ہے لیکن تو نے مجھے ایک مرد آزاد پیدا کیا تھا ۔ خلق کے بعد میں تیرا بندہ نہ رہا" پھر کہا "میں خود ہوں اپنی آزادی"

اس تئیں میں رمزیاتی پیرائی میں فرانسیسیوں کو جرمن فاتحین کے خلاف بغاوت کرنے کی دعوت دی گئی تھی ۔ اس کے بین السطور سارتر نے اپنے ہم وطنوں کو اس بات کا احساس دلا یا کہ جرمنوں سے شکست کھا کر وہ اجتماعی احساس جرم میں مبتلا ہو گئے یہ جس سے نجات ہانے کے لیے جرمنوں کو قتل کرنا ایک مستحسن اقدام ہے ۔ اس تئیں کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ جابر ظالم کو جان سے مارنا کار خیر ہے ۔

"آلتونا" میں سارتر نے جرم کی الجھن کا تجزیہ کیا ہے ۔ فرانز فان گرلاخ ایک جرمن فوجی افسر تھا جس نے دشمن کے بے شمار جنگی قیدیوں کو عذاب دے دے کر مارا تھا ۔ اسے اپنی قوم کی شکست کا سخت صدمہ تھا ۔ جنگ کے خاتمے ہر وہ اپنے کھر میں زاویہ نشیں ہو گیا اور بیرونی دنیا سے تمام روابط منقطع کر لیے ۔ فرانز ایک طرف جرمنی کی شکست سے آزردہ تھا دوسری طرف اپنے گھنائونے جرم کی یاد اس کے لیے سوبان روح بن گئی ۔ وہ اب بھی ناتسی فوجی افسر کی وردی پہنتا تھا ۔ اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر ہتلر کی تصویر آویزان کر رکھی تھی ۔ حقائق کی دنیا سے گریز کرنے کے لیے اس نے منشیات کا استعمال شروع کیا ۔ اس کا محبوب مشتملہ یہ تھا کہ وہ ٹیپ کی مشین میں تقریر کیا کرتا تھا تاکہ آئنے والی نسلوں کو معلوم بوجانے کہ جرمنی کی شکست میں قصور جرمنوں کا نہیں تھا بلکہ تاریخ کا قصور تھا ۔ اس نے غیلات کی دنیا بسار کھی تھی ۔ تیرہ برس کی عزالت گزینی میں اس کی ہیں لیتی اس کی خبر گیری کوئی رہی جس کے ساتھ اس کا معاشتہ چل نکلا ۔ فرانز کا باب فان گرلاخ ایک لکھ ہی صنعت کار تھا جو اپنے بیٹے کی صرح جرم کی الجھن میں سبلا تھا ۔ اسے یہ احساس اذیت دے رہا تھا کہ ہبودیوں کا کمیب جہاں انہیں سے دریغہ قتل کیا گیا تھا اسی کی اراضی پر بنایا گیا تھا ۔ بوڑھا فان گرلاخ اپنی ساری جانشاد فرانز کو ورثے میں چھوڑنا چاہتا تھا کیوں کہ اس کی زانے اپنے جھوٹے بیٹے ورنر کے متعلق اچھی نہیں تھی ۔ فرانز کو کوشہ عزت سے نکلنے کے لیے اس نے ایک حال

چل۔ اس نے ورنر کی حسین بیوی پوختا کو فرانز کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے انہی کمرے سے باہر نکلنے پر آمادہ کرے۔ پوختا فرانز سے ملی تو فرانز نے اتنے سالوں میں اپنی ذات کے گرد جو حصار تعمیر کر رکھا تھا وہ شکست و ریخت پو کیا اور وہ حقائق کی دنیا میں لوٹ آنے پر مجبور ہو گیا۔ پوختا فرانز کے مردانہ حسن پر فریفتہ ہو گئی اور وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ شادی سے پہلے پوختا ایک مقبول ابکثرس رہ چک تھی اور اپنی موجودہ زندگی سے اور شوہر سے سخت بیزار تھی۔ فرانز کے عشق میں اسے تلخ حقائق کی دنیا سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ اس وقت جب فرانز حقائق کی دنیا کی طرف لوٹ رہا تھا پوختا اس سے گریز کر رہی تھی۔ اس محبت سے فرانز دوبارہ اپنی زندگی میں دلچسپی محسوس کرنے لگا۔ لیکن جب لینی کی زبانی پوختا کو فرانز کے جرائم اور مظالم کا علم ہوا تو وہ فرانز سے منتفر ہو گئی۔ اس طرح فرانز کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا آخر فرانز اور اس کے باپ دونوں نے خود کشی کر کے احساس جرم کی تلخیوں سے نجات حاصل کی۔

سارتر کی فلسفیانہ کتابوں میں "وجود و عدم" سب سے زیادہ ابھی ہے کہ اس میں سارتر نے اپنا فلسفہ بڑے مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ سارتر برلن کے دوران قیام میں بانی ڈاگر اور پرسل کے افکار سے متاثر ہوا تھا۔ اس کی مابعد الطبیعتیات پرسل کی ظواہر پسندی ہی پر بنی ہے۔ یعنی وہ اس سے بحث کرتا ہے جو ہے اس سے اعتتا ہوں کرتا جیسے ہوتا چاہیے۔ وہ پرسل کی طرح اپنی فلسفیانہ جستجو کو صرف ظواہر تک محدود رکھنا چاہتا ہے اور کائنات یا ہیگل کی طرح حقیقت نفس الامر کے چکر میں نہیں پڑتا۔ بقول سمعون دی بوواری ۱۹۳۴ع تک موجودیت پسندی کی ترکیب سے وہ واقف نہیں تھی۔ چنانچہ شروع شروع میں سارتر موجودیت پسند کھلانا پسند نہیں کرتا تھا البتہ جب سب لوگوں نے تواتر و کثرت سے اسے موجودیت پسند کہنا شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ابتداء میں سارتر ظواہر پسندی کے نظریہ شعور پر اپنے فلسفے کا نظریہ استوار کرنا چاہتا تھا جیسا کہ "وجود و عدم" کی ذیلی سرخی سے ظاہر ہے۔ بانی ڈاگر نے ڈیکارٹ کے اس مقولے "میں سوچتا ہوں اس اس لیے میں ہوں" کے متعلق کہا تھا کہ ڈیکارٹ نے یہ کہہ کر گزاری کو گھوڑے کے آگے جوٹ دیا ہے۔ کیوں کہ جب تک "میں ہوں" یا موجودی کا تعین نہ کر لیا جائے سوچنے کا ذکر لا حاصل ہے۔ سارتر نے بھی یہ اصول رد کر دیا۔ وہ پرسل کی پھروی میں کہتا ہے کہ تمام شے بر ارادی ہوتا ہے یعنی تمام شعور کسی نہ کسی سے سے وابستہ ہوتا ہے جس طرح آئندہ وہی سے رکھتا ہے جس کا عکس اس میں پڑتا ہے اسی طرح ان اشیاء سے الگ جن پر شعوری عمل ہوتا ہے شعور کا کوئی وجود نہیں ہے۔ "وجود و عدم" میں اسی مقدمے سے اس نے اپنے استدلال کے آغاز کیا ہے۔

سارتہ کہتا ہے کہ عدم وجود سے خارج میں نہیں ہے بلکہ اس کے انہی اندر میں
مخفی ہے۔ اس کے بظاہر میں موجود ہے جیسے ایک کیرا پھول کے اندر کنٹلی مارتے
بینہا ہوتا ہے۔ سارتہ مجرد وجود کو در خور اعتنا نہیں سمجھتا وہ اس کی در قسموں
سے بحث کرتا ہے۔ (۱) سور (۲) سے جس اور شعوری عمل پوتا ہے۔ سارتہ کہتا
ہے کہ شے کو چھووا جاسکتا ہے دیکھا جاسکتا ہے لیکن یہی بات ہم شعور کے بارے
میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ادراک بلا واسطہ نہ کن نہیں ہے اس کے باوصاف اس
وجود ہے۔ ادراک کرنے والی "میں" ہے لیکن اس مفہوم میں موجود نہیں ہے
جیسا کہ مثلاً ایک میز موجود ہے۔ ان دونوں کو جو شے ایک دوسرے سے جدا
کرتی ہے وہی 'عدم' ہے۔ اس سے سارتہ نے یہ تضاد آمیز نتیجہ اخذ کیا ہے کہ
"میں" وہ ہوں جو میں نہیں ہوں اور میں نہیں ہوں جو میں ہوں۔" سارتہ کہتا ہے
کہ انسان وہ نہیں ہے جو وہ ہے کیونکہ وہ حال میں موجود ہونے کے باعث ماضی
سے ماوراء ہو جاتا ہے اور انسان ہے جو وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے مستقبل
کے بالقوہ ممکنات یہیں جو کہ حال میں نہیں ہیں۔ اس طرح خالص موجودگی کالعدم ہو
جائے گی اور صرف ماضی اور مستقبل کے حوالی ہی سے اس میں معنی پیدا ہوگا۔
لہذا انسانی فطرت کالعدم ہے صرف انسانی صورت احوال موجود ہے لیکن دنیا میں
کوئی شے تو ہونا چاہیے جو عدم کو وجود میں قائم و بحال رکھنے کے قابل ہو۔
شعور ہی وہ شے ہے۔ اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ "انسان وہ وجود ہے جس کے
ساتھ عدم اس دنیا میں آیا ہے۔"

سارتہ کہتا ہے کہ انسان موجودگی ایک ایسی کائنات میں لغو اور ہے معنی ہے
جو آس سے قطعی ہے خبر ہے۔ انہی آپ کو معنویت عطا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ عدم سے کامل آزادی کا اقدام کیا جائے۔ چنانچہ انسان کی آزادی
اس کی ذات کے عدم ہی سے معرض وجود میں آئی ہے۔ آخری اور قطعی آزادی جسے
انسان سے چھینا نہیں جا سکتا "ند" کہنے کی آزادی ہے اور یہی سارتہ کے نظریہ
قدر و اختیار کا سنگ بنیاد ہے۔ آزادی کا یہ تصور ظاہراً منفی ہے اور "ند" کہنے
سے معرض وجود میں آتا ہے۔ سارتہ کہتا ہے کہ انسان کی آزادی یہ ہے
کہ وہ "ند" کہنے۔ اس کا مطلب یہ پوچھا کہ انسان ہی ایسا وجود ہے جس
میں عدم موجود ہے۔ سارتہ کے خیال میں عدم ہی 'وجود مطلق' ہے۔ یہ عدم
انسانی حقیقت ہے اور وہ منفیت ہے۔ اس طرح سارتہ کی مابعد الطبیعتیات میں منفی
رنگ پیدا ہوگا ہے۔

سارتہ نے عدم کا نظریہ ہانی ڈگر سے اخذ کیا ہے ایکن اسے من و عن قبول نہیں کیا
بلکہ بڑی حد تک اس میں ترمیم کی ہے۔ ہانی ڈگر نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ، منفیت
کا مبدأ کیا ہے؟ اور جواب دیا تھا "عدم"۔ سارتہ نے اس استفسار کو آئے بڑھایا

اور پوچھا کہ عدم کس سے بیدا ہوتا ہے۔ وہ ہائی ڈگر کے ماؤرائی عدم کو اس وینا میں لانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ماؤرائی عدم دنیا والوں کے بطون میں سراحت کر کیا ہے۔ ہائی ڈگر کے برعکس وہ عدم کو معروض سے موضوع میں منتقل کر دینا ہے اس پر شعور کا پیوند لگا دینا ہے اور کہتا ہے کہ شعور ہی اس دنیا میں عدم اور منفیت لایا ہے۔ ہائی ڈگر کہتا ہے کہ دنیا عدم سے وجود میں آئی ہے اور انسان اس عالم میں دہشت اور اذیت سے دوچار ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ عدم انسان کے شعور ذات سے متفرع ہوا ہے۔ اس طرح وہ ہائی ڈگر کے ماؤرائی عدم کی بجائے اتنے ہی عدم فرض کر لینا ہے جتنے کہ باشعور انسان موجود ہیں۔ ہائی ڈگر کے فلسفے کی اسامن "وجود" ہے جس سے سارتر نے صرف نظر کر لیا ہے۔ سارتر کے یہاں وجود براۓ خود (شعور) اور وجود بذات خود (شیر) تو ضرور ہیں لیکن مجرد وجود نہیں ہے۔ وجود براۓ خود اور وجود بذات خود کیسے باہم مل سکتے ہیں جب تک کہ دونوں وجود میں مذغم نہ ہوں اس سوال کا جواب سارتر سے نہیں بن پڑا۔ وجود براۓ خود اور وجود بذات خود کی دو فیکاراٹ ہی کی دونی کی بدلتی ہوئی صورت ہے یعنی موضوع اور معروض کی دو فی

سارتر کی امن منفی مابعد الطبیعتیات اور کوئی نتیجے سے جو اخلاقیات متفرع ہوئی ہے وہ بھی قدرتاً منفی ہے۔ اس کا کامل قدر و اختیار اخلاقیات میں ہے راه روی کی صورت اختیار کر گیا ہے اور آزادی صرف "نہ" کہنے تک محدود ہو گئی ہے۔ اس آزادی میں ایات کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ بر انسان اپنی اخلاقی قدریں خود تخلیق کرتا ہے اس لیے وہ اپنے اعمال میں مطلق العنان ہے اور جس راہ عمل کو چاہے بلا روک ٹوک انتخاب کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سارتر خارجی عالم کو گھناؤنا اور غلظ سمجھتا ہے جو انسانی آزادی کو سلب کرنے کے درپی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیک جانے والی غلاظت انسانی آزادی کو اسی طرح سلب کر لیتی ہے جیسے عورت کا نرم اور گداز بدن مرد سے آزادی عمل چھین لینا ہے۔ یہ کہہ کر آس نے عورت کے حسن و جمال کو غلاظت میں ملقوف کر دیا ہے لیکن اس کا ذکر آگئے آئے گا۔ یہ خیال کہ عدم وجود میں سراحت کر گیا ہے منفی، سلبی اور قتوطی ہے۔ عدم اور اس پر مبنی منفیت نے سارتر کی اخلاقیات کو کجری میں بدل دیا ہے۔ سارتر کا یہ کہنا انتہائی قتوطیت ہے کہ

"زندگی چھکنے والی غلاظت ہے جو ہتھے ہتھے جم کنی ہے"۔

سارتر نے اپنی تالیف Existentialism as Humanism میں Humanism کا موجودیاتی تصور پیش کیا ہے۔ وہ اس ترکیب کو انسان دوستی کے مفہوم میں استعمال نہیں کرتا جیسا کہ مثلاً اس کا ہم وطن کوئت کرتا ہے۔ سارتر کہتا ہے میرے معتبرین کہتے ہیں کہ 'نامیا' میں انسان دوستی کی تضییک کرنے کے بعد میں دوبارہ اسی سے رجوع لا رہا ہوں۔ سارتر کے خیال میں Humanism کے دو مفہوم ہیں ایک ہے کہ انسان مقصود بالذات ہے اور سب سے بڑی قدر بھی خود

وہی ہے۔ اس مفہوم کو وہ غلط قرار دھتا ہے اور کہتا ہے کہ پہیں اس انسان دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ ”میرا عقیدہ یہ ہے کہ سوانی انسان کائنات کے اور کوئی کائنات نہیں ہے اور بھی ہمارا Humanism ہے جس سے ہم انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ سوانی انسان کے کوئی اس کے لیے قانون نہیں بنا سکتا۔ ہم نے مذہب کو کہو دیا ہے لیکن Humanism کو پا لیا ہے۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کو آزاد کرایا جائے آسے قادر مطلق سمجھا جائے۔ ہم نے خدا کے وجود سے انکار کر دیا ہے تاکہ انسان خود انسان کے لیے وجود مطلق بن جائے۔ ”سارتر کے نئے مفہوم کی رو سے آس کے Humanism کا ترجمہ ”انسان پسندی“ ہوگا انسان دوستی نہیں ہوگا۔

”وجود و عدم“ کے بیرونیہ بیان میں ژولیدگی پائی جاتی ہے۔ سارتر کی سلطنتی موشگافیوں اور جدلیاں نکتہ آفرینیوں نے اس کے مطالب میں الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ آس کے فلسفے کے اصل اصول کو سمجھنے کے لیے آس کی تالیف ”موجودیت پسندی“ زیادہ مقید مطلب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا انداز بیان صاف اور سلیس ہے۔ اور فلسفے کے متبدی یہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

ڈاکٹر مارس فریڈمین نے کہا تھا کہ موجودیت فلسفہ نہیں ہے بلکہ رنگ مزاج (mood) ہے۔ فرینک کاہلر نے اس کی تشریع کرتے ہوئے موجودیت کے بنیادی افکار کی جو جامع اور پرمغز تخلیص پیش کی تھی وہ قارئین کے سہولت فہم کے لیے درج ذیل ہے۔

”انسان ایک ہے معنی کائنات میں آتا ہے اور اپنے ہراسار شعور کے طفیل جسے سارتر نے عدم سے تعبیر کیا ہے اس کائنات کو رہنے کے قابل بنا لیتا ہے۔ اس کے موجودیاتی انتخاب ہی سے اس دنیا میں معنی اور قدروں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ انتخاب ہر فرد کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنی ذات دنیا میں رہتا ہے یا بالفاظ سارتر اپنی انسانی صورت احوال کی تخلیق کرتا ہے۔ با اوقات موجودیاتی انتخاب تحت الشعور میں ہنفی ہوتا ہے لیکن صحیح معنوں میں زندہ رہنے کے لیے فرد کا موجودیاتی موضوع بونا ضروری ہے جو تن تھا اپنی صورت احوال کی ذمے داری کو قبول کر لے۔ انتخاب کی یہ خوفناک آزادی موجودیاتی“ موضوع کو خوف زدہ کر دیتی ہے کیوں کہ جو شخص اپنی دنیا آپ منتخب کرنے کی ضرورت محسوس کرے کا وہ پاس اور بے معنوں کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کن قدر وہ کا انتخاب کرے؟ فلسفے کے نظام؟ مذہبی عقاید؟ بورڈوا اخلاق؟ یہ سب با اوقات اپنی ذمی آزادی سے صرف نظر درنے کے ہانے بن جائے ہیں اور فرد کی اپنی قیروں کے انتخاب میں مانع ہوتے ہیں۔ جن کا ترجمہ بالآخر

منافقت' ہوتا ہے۔ جو شخص منافقت کی زندگی گزارتا ہے وہ غیر حقیق' موجودگی رکھتا ہے جس سے بذری اور کوفی شے نہیں ہے۔ اس حالت زبوب سے چہنکارا ہانا سارتر کے خیال میں وابستگی' ہی سے ممکن ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان احوال میں مشتب کردار ادا کرنے کے لیے آدمی بوری آزادی اور استقلال سے انہی آپ کو مکلف' کرے۔ اس سے دوسروں کی آزادی سے آکاہی ہوگی اور یہی بات آخر الامر انسانی موجودگی کو شکل و صورت عطا کرے گی اور نوع انسان کے لیے مشترک و منظم مقصد پیش کرے گی۔ لیکن اس کا مدعایا کیا ہوگا؟ اس بات کا ابھی سارتر نے فیصلہ نہیں کیا۔ جب اس نے "موجودیت بعیشت انسان پسندی کے" (۱۹۳۶ع) میں وابستگی کے ذریعے بخات کا خیال پیش کیا تو اکثر لوگوں نے کہا کہ اس کے قنوطی فلسفے میں رجائيت کا عنصر پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرے مالک کے انسان دوستوں نے جو خدا کے بجائے انسان پر عقیدہ رکھتے ہیں اس رجحان کا خیر مقدم کیا سارتر نے یہ کہہ کر انہیں مایوس کر دیا کہ خدا مر چکا ہے لیکن انسان کو خدا کا بدل نہیں سمجھا جا سکتا۔ اُمّن نے مزید کہا کہ میں انہی سابقہ سلک سے اخراج نہیں کروں گا کہ انسان خدا بتتے کی تمنا رکھتا ہے۔ صرف مخرا الذکر مفہوم ہی میں وہ انسان پسند کھلانا پسند کرتا ہے۔ اس مفہوم میں موجودیت ایک فلسفہ نہیں ہے بلکہ رنگ مزاج ہے۔

کیرک گرد کے یہاں موجودیت رنگ مزاج ہی تھی۔ مذہبی رنگ مزاج۔ کیرک گرد نے کہا تھا کہ خدا ہر مخفی عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے نہ اُس کے وجود کے اثبات میں عقلياتی دلائل دینے سے مذہب کے تقاضی پورے ہوتے ہیں۔ عیسائیت کے احیاء کے لیے ضروری ہے کہ بیزادائیت فرد کے جذباتی واردی تجربے میں بعیشت ایک زندہ حری قوت کے موجود ہو۔ یعنی ڈگر اور اس کی پیروی میں سارتر نے فرد کے موضوعی تجربے پر ظواہر پسندی کا پیوند لکھا کر آسے لا ادریت اور العاد کا جام پہنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ موجودیاتی زاویدہ نظر کا آغاز کیرک گرد سے نہیں ہوا جیسا کہ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے بلکہ کائنٹ سے ہوا تھا جس نے موجودگی کی تشریح کرتے ہوئے ایک عام فہم مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے فرض کیجیے ایک شخص کہتا ہے "دس ڈالر موجود ہیں" ظاہر ہے کہ دس ڈالر کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوں گے یعنی آن کی موجودگی کو مانتا ہڑے گا۔ دس ڈالر کی موجودگی کو تسلیم کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا غیر ضروری ہو گا کہ یہ دس ڈالر آس کے پام ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ کہے کہ "میری جیب میں دس ڈالر موجود ہیں" تو صورت حال انسانی ہوگی۔ یعنی اس کی جیب میں دس ڈالر کی موجودگی "انسانی

موجود دیگر“ ہو گی کیوں کہ وہ ان دس ڈالروں کو نٹول سکتا ہے۔ آن سے تقویت قلب حاصل کر سکتا ہے۔ آن سے اپنی ضروریات کی چیزیں خرید سکتا ہے انہی کسی دوست کو قرض دے سکتا ہے۔ یعنی یہ کہنے سے کہ ”میری جیب میں دس ڈالر موجود ہیں“ دس ڈالروں کے ساتھ آمن کا شخصی انسان جذبات رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اسی تصور کی مذہبیات ترجمانی کرتے ہوئے کبرک گرد کہتا ہے کہ محض یہ کہہ دینا کہ خدا موجود ہے خدا کی موجودگی کا مبہم سائیات تو کر دیتا ہے لیکن جب خدا میرے قلب و روح میں بھیت ایک بزرگی قوت کے موجود ہو جو مجھے خیر کی طرف مائل کرے اور شر سے روکے تو یہ ”مسيحی موجودگی“ ہو گی۔

”موجودگی“ کی تشریع میں نالستائن کی ایک کہانی کی شال بھی دی جاتی ہے۔ اس کہانی کا کردار ایوان الج بستر مرگ پر پڑا موت کی بھیانک موجودگی سے زندگی میں پہلی بار روشنام ہوتا ہے۔ طالب علمی میں ایوان الج نے منطق قیاسی میں پڑھا تھا۔

”کمام انسان فانی ہیں۔“

کائنس انسان ہے۔

اس لیے کائنس فانی ہے۔“

یہ بڑھتے وقت آمن نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کائنس بھی آمن کی طرح کا ایک انسان تھا جو کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد مرن گیا۔ مرتے وقت خدا معلوم آمن کے کیا خیالات تھے اور کیا حسرتیں دل میں لیے کرو وہ دم توڑ رہا تھا۔ کائنس کے مرنے یا جینے سے آئے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی لیکن یہ حقیقت کہ ”میں قریب المرگ ہوں“ اور موت پر لمحے میرے سینے میں اپنے بے رحم پنچھے گاڑ رہی ہے بے حد اندوہ ناک اور تلخ ہے۔ گویا کائنس فانی ہے میں فنا اور موت کی صرف موجودگی ہے لیکن ”میں فانی ہوں“ میں ایوان کے لیے یہ مبہم سی موجودگی انسان شخصی موجودگی کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ایوان ڈاکٹر سے پوچھتا ہے۔

”کیا میرا مرض شدید ہے؟“

ڈاکٹر کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ایوان کے احساسات کیا ہیں۔ وہ تو محض یہ جانتا چاہتا ہے کہ ایوان کا مرض گرددوں کے ماؤف ہو جانے کا نتیجہ ہے یا اس کی تہ میں مزمن نزلہ ہے۔ مرض کی موجودگی ڈاکٹر کے لیے عرض موجودگی ہے لیکن ایوان کے لیے شخصی موجودگی ہے کہ وہ موت سے خوف زدہ ہے اور ڈاکٹر کے جواب میں آبد کی کرن کی جھلک دیکھنے کا متمنی ہے۔ یہی انسانی شخصی موجودگی جو فلسفہ موجودیت کا ادل موضوع ہے شعور ذات سے پیدا ہوئی ہے۔ ذات و حیات کا شعور ذہن انسانی میں قدرتوں کی خلیلیں کا باعث ہوتا ہے۔ جس شخص کو اس حقیقت کا شعور ہو جائے کہ آئے زندگی بطور فرصت مستعار کے ملی ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس فرصت کو کیسے گزارے۔ اسے احسن طریقے

سے گوارنے کے لیے کون سا نصب العین اپنانے اور اس کی ترجیح کے لیے کن قدرود کا انتخاب کرے۔ اس شعور سے زندگی کی مجرد موجودگی اس کے لیے سچی ذاتی موجودگی بن جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت اور فنا کے احساس کی تعلق کیرک گرد یا سارتر کی طرح آئے ذہنی عذاب، قلبی اذیت، "تشکک" یا سیت یا سنک میں مبتلا کر دے۔ یہ شعور ذات و حیات اس میں انسان دوستی، احسان، مردود، ایثار اور خود فراموشی کے جنبات بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو سکتی ہے کہ ذاتی دکھ سے بجات پانے کے لیے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ضروری ہے اور انسان دوسروں کو خوش کر کے ہی خوشی سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ یہ انسانی موجودگی کا مشتبہ پہلو ہے یعنی خوشی کی موجودگی اس کے لیے آسی وقت انسانی شخصی موجودگی بن سکتی ہے جب وہ دوسروں کو مسرت بھم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیرک گرد اور سارتر نے موجودگی کے صرف منی پہلو ہی سے اعتنا کیا ہے۔ کیرک گرد نے انسانی موجودگی میں سوروثی اور ماورائی دہشت کا شمول کر دیا جو بقول آس کے جناب آدم کے ارتکاب معصیت کے بعد بنی نوع انسان کا مقدار بن چکی ہے۔ ہائی ڈاگر اور سارتر نے دہشت کو ماواراء سے افراد کے دلوں میں منتقل کر کے ایک منہبی نظریے پر فلسفے کا رنگ چڑھا دیا۔

سارتر کی مابعد الطبیعتیات کا ایک اہم تصور یہ ہے کہ کائنات میں کسی قسم کا نظم و تناسب موجود نہیں ہے۔ اس میں جو توافق دکھائی دیتا ہے وہ خود انسان کے ذہن کا دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک موجودی کا نقطہ نظر ایک متكلم کے نقطہ نظر سے مختلف ہوتا ہے۔ متكلم عقلی دلائل سے آغاز کرتا ہے لیکن بالآخر عقل کو ہم پشت ڈال دیتا ہے۔ موجودیت پسند فطرت کو منتشر خیال کرتا ہے اور بعد میں اپنے ذہن کے پیدا کردہ ترتیب و تناسب کا کھوچ آس میں لکھتا ہے۔ سارتر اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ وہ خدا کے وجود کا منکر ہے اور اپنے فلسفے کو "ملحدانہ انسان پسندی" کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو انسان فاعل مختار نہیں رہتا۔ آس کے خیال میں یا تو انسان فاعل مختار ہے اور خدا کا محتاج نہیں ہے اور یا وہ خدا کا محتاج ہے اور مجبور ہے۔ وہ ہیلی شق کا قائل ہے۔ سارتر خدا کا اس لیے بھی قائل نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی ذی شعور بستی کو تسلیم نہیں کر سکتا جو بہ پک وقت کائنات میں طاری و ساری بیہی ہو اور آس سے ماواراء بھی جیسا کہ اپل منہب کا ادعا ہے۔ وہ معروضی قدرود کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت اور مرضی سے اپنی اخلاقی قدریں خالیق کرتا رہتا ہے۔ آس کے خیال میں فلسفہ موجودیت پسندی "انسان پسندی" اس لیے نہیں کہ انسان فطرت کا مقصد غائب ہے بلکہ اس لیے ہے کہ انسان خود اپنی اخلاقی قدرود کا خالق ہے۔ وہ ایسے مقاصد کے حصوں کی کوشش نہیں کرتا جو خارج سے آس کے سامنے رکھے جائیں بلکہ وہ انہیں حسب مرضی منتخب کرتا ہے۔ وہ اپنے پر فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ بھی

ذیں۔ داری اس کے حزن و ملال کا پاعت بن جاتی ہے۔ سارتر کے نفیان میں کسی قسم کی ازلی و ابدی صداقتوں کے نیچے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رونز نے کہا ہے۔ "موجودہ بست میں علم کی قدر و قیمت کسی قسم کی ازلی و ابدی صداقت کی مناسبت سے معین نہیں ہوتی بلکہ اس کی حیاتیاتی قدر سے معین ہوتی ہے جو سورور میں موجود ہو۔"

سارتر کی نفیانیات میں خود مرکزیت کا تصور ابھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی شخص کے طرز عمل سے آس کے ذہنی واردات کا اندازہ لکانا ناممکن ہے۔ ہم دوسرے لوگوں میں بھی اپنے آپ ہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہر شخص ذہنی کرب میں مبتلا ہے سارتر کے خیال میں عشق و محبت مستقل محرومی کا نام ہے اور محبت آس احساس تنهائی کو دور کرنے کی ناکام کوشش ہے جس کا ہر شخص شکار ہے۔ عاشق اور محبوب اپنے آپ کو ایک دوسرے کے وجود میں ضم کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دو یہکہ و تنہا دل جو مستقل یہکہ، و تنہا یہی کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔

سارتر کا 'فریب نفس' کا نظریہ بڑا معنی خیز اور دلچسپ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ ایک ایسی مثال دیتا ہے جس سے فرمایا موجودہ بست کے دوسرے اصول بھی آجاگر ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے ایک عورت ہے جو پہلی بار ایک مرد کے ساتھ باہر جانے پر آمادہ ہوتی ہے۔ یہ عورت اپنے نئے دوست کے اصل مدعماً سے بخوبی واقف ہے اور جانتی کے کہ وہ کس غرض کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے لیکن وہ جان بوجہ کر اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا کر لیتی ہے کہ اس مرد کا روپیہ نہایت مہذبانہ اور شائستہ ہے اور وہ تو محض آس کی دلچسپ باتیں سنتے کے لیے آس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ آسے کسی شے کی تمنا نہیں ہے۔ اتنے میں وہ مرد آس عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے۔ عورت سب کچھ جاننے کے باوجود اپنا ہاتھ نہیں کوہینتی۔ اس وقت یہ عورت مختمار مطلق ہے کہ جو فیصلہ چاہے کرے۔ وہ آس مرد کے ساتھ باہر جانے سے انکار کر سکتی ہے لیکن انکار نہیں کرے۔ وہ آزاد ہے لیکن آس کے دل کی تھیں آس شخص سے مستفید ہونے کی آرزو موجود ہے۔ یہ سوچ کر کہ دراصل وہ شخص آس کا دلی احترام کرتا ہے۔ وہ حقیقت سے ماؤراء ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں موجودہ بست کے تین لازمی عناصر دکھانی دیتے ہیں۔ ایک خاص صورت احوال جو فیصلہ طلب ہے۔ فیصلہ کرنے میں آزادی اور اختیار اور حقیقت سے ماؤراء ہونے کی خواہش۔ ماؤرانیت کی اس حالت میں وہ حقیقت سے بالاتر ہو جاتی ہے اور آس کا ہاتھ جو مرد نے تھام رکھا ہے ویس رہتا ہے اور سپردگی کی حالت میں ناوجوڈ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح عورت کی شخصیت کے دو پہلو سامنے آ جاتے ہیں حقیقت اور ماؤرانیت کی آرزو۔ اور یہ کارفرمانی خود فریبیں کی ہے۔ اس کے بعد جو فیصلہ بھی وہ کرے گی وہ آزادانہ ہو گا اور اس کی ذیں داری خود آس پر عائد ہو گی۔

"وجود و عدم" کے مطالب یا ان کرنے ہوئے ہم سارتر کی منفی مابعد الطبیعتیات

کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس منفی مابعد النفعیات سے جو اخلاقیات منفرع ہونی وہ وضاحت طلب ہے۔ سارتر کے پروآس کے قدر و اختبار کے نظریے سے بڑے متاثر ہیں۔ سارتر نے کہا ہے کہ کامل آزادی کا تصور ہی اس کی اخلاقیات کی اساس ہے۔ اس کے الفاظ میں۔

"میری آزادی ہی قدروں کی واحد بنیاد ہے جو توکہ میں ایسا وجود ہوں جس کے باعث قادرین موجود ہیں نہذا اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے کہ میں ایک نظام اقدار کو اپناوں یا دوسرے سے واسطہ رکھوں۔ قدروں کی موجودگی کی واحد اساس ہونے کی بنا پر میرا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے اور میری آزادی یہ معلوم کر کے آزادی سے دوچار ہوئی ہے کہ یہ قدروں کی ایک ایسی بنیاد ہے جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے"۔

یہ بات موجب حیرت ہے کہ آزادی کا وہ تصور جس کی اپنی کوئی بنیاد نہ ہو قدروں کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے۔ سارتر کا آزادی کا تصور منفی ہے یعنی ایک خاص صورت احوال میں "ند" کہنے کی آزادی۔ کوئی منفی تصور کسی نظام اقدار کی بنیاد نہیں بن سکتا کیوں کہ اس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوئی۔ بنیاد تو صرف مشتبہ ہی ہو سکتی ہے جیسے مثلاً عدم وجود کی بنیاد نہیں بن سکتا بلکہ صورتی حسن کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ سارتر کا یہ اخلاقیات بیوتوں آن مقدمات کے باعث ہوا ہے جن کا ذکر سموں دی یووارٹ نے "اہال کی اخلاقیات" میں کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ کہتی ہے کہ سارتر کا فلسفہ اہال کا فلسفہ ہے وہ زندگی کا خواہاں ہے لیکن یوت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ وجود کی تلاش میں سر گرم ہے لیکن ناوجود سے دوچار ہے۔ وہ خود موضوع ہے لیکن دوسروں کو اپنا معروض بنانا ہے اور خود آن کا معروض بن جاتا ہے۔ اس صورت احوال میں آزادی بی واضح صورت میں سامنے آتی ہے۔ پر شخص آزاد ہے اس مفہوم میں کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں موجود پاتا ہے۔ آزادی ہی تمام قدروں کا تمام معنویت کا مبدأ ہے اور یہ موجودگی کا واحد جواز بھی ہے۔ آزادی تمام اخلاقی قبروں کو جذب کر لیتی ہے اور خود اخلاق کا بدلتا بن جاتی ہے۔ یہ، فیصلے ایک خاص فرد خاص صورت احوال میں کرتا ہے۔ بد قسمتی سے یہ آزادی خود مہمن اور لغو بن جاتی ہے۔ سارتر کچھ زیادہ ہی آزادی کا خواہاں ہے۔ وہ نہ صرف داخلی اور خارجی اسباب سے آزادی چاہتا ہے بلکہ آن معروضی قدروں سے بھی آزاد رہنا چاہتا ہے جن کو خود اس نے خلق نہیں کیا۔ وہ آن لوگوں کی تضعیک کرتا ہے جو معروضی قدروں پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے خیال میں حقیقتی انتخاب آسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی قادرین خود تخلیق کرتے ہیں۔ اس طرح سارتر کے نظریے میں کسی اخلاقی نظریے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص خلا میں سانس نہیں لے سکتا۔ پر انتخاب اس امر کا منفاذی ہوتا ہے کہ میں ۱ کے

بجائے ب کا انتخاب کروں اور یہ انتخاب بذات خود معروضی قدر و کے وجود کا اثبات کرتا ہے۔ ہائی مان نے سچ کہا ہے کہ حقیقی آزادی خاص اخلاقی حدود میں رہ کر دوسرے لوگوں کے علاقوں کی روشنی میں اتنے کسی فعل کی ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہے۔ کوئی انتخاب اس لیے حقیقی نہیں ہے کہ بد کوئی ذات کرتی ہے بلکہ اس لیے حقیقی ہے کہ اسے کسی اخلاقی دستور کے حدود میں رہ کر کسی اخلاقی معیار کے مطابق کیا جاتا ہے انسان معاشرہ کسی نہ کسی اخلاقی دستور کے بغیر باقی و برقرار نہیں رہ سکتا۔

ساتھی اخلاق انسانی نقطہ نظر سے سہمیل اور لغتہ ہے۔ جس آزادی پر یہ مبنی ہے وہ وحش و بائیم ہی کو میسر آ سکتی ہے۔ انسان تو معاشری علاقوں اور قوانین کا پابند ہو کر ہی آزاد رہ سکتا ہے۔ جنگل کے وحش بھی صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں کہ وہ اپنی جبلتوں کی قید میں ہیں۔ انسان "مطلقاً" آزاد ہو گا تو وہ جذبہ و جلت کا غلام بن کر رہ جائے گا کہ پر وقت وقی جذبے کی تشفی میں کوشش رہے گا۔ اسی طرح جب ہر شخص اپنی اخلاقی قدریں خود تخلیق کرے گا تو اخلاق کا کوئی معیار ہی باقی نہیں رہے گا۔ اخلاق کا معیار لازماً معروض میں ہو گا ورنہ وہ معیار ہی نہیں رہے گا "موضوعی اخلاقیات" کا کوئی معیار نہیں ہو سکتا منطقی لعاظ سے بھی موضوعی اخلاق کا تصور کرنا مشکل ہے۔ موضوع ا کے لیے ب معروض بن جاتا ہے۔ اسی طرح موضوع ب کے لیے موضوع ا معروض بن گیا۔ اس صورت میں سب موضوعات کی اخلاقی قدریں کسی نہ کسی کے لیے معروضی ہی ہوں گی۔ لہذا موضوع کی اخلاقی قدریں کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ مزید براں قدر کے لیے استقلال و استقرار لازم ہے۔ ہماری کوئی پسند آس وقت قدر بننے کی جب وہ کچھ عرصے کے لیے۔ ایک ساعت ہی کے لیے سہی۔ مستقل طور پر باقی رہے گی۔ لیکن جب موضوع کے گریزان جذبات کے ساتھ ساتھ اس کی پسند بھی تخلیق ہوئی رہے گی اور متى رہے گی تو وہ قدر نہیں کھلانے گی پسند ہی کھلانے گی۔ اس طرح ساتھی اخلاقیات میں قدر کا وجود ہی ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس شے کو وہ اخلاق کا نام دیتا ہے فی الاصل وہ ہے راہ روی ہے جو عملی دنیا میں کجریوی کا پیش خیمد ثابت ہوئے ہے۔ ساتھی اخلاقیات میں بھی اس کی مابعد الطبیعیات کی منفیت اور سلبیت نکایاں ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آزادانہ انتخاب پیشہ کرب ناک ہوتا ہے۔ انسان کے کندهوں پر آزادی کی بھاری صلیب رکھ دی گئی ہے جسے وہ آنھائے آنھائے بھرتا ہے۔ آزادی لعنت ہے عذاب ہے۔ ساتھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی خاص صورت احوال میں حقیقی انتخاب کر کے دلی سرت سے اپنی بھرہ باب ہو سکتا ہے۔ اس کی خشونت امیز کلپت اور جارحانہ سنک میں کرب ہے۔ دہشت ہے۔ عذاب ہے درد ہے دکھ ہے۔ اس میں سرت۔ آسودگی اور طائفت کا

کوئی وجود نہیں ہے۔

موجودیت کا نظریہ ہم موضوعیت^۱ کا ہے جس میں معروض کا وجود محض اضافی مفروضے کا ہے۔ فردیت ان موضوعیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ فرد ہے جا طور پر اپنے آپ ہی کو حق و باطل اور خیر و شر کا معیار سمجھنے لگتا ہے۔ جو شے اس کے لیے حق ہے وہی حق ہے جو شے اس کے لیے شر ہے وہی شر ہے۔ سارتر کی اختلافیات کی طرح اس کے دوسرے فلسفیانہ عقاید میں بھی یہی قریبی کار فرمایا ہے اور اس نے اپنی ہمہ موضوعیت کے تمام منطقی نتائج بھی قبول کر لیے ہیں۔

سارتر کا اجنبیت کا تصور فردیت ہی کا پروردہ^۲ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ سے اجنبیت کا مستثنہ صنعتی انقلاب کے بعد شہروں میں رہائش اختیار کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ کلوں کے استعمال سے انسانی رشتے معروف ہو گئے ہیں اور انسان پہلے سے کہیں زیادہ اس وسیع اور بے کران کائنات میں اپنے آپ کو تنہا^۳ ہے اس اور بے چارہ محسوس کرنے لگا ہے۔ فطرت سے اس کا جذباتی تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ سارتر کے یہاں فرد کا اپنے آپ سے یکانگی کا احساس زیادہ کرب ناک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرد جماعت کے دباو کی تاب نہ لا کر اپنے آپ سے بیکاہ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کافکا اور دوستوفسکی کے ناولوں میں ایسے کردار ملتے ہیں جو نہ صرف اپنے آپ کو غریب شہر محسوس کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ سے بیکاہ بھی ہیں۔ موجودیت پسند ادباء میں کامیو کے "اجنبی"^۴ کا کردار میورسالٹ غریب شہر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ میورسالٹ ایک کارک ہے جو محرومی کی زندگی گذارنے کے بعد اپنی موت پر اپنے اصل جو پر مردانگی سے روشناس ہوتا ہے۔ فرد کے احساس تنهائی کا باعث میکانکیت کو قرار دیا جاتا ہے جس کا نتیجہ وہ قلبی اور حرستی جمود ہے جو انسان ربط و تعلق کے فقدان اور جذباتی محرومی کا نتیجہ ہے۔ نظر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ یکانگی میکانکیت کی نہیں بلکہ فردیت کی پیداوار ہے۔ میکانگی معاشرے میں فردیت نے جس تنهائی اور محرومی کے احساسات کو جنم دیا ہے وہ سرمایہ دارانہ معاشرے کی زائیدہ ہے جس میں ہر شخص ذاتی مقاد کی پرورش میں کوشش ہوتا ہے۔ اور ذاتی مقاد کی خاطر اجتماعی مقاد کو ہاؤں تلے روندے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتا۔ یہی خود غرضی اور قساوت قلبی اپنی ذات سے یکانگی کا اصل سبب ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے کے مفکرین یہ کہہ کر کہ اجنبیت میکانگی معاشرے کا لازمی نتیجہ ہے لوگوں کی توجہ اس سلبی فردیت کی طرف سے بیٹھانا چاہتے ہیں جو سرمایہ دارانہ معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہے اور جس نے معاشرے میں انسان بمندردی اور دلسوزی کے جذبات کچل کر رکھے

دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مرض کا مدارا اجتماعیت میں مخفی ہے۔ جب فرد آدمی اس بات کا بقین ہو جائے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے اُس کی ذات ہی کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بہبود کو تقویت ہوگی تو وہ اجنیت، محرومی اور احساسی جمود سے محفوظ رہے گا خواہ وہ ساری عمر کوون سے کم لیتا رہے۔

انہی آپ سے یہ کانکنی کا انعام لغوت پر بوتا ہے کیون کہ جماعت سے قلبی رابطہ برقرار رکھنے ہی سے فرد کی زندگی میں معنویت ایدا ہوتی ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ ہر شے لغو ہے بے معنی ہے اور یہ بات ہر لحاظ سے ہر پہلو سے وجود پر صادق آتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہو گا کہ آخر وہ کون سی اساس ہے جس کی بناء پر ہم کسی شے کو باعثی یا بے معنی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ اساس موضوع سے خارج میں ہے تو وہ لامحالہ معروضی ہوگی جو سارتر کی پسند موضعیت کے منافی ہے اور اگر وہ اُسامن خود موضوع میں ہے تو موضوع کا ایک حصہ ہونے کے باعث موضوع اُس کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں اور اگر لئے سکتے ہو تو وہ اپنا معروض بن جائے گا جو محال و منتفع ہے۔ سارتر جو ہر شے کو مہمل اور لا یعنی سمجھتا ہے اس کے انہی فلسفے کو کیسے باعثی سمجھنا جاسکتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر آنر آسٹ "اہال کا فلسفی" کہتے ہیں۔ زندگی کو لغو اور وجود کو بے معنی سمجھنے سے انہی آپ سے یزاری اور نفرت کا لاحق ہو جانا قدری بات ہے۔ اس کیفیت نے سارتر میں امتلاکی صورت اختیار کر لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بے کیفیت اور اتھا امتلاک کی کیفیت میرے تمام مشاہدات و تجربات میں موجود رہتی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں:

"ہمیں امتلاک کی اصطلاح کو استعارہ قرار نہیں دینا چاہیے جو جسمانی نظرت انگریزی سے لیا گیا ہے۔ اس کے بر عکس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس امتلاک کی بنا ہی پر تمام خصوصی اور تعبربانی امتلاک۔ جو کئی مٹے کوشت، تازہ خون، فضلہ وغیرہ کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے اور ہم قے کر دیتے ہیں۔"

سارتر کی خرد دشمنی اور قنوطیت کا سبب بھی فردیت ہے۔ خرد دشمنی کی روایت کیرک گرد کے ساتھ موجودیت میں داخل ہوئی۔ کیرک گرد نے کہا تھا کہ اسے عقل و خرد کی خلافت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ موضوعیت ہو یا فردیت رومانیت ہو یا مسیحی موجودیت ان میں آزادی" مطلق کا جو تصور ہیش کیا جاتا ہے وہ عقل و خرد کی کار فرمائی کو قبول کرنے سے باقی نہیں رہ سکتا کہ عقل و خرد انسان جیلتون پر ہابندیان عائد کریں گے یہ ایک بسلیئی حقیقت ہے کہ انسانی تمدن۔ ریاست۔ قانون بلکہ خود انسانیت عقل و خرد کی دست بخوردہ ہے۔ انسان اپنی جیلتون پر عتل و خرد کی گرفت مضبوط کر کے انہیں تعمیری راپوں پر نہ موڑ دینا تو آج بھی وحوش کی طرح جنکلؤں میں بھٹک رہا ہوتا۔ انسان کے جذبات اور جیلیں فوری تشفی کی متناسبی

قلبی رابطے کی توجیہ کرنے سے قاصر ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو معروض میں تبدیل کر دبنا چاہتے ہیں گویا انسانوں کا باہمی رابطہ لامحالہ کشمکش اور نزاع کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ان حالات میں دوستی، رفاقت اور محبت ہے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سارتر کے بقول ہر شخص دوسرے شخص کو معروض میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا معروض بن کر رہ جائے گا اور موضوع کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ نظریاتی پہلو سے سارتر کی موضوعیت میں معروض کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن عملہ ہر شخص کے معروض میں بدل جانے سے اس کی ہمہ موضوعیت باقی نہیں رہے گی۔ ہر صورت اسی نظریے کے تحت سارتر نے دوستی اور عشق و محبت سے انکار کیا ہے۔ ”وجود و عدم“ میں کہتا ہے کہ انسانوں میں رفاقت، دوستی اور عشق و محبت کا رابطہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ دوسرا آدمی جو خارج سے میری طرف دیکھتا ہے اس کے لیے میں معروض ہوں شے ہوں۔ میری موضوعیت اپنی تمام آزادی کے ساتھ اس کی نگاہ پر منکشف نہیں پوکتی اس لیے وہ مجھے شے میں بدل دیتا ہے لہذا بقول سارتر عشق خاص طور پر مرد عورت کا عشق ایک مستقل کشمکش ایک مسلسل پیکار میں بدل جاتا ہے۔ عاشق اپنی محبوبہ سے وصل کا خواہاں ہوتا ہے۔ محبوبہ کی آزادی جو اس کی نظرت کا اصل جوپر ہے عاشق کی گرفت میں نہیں آسکتی اس لیے عاشق اپنی محبوبہ کو وصال کی خاطر شے میں تبدیل کر لیتا ہے اور عشق اذیت کوشی اور اذیت پسندی کے درمیان گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ اذیت کوشی میں میں دوسرے کوشے میں بدل دیتا ہوں جس پر میں اپنی مرضی کے مطابق قابو ہانا چاہتا ہوں۔ اذیت پسندی میں میں خود ایک شے بن جاتا ہوں تاکہ دوسرے کو اپنی گرفت میں لے کر آسے اس کی آزادی سے محروم کر دوں۔ امن طرح عشق عورت اور مرد کے درمیان کشمکش اور پیکار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تصور سارتر کے اُسی عقیدے سے واپس ہے کہ انسان علاقت کی دو ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں اذیت کوشی اور اذیت پسندی۔ معروف معنی میں اس کے ناولوں اور سماں میں عشق و محبت کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور ان میں انتہائی سرد سہری اور سرد دل کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ سدومیت، اذیت کوشی اور اذیت پسندی کا ذکر اس نے ہر جوش انداز میں کیا ہے۔ اس کے ناول ”آزادی کی راہیں“ کا ایک کردار نینیل سدویں ہے جسے اپنی کجری کا بڑا تlux احساس ہے۔ وہ اپنے اعضا نے تناسل کو قطع کر کے سدومی ترغیبات سے نجات ہانا چاہتا ہے لیکن چہرے کی ایک بھنسی کو اُسترے سے کلاٹ کر رہ جاتا ہے۔ ہر وہ اپنی ہالتو ہلیوں کو دریا میں ڈبو کر اذیت کوشی کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ آخر وہ

ہوئے ہیں اس لیے عقل کی ہابندی پیشہ ان پر کامتی ہے۔ عقل کا لغوی معنی رسی کا ہے جو مثلاً سر کش آونٹ کے کھٹکے پر باندھ دی جانے۔ ظاہر ہے کہ کامل قدر و اختیار کے نظریے میں جیسا کہ سارتر نے پیش کیا ہے عقل و خرد کا وجود ناگوار گزرسے گا۔ سارتر کا ادعا ہے کہ حقیقت جذباتی اور ارادی ہی ہوئے ہے۔ کویا سارتر فلسفے کی دنیا سے جو عقل استدلال کا خالصہ ہے اسے جلاوطن کر دینا چاہتا ہے لیکن ستم طریقی یہ ہے کہ دوسرے خرد دستمنوں کی طرح عقل و خرد کی ہے مانگ اور لا حاصلی کے ثبوت میں جو دلائل سارتر نے دیے ہیں وہ بھی خالصتاً عقلیاتی اور منطقی ہیں۔ وہ استدلال عقل سے کرتا ہے اور حقیقت کو گریزان جذبات و واردات میں تلاش کرتا ہے۔ دوسرے موجودیت پسندوں پر یہ فکری تضاد منکش ہو چکا ہے چنانہ کارل جاسپرز اور جبریل مارسل موجودیت پسند فلسفی کھلانا پسند نہیں کرنے بلکہ عقلیت پسند کھلانے پر اصرار کرتے ہیں۔ کارل جاسپرز لکھتا ہے۔

”میں چاہتا ہوں کہ آج سے میرے فلسفے کو عقلیاتی فلسفہ کہا جائے کیوں کہ فلسفے کی اس اساسی خصوصیت پر زور دینا ضروری ہے۔ عقل و خرد کا خاتمہ ہوا تو پرشے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شروع ہی سے فلسفے کا یہ کام رہا ہے اور اب بھی اس کا منصب بھی ہے کہ عقل استدلال کا مقام بحال کیا جائے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔“ سارتر کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے منی ہے۔ عفونت ہے سیال غلامات ہے جو بتتے ہتے جم گئی ہے۔ انسان دنیا میں تنہا ہے۔ اس کی آزادی اس کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ خدا مر چکا ہے۔ کوئی اخلاقی قانون نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سارتر نے انسان کو اپنی زندگی سے متغیر اور اس دنیا سے بیزار کر دیا ہے۔ وہ ذاتی کرب اور دبشت کو عمومی رنگ دے کر انہیں مابعدالطبعیاتی صفاتوں کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ ہر شخص جانتا کہ انسان فانی ہے اور زندگی ہے بقا ہے لیکن ہر وقت فنا اور ہے نباتی کا رونا روئے سے زندگی کے مسائل حل نہیں ہو جاتے نہ استلا کی کیفیت انسان کو تلغیح حقائق سے مذاہمت کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جو شخص سارتر کی طرح زندگی کو ”متعفن غلامات کا ذہیر“ کہے گا وہ اس کی سرتوں سے کیسے بھرہ اندوڑ ہو سکتا ہے۔ سارتر اور اس کے ہمتوذہ کی قبولیت کے باوصف اس دنیا میں فنا اور موت کے متنلاطے ہونے سایوں تلے مسرو پیتناً موجود ہے۔ انسان مکروہیات زمانہ کے باوجود مطالعہ، تہذیب نفس، فنون لطیفہ، عشق و محبت، ایثار نفس اور انسان دوستی میں سچی سرتوں سے بھرہ باب ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ سارتر کی فردیت کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان ذہنی و

میتو کی داشتہ مارسیل سے جو حاملہ ہو چکی ہے نکاح کی بیش کش کرتا ہے تاکہ اُس کے آئے آسکے - ڈینیل کا یہ فیصلہ المناک ہے کیون کہ فی الحقیقت وہ عورت سے متغیر ہے اور انہی آپ کو سزا دینے کے لیے مارسیل سے نکاح کرنا چاہتا ہے - اس طرح سارتر نے نکاح کے ادارے کی تذلیل کی ہے - یہ مسلم ہے کہ سارتر خود ہم جنسی رجحان رکھتا ہے - اثرینٹ کے ڈاکٹر پیٹر ڈیپسی کے خیال میں سارتر لارا کیل کی بندر گہ کے دوران قیام میں ہم جنسیت کا شکار ہوا تھا کیون کہ وہاں کے جہاز رانوں میں پہلے علت عام تھی - ہر صورت ڈینیل کے کردار میں سارتر کے اپنے ہم جنسی رجحان کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے - وہ ہم جنسیت پر فلسفہ موجود ہے کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے جیسا کہ ڈینیل کے احوال سے ظاہر ہے - ڈینیل ایک نو خیز لڑکے فلپ کو اپنے فلیٹ میں لے جاتا ہے اور آسے یہ تعلیم دے کر کہ وہ ہر طرح سے آزاد ہے آسے اپنی مددوی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے -

”فلپ نے پوچھا ”تم مجھے آزادی کا سبق کیسے دو گے؟“
ڈینیل کہنے لگا ”میں چاہیے کہ لا آبیانہ انداز میں اس آزادی کا آغاز کریں اور تمام اخلاقی قدروں کو دھتنا پتا دین - کیا تم ایک طالب علم ہو؟“

”ہاں — تھا“

”قانون؟“

”نہیں — ادبیات“

”یہ تو اور بھی اچھا ہوا - اب تم میری بات سمجھو لو گے - باقاعدہ منظم شبہ!
سمجھیے کہ نہیں؟ ران بو کا ارادی نراج - ہمیں چاہیے کہ کامل بربادی کا عمل شروع کریں مخفی زبان سے نہیں بلکہ عمل سے جو کچھ تمہارے ذہن میں دوسرے لوگوں سے اخذ کیا ہوا موجود ہے وہ سب دھوکا بن کر آڑ جائے گا۔“
اس طرح مطلق آزادی کے نام پر فلپ کی تطہیر فکر کر کے ڈینیل آسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے -

سارتر کے قصوں میں جا بجا اذیت کوشی اور اذیت پسندی کے مناظر دکھائی دیتے ہیں ”آزادی کی راہیں“ میں ایک نوجوان لڑکی آنوج میتو کے سامنے اپنے ہاتھ میں چاقو کی اپنے بھونک کر آسے لہولہان کر لیتی ہے - اس کے ہاتھ سے آمدتے ہوئے خون کو دیکھ کر میتو اُس لڑکی میں بے بناء جنسی کشش محسوس کرتا ہے اور آسی چاقو سے اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے - آنوج اپنا خون آلود ہاتھ میتو کے لہولہان پاٹھے میں دے کر کہتی ہے -

”یہ لہو کی رفاقت ہے -“ اور سپردگی پر آمادہ ہو جاتی ہے -
”ناسیا“ کا کردار روکونٹن بھی چاقو سے اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے - اُس کا

خون نہیں سفید کاغذ پر گرتا ہے تو وہ کہتا ہے -

"یہ خوش آندیجیاں میں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔"

یہ اذیت کوئی اور اذیت پسندی سارتر اور اس کی دوست سموں میں قدر مشترک ہے - سموں کا پہلا ناول تھا "وہ قیام کرنے کے لیے آئی۔" اس میں ایک نوجوان لڑکی زبیر نامی سلکتے ہوئے سکریٹ سے اپنا باتھ جلاق ہے -

"زبیر نے جلتی ہوئی سرخ چنگاری اپنی جلد سے من کی۔ یک لخت آمر کے ہوتیوں پر مسکراہٹ منجمد ہو کر رہ گئی۔ یہ مسکراہٹ ایک ایسی عورت کی تھی جو تنہا ہو۔ پہکلی ہو۔ وصال کی از خود رفتگی میں ایک عورت کی عذاب ناک مسکراہٹ جسے دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔"

بھر زبیر کہتی ہے کہ ہاتھ جلتے وقت آس نے نفس پرور کیف محسوس کیا تھا۔ سارتر کو عورت سے نفرت ہے۔ اس کی تمثیلوں اور ناولوں میں عورتوں کے جو کردار دکھانی دیتے ہیں سب کے سب بے کیف اور نفرت انگیز ہیں۔ سارتر مردانگی، فعالیت، قوت اقدام، مہم جوئی کا مداح ہے اس لیے آسے عورت کی خود سپردگی، درماندگی، انفعالیت اور کمزوری سے کھن آئی ہے۔ وہ جنسیات کا ذکر بھی حقارت سے کرتا ہے اور فعل مقاہیت کو "بے کیف ورزش" کا نام دیتا ہے۔ اس کے جہاں "وجود بذات خود" فطرت (نیجر) ہے جو بار آوری، نسائیت اور سپردگی کی عین ہے۔ اس کے برعکس "وجود برائے خود" نفس انسان کا مذکر اور فعال پہلو ہے جس کی برکت سے انسان آزادانہ راہ عمل کا انتخاب کرتا ہے۔ سارتر اس مردانہ عنصر کا شیدائی ہے۔ وہ عورت اور نیجر دونوں کو گندہ سمجھتا ہے۔ برقرار ولی کا مقولہ ہے "عورت غلامت کا بلند ہے" یعنی خیال سارتر کا بھی ہے۔ اسی نفرت کے باعث آس نے اپنی تمثیل "فلانٹ" میں الیکٹریا کا قدیم نسوانی کردار بھی مسخ کر دیا ہے۔ یونانی روایت کی الیکٹریا خون آشام ہے جو نہایت بے رحمی سے اپنے باب کے قتل کا انتقام اپنی ماں اور آس کے عاشق سے لیتی ہے۔ سارتر کی الیکٹریا جیوبیٹر کے سامنے دو زانوں پر کریشیمانی کا اظہار کرتی ہے اور عفو کی طالب ہوئی ہے۔ سارتر عورت کے حسن و جمال کا بھی قائل نہیں ہے۔ ایک نقاد کے بقول وہ عورت کے حسن کی قدر نہ کر سکا کیونکہ وہ خود مردانہ و جاہت اور حسانت سے محروم تھا ایک پستہ قد بھینگا عورت سے متفرق نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ یہ بات ناقابل فہم نہیں ہے کہ آسے نیجر، زندگی، عورت، حسن و جمال اور موافقیت سے کھن آئی ہے۔ جو شخص فطرت اور عورت کے حسن و جمال اور عشق و محبت کا منکر ہو گا آس کی دنیا میں مسرت کیسے بار ہا سکتی ہے۔ چنانچہ سارتر کی دنیا دہشت، سنک، استہزا، اذیت، یاس، زبر خند اور کلبیت کی دنیا ہے۔

کیرک گرد، پسل اور ہائی ڈگر کے علاوہ سارتر کارل مارکس سے بھی متأثر ہوا ہے۔ آئیے مارکسیوں کے کئی اتفاق سے کامل اتفاق ہے۔ وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اشتہالت ہی میں نوع انسان کے تمام مصائب کا واحد حل مخفی ہے۔ مارکس

کی طرح وہ بھی ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی دعوت دینا ہے جس میں طبقائی تفریق کو ختم کر دیا گیا ہو۔ مارکسیوں کی طرح اس کا عقیدہ بھی ہے کہ اہل فکر و نظر کو عمل سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ اشتالیوں کی طرح وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ تشدد کے بغیر بورزا کا تسلط ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ طبقائی تفریق کو منانے کے لئے ضروری ہے کہ بے رحمی سے کام لیا جائے وہ مارکسیوں کے تاریخی مادیت کے نظریے پر بھی صاد کرتا ہے۔

”مجھے ہمیشہ سے اس بات کا پتین رہا ہے کہ تاریخ کی صحیح ترجیحی صرف تاریخی مادیت ہی پیش کر رہی ہے۔“

وہ بورزا کا ذکر حفارت سے کرتا ہے اور آنہیں ”بدررو کی غلاظت“ کہتا ہے۔ آس نے اشتالیوں کو اپنے ذہن و قلم کی پیش کش بھی کی تھی لیکن انہوں نے آس کی بعد موضوعیت کے باعث آسے ٹھکرا دیا اس کے بعد آس میں اور اشتالیوں میں بحث و جدل کا سلسہ شروع ہوا جس میں بقول ولیم برٹ سارتر ہی ”کو شکست ہوئی۔“ سارتر اور مارکسیوں میں سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ سارتر انسان کی کامل موضوعیت کا قائل ہے اور آسے ہر طرح سے فاعل مختار سمجھتا ہے۔ مارکسی نفیسیاتی جبر کو تو تسلیم نہیں کرتے لیکن معاشی جبر کے قائل ہیں اور انسان کو تاریخ کے جدیاتی عمل کے سامنے مجبور مانتے ہیں۔ ان کے ہاں آزادی کی تعریف ہے ”جبر کی پہچان۔“ مارکسی کہتے ہیں کہ محنت کشون کو برس اقتدار لانے کے لئے تاریخی مادیت کے جبن کو سمجھنا ضروری ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ جبر خواہ کسی صورت میں ہو انسیوں صدی کی سائنس سے یادگار ہے اور بورزا فلسفہ ہے۔ وہ کسی ایسے نظریے کو بقول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو انسانی قدر و اختیار میں حائل ہو۔ مارکسی کہتے ہیں کہ فرد کو اپنے اعمال میں کامل آزادی دینے کا مطلب عملی دنیا میں یہ ہے کہ بورزا کو استعمال کی کھلی چھٹی دے دی جائے۔ سارتر کے نظریے کو امریکہ اور بورپ کے سرمایہ دار مالک میں جو بعد گیر مقبولیت حاصل ہوئی ہے اس کا باعث مارکسیوں کے خیال میں سارتر کا کامل آزادی کا تصور ہی ہے جس میں امریکہ اور بورپ کے بورزا کو استعمال بالجبر کا فلسفیانہ جواز مل گیا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے مارکس اور سارتر کے انکار میں بنیادی اختلاف ہی ہے کہ مارکس معروض کو موضوع پر مقدم سمجھتا ہے جب کہ سارتر موضوع کو معروض پر مقدم مانتا ہے۔ ۱۹۶۰ع میں سارتر ”نو مارکسیت“ کے داعی کی حیثیت سے سامنے آیا اور آس نے تاریخی مادیت کے جبر اور فرد کی آزادی کے درمیان مقابمت کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کتاب ”انتقید عقل جدیاتی“ میں سارتر جدلی مادیت کی بنیادیں استوار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جس کی عمل صداقت کا وہ قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مارکسیت کو جو ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے علوم کا احاطہ بھی کر سکے اس کے ساتھ وہ

ظواہر پسندی کے نقطہ نظر کو بھی صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ آغاز کار اور موضوع بحث کا مواد مادی احوال نہیں شعور ہے۔ مارکسیت اپنے فلسفے کا آغاز حیاتیات اور عمرانی عناصر سے کرتا ہے۔ اگر فرد کے ذاتی شعور اور تجربے سے اپنے تجسس کا آغاز کرتا ہے اور فرد کی کامل آزادی کو بحال رکھنا چاہتا ہے۔ بالفعل اس کے سامنے سب سے اہم مستلزم یہ ہے کہ وہ مارکسیت میں جو مادی ماحول میں فرد کی تشرع کرتی ہے اور موجودت میں جو فرد کے حقیقی تجربے کو مقدم سمجھتی ہے کس طرح مطابقت پیدا کرے۔ نظر یہ ظاہر ان متصاد نظریات میں مقاومت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مارکسی ناقدین کہتے ہیں کہ انفرادی تجربہ خلا یا تنهائی میں ہیں ہو سکتا بلکہ انسان کو فرد بھی آسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ اجتماع میں شامل ہو۔ اجتماع سے آس کا رشتہ استوار نہ ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ "فرد" نہیں رہے گا بلکہ آسے انسان کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ اجتماع سے الک یا دیوتا رہ سکتے ہیں اور یا وحش۔ بنی آدم اجتماعی زندگی بسر کر کے ہی انسان کھلانے کے ستحق ہو سکتے ہیں۔ سارتر مارکسیت کی مادی جدلیات تحریک کا رخ اجتماعیت سے دوبارہ فرد کی جانب موڑ دینا چاہتا ہے۔ اور انفرادی شعور کو اجتماعیت کا مبدأ سمجھتا ہے۔ لہذا وہ انفرادی شعور کو تاریخی عمل کا خالق قرار دیتا ہے۔ جدلیات مادیت اور فرد کے شعور اور آزادی کے درمیان مقاومت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ عجیب و غریب نتیجہ اخذ کرتا کہ "جب و اختیار دراصل دونوں ایک ہی ہیں" اور آس کے خیال میں انہیں ایک سمجھتے ہی سے مارکسیت کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے گویا وہ مارکسیت کی نئی تعبیر انسانی قدر و اختیار کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے۔ جب و اختیار کو ایک سمجھنا اجتماع النقیضین ہے اور سارتر کے عجز فکر کی دلیل ہے۔

سارتر کے نئے فکری رجحان کا ذکر کرتے ہوئے بلیکم¹ نے کہا ہے کہ سارتر نے بورژوا معاشرے کی قدروں کے خلاف بغاوت کی ہے لیکن مارکسیوں نے بھی تو یہی کیا ہے۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مارکسیوں کے ہاں قدروں کا تعین عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہی عوامی بہبود آن کے خیال میں خیر و شر کا واحد معیار ہے بلیکم کہتا ہے کہ سارتر کی بغاوت تنزل ہیزیری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ بورژوا کی قدریں رد کر کے میں خود اپنی قدریں خلیق کرتا ہوں۔ اس موضوع پر سارتر اور مارکسیوں میں طویل مباحثے ہوئے ہیں۔ بنگری کے مارکسی پروفیسر لوکا کمس کے خیال میں موجودت پسندی بورژوا اہل فکر کی آخری مذبوحی کوشش ہے جس سے وہ جدلیاتی مادیت اور بورژوا کی مُردد مثالیت کے بین بین ایک تیرا مسلک اختیار کر کے مابعد الطبیعتیات کی دنیا میں اپنا مقام برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آس تاریخی اشتراکیت کو تسلیم کرنے سے بچ

جائیں جو آج کل سوویٹ روس میں نہوں حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے۔

سارتھ کی نئی کتاب "تنتیڈ عقل جدلیاتی" سے مفہوم ہوتا ہے کہ اب وہ مارکسیت کو اپنی موجودیت پر مقدم سمجھنے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مارکسیت ایک مستقل فلسفہ ہے جب کہ موجودیت بعض "نظام افکار" ہے۔ دونوں میں فرق کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ فلاسفہ ایسے تخلیقی نظام پیش کرتے ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تاریخ ایک قدم اور آگے نہ بڑھ جائے۔ وہ کہتا کہ ہمارے زمانے میں کارل مارکس نے ایسا ہی فلسفہ پیش کیا ہے۔ وہ مارکسیت کو جدید ترین فلسفہ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ہم اس سے آگے قدم نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے مقابلے میں وہ موجودیت کو ایک عطا یانہ نظام افکار سمجھتا ہے جو مارکسیت کو میں جذب ہونا چاہتا ہے۔ سارتھ کے ایک مارکسی نقاد جین سن نے مارکسیت کو سارتھ کے ذہنی تردودات کے حل کے بطور پیش کیا ہے اور سارتھ کو مبارک باد دی ہے کہ وہ دوبارہ مارکسیت سے رجوع لا رہا ہے۔

سارتھ کی تحلیل نفسی میں انسانی شخصیت کی کلید اُس کا آزادانہ انتخاب ہے۔ وہ فرائد کے لاشعور کو رد کر دینا ہے کیوں کہ اس سے جبر لازم آتا ہے اور جبر کسی صورت آسے منظور نہیں ہے۔ اس کے باہم ایک خاص صورت احوال میں کسی فرد کا رام عمل کا انتخاب شعور کی سطح پر ہوتا ہے اور شعوری انتخاب ظاہر ہے کہ آزادانہ ہی ہو گا۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے سارتھ کے نظر میں افراد کے درمیان کسی نوع کے ذہنی و قلبی رابطے کا کوئی امکان نہیں ہے حالانکہ دوسرے افراد سے رابطہ قائم کر کے بغیر کوئی شخص "ذات" کا مالک نہیں ہو سکتا نہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاسکتا ہے۔ سارتھ کی نفیات میں افراد کے درمیان رابطہ صرف کشمکش اور پیکار ہی کا قائم ہو سکتا ہے۔ موجودیاتی تحلیل نفسی واردات ذہنی کی تشريع کرنی ہے اختلال نفس کے معالجے سے اعتنا نہیں کریں۔ اس کی وجہ ظاہرا یہی ہے کہ فرائد اور رنگ لا شعور کے حوالے سے اختلال نفس کا علاج کرنے ہیں۔ سارتھ لاشعور کا منکر ہے اس لیے نفسیاتی علاج کو در خور توجہ نہیں سمجھتا۔

سارتھ نے کیرک گرد سے اس بے معنی دنیا میں یکہ و تھا انسان کی ذہنی و قابی عذاب ناک، کارل مارکس سے جوش عمل، اور پرسل سے شعور کی بحث اخذ کی ہے۔ کیرک گرد نے پیگن پر نقد لکھتے ہوئے کہا تھا کہ نفس الامر کی بحث لا حاصل ہے۔ انسان صرف اپنی موجودگی ہی سے اعتنا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کیرک گرد نے انسانی موجودگی میں احساس گناہ، دبشت اور کرب کا شمول کیا اور انہیں مابعد الطبيعی درجہ دے دیا۔ بانی ڈگر نے اپنے آستاد پرسل کی شعور کی بحث موجودیت میں شامل کی اور عدم کے حوالے سے اس کا راخ کیرک گرد کی مسیحی موجودیت سے لا ادری موجودیت کی طرف موڑ دیا۔ سارتھ بانی ڈگر اور پرسل دونوں

سے متاثر ہوا ہے۔ جرمتوں کے تسلط کے دوران میں فرانسیسی مہبان وطن کی تحریک مقاومت سے اُس نے حقیقی انتخاب اور ”نہ کہنے کی آزادی“ کے تصورات لیے ان پر ہائی ڈگر کے نظریہ عدم کا بیوند لگا کر موجودیت کو ملحدانہ نظریے کی شکل دی جس میں منفیت عنصر غالب سمجھی جا سکتی ہے۔ اُس منفیت کے باعث ابک طرف اُس کے افکار ہر کلبیت اور قنوطیت کا رنگ چھا گیا ہے اور دوسری طرف اُس کی ہمہ موضوعیت اور مشددانہ فردیت نے اُسے اخلاقی ہے رایہ روی۔ خرد دشمنی۔ مردم بیزاری اور عورت دشمنی کی طرف مائل کر دیا ہے۔ سارتر کی فلسفیانہ کائنات میں تشویش، دہشت اور بُرسردگی نفسیاتی عصبی المزاجی کی علاالتیں نہیں ہیں بلکہ، مابعد الطبیعیاتی حقائق بن گئے ہیں جس سے اُس کی ملحدانہ موجودیت کیرک گرد کی مسیحی موجودیت کے قریب تر آ گئی ہے۔ اور یہ حقیقت کھل کر سائنس آ گئی ہے کہ موجودیت خواہ وہ کوئی شکل و صورت اختیار کر سے بنیادی طور پر مذہبیاتی رنگ مزاج ہے فلسفہ نہیں ہے۔

سارتر کی موجودیت نے فلسفے سے زیادہ ادب و فن کو متاثر کیا ہے۔ فلسفے کی دنیا میں اُس کی کوئی نیات اور اخلاقیات باطل ثابت ہو چکی ہیں اور اُس کی ملحدانہ موجودیت کو مذہبیاتی موجودیت پسندی کی ایک معمولی منفی فرع سمجھا جاتا ہے البتہ اُس کے افکار نے معاصر ادب و فن پر گہرے اثرات پیدا کیے ہیں۔ نوجوان با غی ادبیوں اور شاعروں کے لیے اُس کے ان نعروں میں بڑی کشش ہے کہ زندگی بے معنی ہے۔ خدا مر چکا ہے۔ کوئی اخلاق قانون نہیں ہے انسان مختار مطلق ہے۔ دنیا غلافت کا ڈھیر ہے۔ عشق و محبت وابہم ہے۔ فطرت اور عورت میں حسن و جمال کا کوئی وجود نہیں ہے۔